

مشہور عالم جنتری

۱۹۳۶ء

کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے شائع کیا

سول ایجنٹس: گلاب سنگھ اینڈ سنز پبلشرز و تاجران کتب لاہور

ایڈیشن ۸۵۰۰۰

رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۲

کوہ ہمالیہ جہاں سونے چاندی اور لوہے کی کانیں ہوتی ہیں وہاں انکا ست لیکر
عنایت پروردگار سے سلاجیت پیدا ہوتا ہے ہم اپنے دشوار گذار مقامات سے عرصہ ۴۸ سال سے منگا کر طب وید ک کے
طریقے سے صاف کرتے ہیں جو کہ ہر موسم میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے ہزارہا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہیں

قوت بڑھانے والی ممسک مقوی مفرح کرنیوالی تمام اقسام کے جریانوں سلسل البول کی بیماری دور کرنیوالی علماء اور حکماء کی پسندیدہ

اصلی سلاجیت

اکسیر اعظم

اکسیر اعظم

حکیم ویدیا ڈاکٹروں نے متفق ہو کر تجربہ کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ دنیا بھر کی ادویات میں شدھ سلاجیت کی برابر ہر قسم کے جریانوں کو دفع کرنیوالی کوئی دوا نہیں جس کے استعمال سے بوڑھے جوان اور جوان طاقتور بنتے ہیں دو چار خوراک ہی فائدہ نظر آتا ہے ان کی سستی کمزوری ایکایک غائب ہو جاتی ہے کچھ دن استعمال کرنے سے ہر قسم کی [illegible] جریان اور کمزوری [illegible] احتلام ہونا پیشاب کے ساتھ [illegible] آنا بار بار آنا مثانہ کی کمزوری نامردی ناطاقتی ہر قسم کا درد تھکاوٹ، دماغی کمزوریاں [illegible] چکر آنا پاگل پن مرگی وغیرہ ہمیشہ کیلئے دور ہو جاتے ہیں اور رقیق و پتلی دھات کو گاڑھا کر دیتا ہے اس کے استعمال سے نیا خون پیدا ہوتا ہے دل دماغ اور جسم میں طاقت اور آنکھوں میں روشنی بدن میں پھرتی اور چستی چہرے پر رونق آ جاتی ہے ایک ہی خوراک میں پیشاب کی جلن کرک پیلی رنگت دور ہو جاتی ہے سات روز استعمال کرنے سے پرانے سوزاک کو آرام ہو جاتا ہے ایسے ہی خونی و بادی بواسیر کو دور کر دیتا ہے۔ ہر قسم کے ریاحی درد ہاتھ پاؤں کمر اور پسلی کا درد جسم کی ہر تکلیف کو اور ورم [illegible] بدن [illegible] پیٹ اور نس کی بیماری کو دور کر کے [illegible] طاقت اور اثر اس سلاجیت میں موجود ہے ٭ ہر سال کم سے کم ہر شخص ہماری سلاجیت کو ایک ماہ میں پانچ تولہ کھاتا رہے اور بچوں کو بھی کھلاتا رہے تو ہر قسم کی بیماریوں سے بچ کر موٹا تازہ اور تندرست رہیگا اور عمر بھی زیادہ ہو گی ترکیب استعمال چھپا ہوا [illegible] بھیجی جاتی ہے جو بلا قیمت بھیجی جاتی ہے اور قیمت بھی بغرض فائدہ عام و خاص بہت کم رکھی گئی ہے ٭

پانچ تولہ کی قیمت سوا دو روپے دس تولہ کی قیمت سوا چار روپے بیس تولہ کی قیمت آٹھ روپے محصول ڈاک پانچ آنے ۵
چالیس تولہ کی قیمت ساڑھے پندرہ روپے اسی تولہ یا سیر بھر کی قیمت تیس روپے - علاوہ محصول ڈاک ٭

ملنے کا پتہ:- مالک ہمالیہ ڈپو ہردوار یوپی

Proprietor Himalaya Depo
P.O. Hardwar U.P.

تصدیق (۱) ہماری سلاجیت [illegible] حکیم سید محمد قاسم علی صاحب [illegible] (۲) آل انڈیا آیورویدک مہامنڈل [illegible]

پنڈت گردھاری لعل
منجّم وجفّار سیالکوٹی لاہور کی

۲۳۵۵۵
۵۲۹۶۳
سہ ۲۲ م ع ج
UNIVERSITY LIBRARY ALIGARH
M.A.LIBRARY, A.M.U.
U23555
URDU STACKS

۱۹۳۶ء
مشہُور عالم جنتری

رجسٹرڈ نمبر ۱۰۰۳

جسے

پنڈت رگھناتھ داس جوتشی خلف
پنڈت گردھاری لعل منجّم وجفّار سیالکوٹی
مالک کارخانہ مشہُور عالم جنتری

و

مشہُور عالم پریس لاہور

نے

امرت الیکٹرک پریس ملیے روڈ لاہور میں باہتمام بابو دھرم چند بھارگو بی۔ ایس۔ سی چھپوا کر
کارخانہ مشہُور عالم جنتری لاہور
سے شائع کیا

علمِ جادو کی بے نظیر کتابیں

علم جادوگری کے شائقین آئیں۔ اور ان کتابوں کا مطالعہ کرکے دیکھیں۔ کہ اس علم کے متعلق ان کتابوں میں کیسے کیسے سربستہ راز کھول کر رکھ دیئے گئے ہیں۔ ہر شخص بلا مدد اُستاد ان کتابوں کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتا

جادوگروں کا گورو گھنٹال

دُنیا بھر کے جادوگروں کا بادشاہ

مُلک تبت کا زندہ جادو

ناظرین! آپ نے آج تک سینکڑوں جادو کی کتابیں دیکھی ہونگی لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں۔ کہ ہماری اس کتاب کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ اس کے لائق مصنف نے صدہا قلمی اور بوسیدہ کتابوں کے مطالعہ کے بعد اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اس میں صدہا قسم کے جنتر منتر تنتر وہ ایسے ایسے درج کئے ہیں۔ جو اپنی عملی تاثیر میں بے مثل ہیں۔ اور جن کی ہر فرد بشر کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ ترکیب نہایت آسان اور عام فہم ہیں کہ ہر شخص بلا کسی مشکل کے عمل کر سکتا ہے مفصل فہرست مضامین تو درج کرنے کی یہاں گنجائش نہیں البتہ مختصر طور پر آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ کہ اس کتاب میں ہمزاد کو قابو کرنے کے بے نظیر طریقے۔ ہمزاد کے مخفی راز۔ ہمزاد سے کام لینا۔ دور دراز کی خبریں چشم زدن میں منگوانا۔ بھوت پریت کو قابو کرنا۔ کسی کو مسخر کرکے اس سے حسب منشا کام لینا۔ دور دراز ملک کے تحائف گھر بیٹھے حاصل کرنا۔ ہزاروں کوسوں کی خبر ایک منٹ میں منگوا لینا۔ خلقت کی نظر سے غائب ہوکر سب حالات دیکھنا۔ ایک رات میں معشوق کی ملاقات کرنا۔ معشوق کو بذریعہ جنتر منتر و سحر کے زیر کرنا۔ مسمریزم کے مفصل بیان۔ بذریعہ مسمریزم امراض کا علاج۔ سر درد دور کرنے کا منتر۔ دشمنوں کو زیر کرنے کا طریقہ۔ گھر بیٹھے تمام دنیا کی سیر کرنا۔ علم ستارہ گان۔ علم کاشف سحر۔ علم قیافہ وغیرہ وغیرہ غرضیکہ صدہا اس قسم کے مضامین درج ہیں۔ کتاب کی خوبی دیکھنے سے معلوم ہوگی۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے اس کی قیمت مجلد صرف دو روپیہ (عار)

دیوتاؤں اور بھوت پریت جنات کو بس میں کرنا

اس کتاب میں تمام دیوتاؤں مثلاً ہنومان۔ بھیروں کالی دیوی اندر وغیرہ تمام قسم کے دیوتاؤں کو بس میں کرنا اور بھوت پریت جنات وغیرہ کو قابو کرکے ان سے ہر قسم کا کام اپنی مرضی سے لینا۔ ان سب کے مفصل طریقے۔ اور منتر درج ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے ہر شخص عامل بن کر ہزاروں روپیہ اس علم سے پیدا کر سکتا ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

بنگال کا جادو

ہر قسم کے جنتر منتر۔ سحر طلسمات درج ہیں۔ جو کہ نہایت پُرتاثیر ہیں قیمت صرف آٹھ آنے (۸ر)

سلیمانی جادو

جس میں ہر قسم کے تعویذ ہر مطلب کیلئے جنتر۔ گنڈے۔ جادو وغیرہ جو کبھی خطا نہ کریں۔ درج کئے گئے ہیں۔ قیمت صرف چھ آنے (۶ر)

رسالہ خواب

خواب کا نیک و بد نتیجہ ہر قسم کا درج ہے۔ قیمت آٹھ آنے (۸ر)

مُردہ رُوحوں سے بات چیت

مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو عالم ارواح سے بُلا کر اُن سے بات چیت و ملاقات کرنے کے خواہشمند اس رسالہ کو منگوا کر پڑھیں۔ قیمت ۱۲ر

مُلک مصر کا قدیمی جادو

مصر کا ملک جادوگری میں قدیم سے مشہور ہے۔ اس لئے ہم نے بڑی محنت سے بڑی بڑی پرانی کتابوں کو شامل کرکے ان میں سے یہ کتاب تیار کی ہے جس میں ہر مطلب کے جادو جنتر منتر درج کئے ہیں۔ جو کبھی خطا نہیں کرتے۔ غرضیکہ آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں چھپی پہلی مرتبہ ہم نے چھپائی ہے۔ اسکو ضرور منگوا کر فائدہ اٹھاؤ۔ قیمت صرف ۸ر

تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ پر لکھی ہوئی ہے



اس کو جاننے کا طریقہ ہم سے سیکھو انسانی ہاتھ میں جو لکیریں یعنی خط و خال ہوتے ہیں۔ وہ بے فائدہ نہیں ہوتے۔ ماہران علم پامسٹری کی اپنی محنت سے دیکھا ہر ایک شخص کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی تمام عمر کے حالات مثلاً عمر کتنے سال کی ہے و کس کس عمر میں بیماری یا تکلیف ہوگی؟ دولت کیسی ملیگی؟ شادی کب ہوگی؟ شادی ایک ہوگی یا زیادہ؟ اولاد ہوگی یا نہ؟ لڑکے لڑکیوں کی تعداد۔ روزگار۔ ترقی و تنزل کا زمانہ۔ بدقسمتی کا حال۔ نیک و بد چال چلن وغیرہ وغیرہ ایک نظر میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے جاننے کا طریقہ سنسکرت کے پراچین گرنتھوں۔ و زمانہ حال کی نئی امریکن و انگریزی تحقیقات کی مدد سے ہم نے اس رسالہ رازِ تقدیر میں درج کر دئے ہیں۔ اور اس میں ہر قسم کے ہاتھوں کے نقشہ جات درج کرکے ان کا مفصل حال لکھا ہے۔ اس کتاب کو ایک مرتبہ بھی نظر سے مطالعہ کرنے سے آپ پورے نجیب دان بن کر دوسروں کے تمام عمر کے حالات معلوم کر لینگے اس فن والوں نے لاکھوں روپیہ اسی کام کے ذریعہ پیدا کر لیا۔ آپ بھی محروم نہ رہیں ✦ جلد نہایت خوبصورت کپڑے کی بنی ہوئی ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنے (للعہ) محصول ڈاک علاوہ

ملنے کا پتہ۔ مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ۔ لاہور

جو چاہو گے وہی ہو جائیگا

منتر سدھی

زمانہ قدیم میں یوگی مہاتما منتروں کے ذریعہ تمام دنیاوی مشکلات کو حل کر دیتے تھے۔ تمام امراض کا دفعیہ۔ دشمنوں پر فتحیابی۔ نظر بد۔ سایہ۔ آسیب۔ جن۔ بھوت کا دور کرنا وغیرہ وغیرہ منتروں کے ذریعہ ہی ہوتا تھا۔ افسوس کہ انقلاب زمانہ کے ساتھ ہی یہ علوم نیست و نابود ہو گئے۔ ہم نے بڑی محنت و کوشش اور جنگلوں و پہاڑوں کو چھان بین سے بڑے بزرگ سن رسیدہ مہاتماؤں کی خدمت میں رہ کر بصد مشکل ان سینہ بسینہ رازوں کو حاصل کیا ہے۔ اور اب بغرض فائدہ رفاہ عام اس کتابی شکل میں چھاپ دیا ہے۔ ان کی سدھی کے لئے آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ کسی جنگل۔ قبرستان یا شمشان میں نہ جانا پڑے گا۔ بلکہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر ایک گھنٹہ روزانہ عمل کرنے سے چند یوم میں منتر سدھ ہو گا۔ منتر کے سدھ ہونے پر آپ تمام دنیاوی مشکلات کو چشم زدن میں حل کر لیں گے۔ سایہ۔ جن و بھوت۔ نظر بد وغیرہ کو پھونک مار کر اڑا دیا کریں گے۔ ایک نظر سے بے روزگاروں کے لئے روزگار اور ترقی کاروبار کا نظارہ ہوگا۔ دشمن۔ دوست اور دوست فرمانبردار ہو جائیں گے۔ بچھڑے ہوئے محبوب خود بخود قدموں پر گریں گے +

قیمت صرف ایک روپیہ معہ محصول ڈاک (عہ/)

ہمزاد سدھی

ہمزاد سدھی ایک ایسی چیز ہے جس کو قابو میں کر کے انسان اس سے ہر قسم کا کام لے سکتا ہے۔ اس کتاب میں ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی نہایت آسان ترکیبیں لکھی گئی ہیں۔ اس کو منگوا کر پڑھیئے۔ اور بلا خوف ہمزاد کو اپنے قبضے میں کر لیجئے۔ چشم زدن میں مشکل کام سر انجام دیجئے۔ ہزاروں کوسوں کی اشیا میوے پھل ہمزاد کے ذریعے منگوا لیجئے۔ دوسروں کے دلوں کے خفیہ بھید معلوم کر لیجئے۔ جن کو آپ چاہیں۔ اپنا مطیع و فرمانبردار بنا لیجئے۔ تمام دنیا کا حال گھر بیٹھے بذریعہ ہمزاد دیکھ لیجئے۔ غرضیکہ جو کام آپ چاہیں۔ اس غلام بیدام یعنی ہمزاد سے لیجئے۔ جلد منگوا لیں۔ ورنہ ختم ہونے پر دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قیمت معہ محصول ڈاک صرف ۱۲/

کرامات

وہ جادو۔ جنتر منتر وغیرہ جنکو آجکل کے لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں ان کو سائنس کے ذریعہ ثابت کر کے دکھلایا گیا ہے۔ جو چاہے آزما کر دیکھ لے۔ یوگ ابھیاس پرانایام کے اصول۔ قوت خیالی کے کرشمے۔ دوسروں پر اثر ڈالنا۔ فاصلہ پر خبر پہنچانا۔ روشن ضمیری۔ نظر بندی۔ غیبی اور دور کی چیزوں کو دیکھنا۔ تسخیر ارواح۔ روحوں سے کام لینا۔ چوری تلاش کرنا۔ جادو کے راز۔ علاج روحانی۔ بغیر دوا کے بیمار کو تندرست کرنا۔ مسمریزم کے قواعد علاج۔ بیکرن کے طریقے۔ عملیات تسخیر ہمزاد۔ اسم اعظم۔ سانپ بچھو کا زہر منتر سے دور کرنا اس کے علاوہ سینکڑوں کار آمد باتیں درج ہیں۔ قیمت صرف (۱۲/)

پتہ ملنے کا
مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس
بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

مسمریزم کے ۴ نایاب نسخے

پلانچٹ یعنی بے جان منشی



تجربہ بتلا رہا ہے کہ زمانہ حال کے عالمان مسمریزم نے اپنی عجیب ایجادوں سے ایک عالم حیرت میں ڈال دیا ہے وہ وہ باتیں جن کے وجود سے ہی کسی وقت انکار تھا یا جن کو لوگ بھوت۔ پریت کی کرامات سمجھا کرتے تھے یا جنہیں خیال کرتے تھے آج وہ تمام باتیں علم مسمریزم کی بدولت آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ آلہ جس کو پلانچٹ کہتے ہیں۔ ایک پر حسب ترکیب کچھ عرصہ مشق کرنے کے بعد اس پر ہاتھ رکھنے سے عامل دل کی مخفی باتیں اور ان کے نیک و بد انجام معلوم کر سکتا ہے۔ یہ آلہ مسمریزم کی ایک عجیب و غریب ایجاد ہے۔ اس کو منگوا کر اور کچھ دیر تک مشق رکھ کر قدرت کے عجائبات دیکھیں۔ قیمت معہ محصول ڈاک ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ/)

سلیمانی انگوٹھی ۱۲/

علوم نادرہ کے شائقینو! یہ انگوٹھی علم مسمریزم کے اصول پر تیار ہوتی ہے۔ جس کی زیادہ تعریف فضول ہے۔ صرف استقدر بتلا دینا ضروری ہے۔ کہ حسب ہدایت اس پر عمل کرنے سے عامل بذریعہ حصول مردہ روحوں سے ملاقات۔ گمشدہ چیزوں کا پتہ نشان۔ چوری گئی ہوئی چیز کے ملنے نہ ملنے کا حال۔ بیمار کی حیات و ممات کا پتہ معلوم کر سکتا ہے وہ اقالیم دور دراز کی ملاقات بیٹھا ہوا متبرک مقاموں کی زیارت۔ بچھڑے ہوؤں کو ملانے اور خفیہ رازوں کا پردہ اٹھانے کیلئے یہ انگوٹھی بڑا ہی کام دیتی ہے اور استقدر ہونے پر قیمت صرف معہ محصول ڈاک پانچ آنہ ۱۲/

قوت جاذبہ پیدا کرنیکا مقناطیسی آلہ

قیمت ۱۲/



علم مسمریزم کے شائقینو! اپنے خیالات کو ایک نقطہ پر جمع کرنے کی مشق کے واسطے یہ آلہ منگوا چند روز تک حسب ہدایت خلوت میں بیٹھ کر اس پر مشق کرنے سے عامل کے اندر کشش مقناطیسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ شخص مسمریزم کا عامل بن کر حیرت انگیز کرشمات و معجزات دکھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ قیمت ۱۲/ اور [illegible] ۱۲/

کراماتی آئینہ

شائقینو! یہ وہ کراماتی آئینہ ہے جس پر شخص حسب قاعدہ مشق کر کے ہر امر کی عقدہ کشائی کر سکتا ہے مفقود الخبروں کا پتہ اور گمشدہ چیزوں کا نشان بتلا سکتا ہے۔ عالم ارواح کی سیر اور غیبی چیزوں کی روحوں سے شرف نیاز حاصل کر سکتا ہے۔ اس آئینہ میں کوئی بھوت پریت بند نہیں لیکن علم مسمریزم کے نادر اصولوں اور یوگ فلاسفی کی ترکیبوں کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے جو اپنی مقناطیسی طاقت سے ہر شخص کو روشن ضمیر بنا کر مایوس المرادوں کو بامراد بنا دیتا ہے۔

قیمت معہ محصول ڈاک ایک روپیہ دس آنہ (عہ/)

پتہ ملنے کا:- دی مسمریزم اپریٹس کمپنی ماڈل ٹاؤن لاہور

صنعت و حرفت کی بے نظیر کتابیں!

جن کے مطالعہ سے ہزاروں بیروزگار لوگ کاروبار میں لگ گئے اور ہزاروں روپیہ پیدا کیا

ہر قسم کے صابن بنانا

ہمارا اس کتاب میں روزمرہ کے استعمال کے انگریزی صابن - کپڑا دھونے کے مختلف اقسام کے انگریزی صابن - ادویات کے صابن - [illegible] اور [illegible] سینکڑوں طرح کے صابن تیار کرنے کے نہایت سہل و آسان نسخے درج کئے گئے ہیں - ہر شخص خود بخود دیکھ کر ہر طرح کا صابن تیار کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے - اس میں تھوڑے سرمایہ کی ضرورت ہے - سو دو سو روپیہ ماہوار کمانا معمولی بات ہے - قیمت صرف آٹھ آنے (۸)

سونے کی چڑیا

یعنی صنعت، حرفت کے [illegible] کتاب [illegible] اس میں ہر قسم کے [illegible] [illegible] تیار کرنے کے نہایت آسان نسخے [illegible] قیمت ۱۲

ہر قسم کی سیاہیاں بنانا

یعنی ماسٹر آف انک

اس رسالہ میں ہر قسم و ہر رنگ کی سیاہیاں بنانے کی ترکیبیں مکمل طور سے درج کی گئی ہیں - لکھنے کی سیاہیوں کے علاوہ دیگر قسم کی سیاہیاں مثلاً کاپینگ پنسل کی سیاہی - [illegible] کی سیاہی - چھاپہ خانہ کی سیاہیاں - [illegible] جادو کی سیاہی جس کا لکھا ہوا کبھی نہ مٹے - [illegible] وغیرہ وغیرہ سینکڑوں نسخے آزمودہ درج ہیں - ہزاروں روپیہ پیدا کر سکتا ہے - قیمت ۱۲

جڑی بوٹیوں کے خواص

اس کتاب میں ہر قسم کی جنگلی جڑی بوٹیوں کی تصویریں - ان کے خواص - بوٹیوں کی شناخت کرنے کے لئے ان کے رنگ - بو - پھول - پتے کا بیان - مختلف زبانوں میں ان کے نام - پیدا ہونے کی جگہ - جس جس مرض کیلئے وہ کارآمد ہے اس کا بیان اور جو جو فوائد ان کے ذریعہ سے ہو سکتے ہیں ان کا مفصل حال درج ہے - ہر ایک حکیم و وید کیلئے اس کتاب کا پاس رکھنا لازمی ہے - قیمت صرف بارہ آنے (۱۲)

رفیق بے روزگاری یعنی لاکھوں روپیہ پیدا کرنے کا راز

اس کتاب میں لائق مصنف نے صدہا ہنروں کے آزمودہ اور مجرب نسخہ جات اس خوبی سے درج کئے ہیں کہ بیان سے باہر ہے - اگر آپ ان ہنروں میں سے ایک دو ہنر بھی مکمل سیکھ کر کام شروع کر دیں - تو تھوڑے ہی دنوں میں لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں - کتاب کیا ہے - صنعت و حرفت کا ذخیرہ ہے - اس میں فوٹوگرافی - گھڑی سازی - کاغذ سازی - دندان سازی - [illegible] بنانا - ہر قسم کی سیاہیاں تیار کرنا - ہر قسم کا انگریزی و دیسی صابن بنانا - [illegible] کا کام - کارچوب سازی - [illegible] سازی - انگریزی مٹھائیاں تیار کرنا - ہر قسم کے عطر - تیل - عرق - شربت - معجون - اچار - چٹنی - مربے بنانا - [illegible] کا کام - چمڑے کا سامان تیار کرنے کے طریقے - [illegible] کا علاج - [illegible] بنانا - پچاس بیماریوں کی ایک ہی دوائی کا کامل نسخہ - ایسے ایسے پانچ سو سے زیادہ ہنر اس کتاب میں درج ہیں - جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں - قیمت صرف دو روپے (۲ر)

بجلی ماسٹر باتصویر

آج کل ہندوستان میں بجلی کا کام روز بروز بڑھ رہا ہے - اس کام کے جاننے والے ہزاروں روپیہ کما رہے ہیں - اس لئے ہم نے لوگوں کے فائدہ کیلئے بجلی کے کام کے متعلق یہ کتاب نہایت محنت سے تیار کی ہے - اس کے مطالعہ سے ہر ایک شخص بجلی کے ہر قسم کے کام مثلاً مکانوں میں بجلی لگانا - بجلی کے پنکھے لگانا - بجلی کے پنکھوں کی مرمت کرنا - بجلی کی روشنی [illegible] - [illegible] بجلی کی روشنی کرنا - بجلی کے ذریعہ کمروں کو سردی کے موسم میں گرم کرنا - موٹر کار کی بجلی درست کرنا - بجلی کے پمپ لگا کر زمین سے پانی نکالنا - [illegible] وغیرہ وغیرہ آدمی خود بخود بلا امداد استاد کامل مہارت حاصل کر کے مکمل بجلی ماسٹر بن سکتا ہے - قیمت صرف دو روپیہ (۲ر)

رہنمائے عطاراں

اس کتاب میں ہر قسم کے عرق - شربت - معجون - گلقند - مفرح - یاقوتی اور دیگر ادویات کے تیار کرنے کی ترکیبیں درج ہیں - قیمت بارہ آنے (۱۲)

عطر سازی

اس رسالے میں ہر قسم کے خوشبودار تیل - لیونڈر - سنو - فیس کریم - ویزلین تیار کرنے کی ترکیبیں درج ہیں - قیمت صرف (۸)

انگریزی مٹھائیاں بنانا

اس کتاب میں ہر قسم کی انگریزی مٹھائیاں بنانے کے اصول مفصل طور پر درج ہیں - قیمت ایک روپیہ (عہ)

کامل حکیم

اس کتاب میں ہر ایک مرض کے نہایت پرتاثیر خاص خاص [illegible] مجربات جو بڑی محنت و کوشش سے بڑے بڑے لائق حکما اور وید صاحبان سے حاصل کر کے درج کئے گئے ہیں - ہزاروں مریضوں پر آزمائش شدہ نسخے جو کبھی خطا نہیں کرتے - آپ کو اس کتاب میں ملیں گے - قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

حلوائی کا کام

اس میں دیسی [illegible] ہر قسم کی مٹھائی بنانے کی ترکیبیں درج ہیں - جن کے مطالعہ سے آدمی لائق حلوائی بن سکتا ہے - قیمت آٹھ آنے (۸)

دستاویز نویسی کا استاد

اس کتاب میں ہر قسم کی دستاویزات - اشٹام - ہنڈی - رہن نامہ - بیعنامہ - وصیت نامہ - رسید - پرونوٹ - رسوم اسٹامپ کے متعلق وغیرہ وغیرہ اس خوبی سے درج کئے گئے ہیں کہ جن کے مطالعہ سے ایک معمولی لکھا پڑھا آدمی بھی کامل وثیقہ نویس بن جاتا ہے - تمام کاروباری لوگ - زمیندار - ساہوکار - تعلقدار وغیرہ اس کتاب کی ایک جلد ضرور اپنے پاس رکھیں - صدہا لوگ اس کتاب کی مدد سے اول درجہ کے عرضی نویس بن کر سینکڑوں روپیہ ماہوار کما رہے ہیں - قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

موٹر ڈرائیوری کا استاد

اس رسالہ میں ہر قسم کی موٹروں کا مفصل بیان - ان کے نقشے - پرزوں کے نام - موٹر مرمت کرنے کے طریقے - موٹر کو چلانے کا طریقہ - موٹر کو اوور ہال کرنا وغیرہ وغیرہ موٹر ڈرائیوری کے متعلق نہایت کارآمد ضروری باتیں درج ہیں - اس کتاب کو پڑھ کر ہر ایک شخص موٹر ڈرائیور بن سکتا ہے - اور موٹر مرمت کر سکتا ہے - غرضیکہ یہ رسالہ اس فن کا کامل استاد ہے - قیمت صرف دو روپے (۲ر)

فوٹوگرافی

اس کتاب میں فن فوٹوگرافی کا مفصل بیان ہے - تصویر اتارنے کے طریقے - پلیٹ اور فلم کو دھونا - پھر تصویر کو کاغذ پر اتارنا - تصویر کو چمک دینا - [illegible] کرنا - کیمرے کا مفصل حال - کیمرے کے نقص درست کرنا - ہر قسم کے ہینڈ و سٹینڈ کیمرہ سے کام لینا - فوٹوگرافی میں کارآمد ادویات کے نام - ان کو ملا کر کام میں لانے کے طریقے وغیرہ مفصل درج ہیں - اس کے مطالعہ سے آدمی مکمل فوٹوگرافر بن کر ہزاروں روپے کما سکتا ہے - قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

ملنے کا پتہ:- مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس بک سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

ملنے کا پتہ:- بابو شیام لعل جی ریٹن پریم بٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کی ہوئی

اپنے جیون کی پریم بٹی

آجکل ہمارے بہت سے بھائی ٹھیک دوا نہ ملنے کی وجہ سے خوفناک مرض کے شکار بن جاتے ہیں۔ بیچاروں کے پاس اتنی دولت کہاں؟ جو ڈاکٹروں کو فیس دیکر اپنی زندگی کی حفاظت کر سکیں، بیچارے جھوٹی سینکڑوں تعریفوں سے بھری ہوئی اشتہار بازی میں پھنسکر اپنی تندرستی و دولت دونوں کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی خیال سے اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کا خیال کرکے آپکو جلد از جلد جادو اثر دکھانے والا نسخہ بتاتا ہوں جس سے کہ میں خود صحتیاب ہوا ہوں ہمارے امیر و غریب سبھی بھائی بنا کر فائدہ اٹھاویں اور میری محنت کو کامیاب بنا دیں۔ یہ نسخہ لینے اور بہت تجربہ ہونے پر حاصل ہوا تھا۔ میں ایک زمیندار کا لڑکا ہوں۔ بری صحبت کی وجہ سے جریان و احتلام کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے تو میں نے ایک دو سال تک کوئی فکر نہ کی اور شرم کی وجہ سے کسی سے اپنا حال نہیں بتایا، تھوڑے عرصہ بعد اس جریان و احتلام کی بیماری نے خوفناک شکل اختیار کر لی۔ اب تو مجھے ہوش آیا اور علاج کرانا شروع کیا، کہاں تک لکھوں ویدوں، ڈاکٹروں حکیموں و بڑے بڑے نامی دواخانوں سے دوائیاں منگا کر استعمال کیں یہاں تک کہ جس نے جو دوا بتائی وہی میں نے کھائی مگر مرض گھٹنے کی بجائے بڑھتا ہی گیا۔ اور میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ مجھے اپنی اس حالت پر بڑا ہی رنج معلوم ہوتا تھا۔ یہی سوچا کرتا کہ میں شروع ہی میں اپنا علاج کراتا یا دوستوں سے بتاتا تو مجھے یہ تکلیف نہ برداشت کرنا پڑتی۔ ہمارے یہاں ایک میل کے فاصلے پر کالی ندی کا اونچا بھاری کھیڑا ہے، اسی کھیڑے پر کبھی کبھی سادھو مہاتما آ ٹھہرتے ہیں۔ اتفاق سے اسی کھیڑے پر کاٹھیاواڑ کے ایک پہنچے مہاتما جی آ گزرے اور ایک جھاڑی میں آسن لگائے ایشور کی یاد میں مست بیٹھے تھے۔ کچھ لڑکوں نے وہاں دیکھ کر گاؤں میں شہرت پھیلا دی کہ ایک پہنچے ہوئے مہاتما جی کھیڑے پر آئے ہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے بھی لوگ انکے درشن کو جانے لگے۔ ایک دن میں بھی ان کے درشن کے لئے وہاں گیا۔ جب درشن ہونے پر انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹا اتنے زیادہ کمزور دکھی کیوں دکھائی پڑتے ہو؟ تب میں نے اپنی بیماری کا کل حال بتایا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا اور مجھے ایک نسخہ بتایا جو کہ یہ تھا:

دوا منگانے کا پتہ:- بابو شیام لعل جی رئیس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

اصلی تازہ ترپھلا کا چھڑت پانچ (۵) تولہ اصلی شہد پہاڑی شلاجیت ڈھائی ۲½ تولہ اصلی بنگ بھسم چھ ۶ ماشے اصلی سور چھاپ کیسر چھ ماشے، اصلی انڈر فرانچ ۲ ماشے، اصلی نیپالی کستوری نو ۹ رتی سب دوائیں کوٹ پیس کر کپڑے سے چھان کر کھرل میں ڈال کر اوپر سے یہ تیل کو دیوا۔ اشٹیل چینی کا تیل ۲۰ بوند۔ آئل سپے وادھیر وزہ کا تیل ۲۰ بوند، آئل صندل (چندن کا تیل) ۲۰ بوند ڈال کر برہمی بوٹی کے عرق میں ۱۲ گھنٹے گھوٹ کر جھربیری کے بیر کے برابر گولی بنا کر سایہ میں سکھا کر رکھ لے ایک گولی صبح ایک گولی شام کو گائے یا بکری کے پاؤ بھر دودھ میں ۲ دو تولہ شکر ڈال کر پی لے۔ میں ۲۰ روز میں ایشور کی کرپا سے اسی دوا سے صحتیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اتنا عرصہ گذرا مجھے ذرا بھی شکایت نہیں ہوئی۔ اور اسی پرم پتا کی کرپا سے تین بچے بھی ہیں۔ جو کہ بالکل تندرست ہیں۔ اس وقت سے میں یہی نسخہ لوگوں کو تیار کر کے دام کے دام پر اپنے آس پاس کے گاؤں میں دیتا رہا، جس سے سینکڑوں بھائیوں کو فائدہ پہنچا۔ اور مرادیں پوری ہوئیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بھائیوں نے کہا بابو جی اسے ملک کی بہتری کے لئے اخباروں میں چھپوا دیجئے۔ تب میں نے جواب دیا کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں۔ وئیدوں حکیموں نے اسی احتلام و جریان کے مرض پر سینکڑوں اشتہار چھپوائے مگر لوگ ان کو جھوٹا سمجھ کر کچھ خیال نہیں کرتے تو میں ہی کیا کر سکتا ہوں لیکن اپنے سینکڑوں فائدہ پائے ہوئے بھائیوں اور میں نے بھی اپنی زندگی پا جانے کی خوشی میں ملک کی بہتری سمجھ کر اس چھوٹے سے پرچے کو چھپوا کر اور اپنے آدمیوں کو کرایہ دے کر ہندوستان کے ہر شہر قصبے دیہاتوں میں تقسیم کرانا شروع کر دیا۔ یہ دوا منی کے پتلا پن۔ بیسوں قسم کے جریان۔ پیشاب کے ساتھ چونے کی طرح منی کا خارج ہونا۔ پاخانے کے وقت منی کا گرنا۔ خواب ہو جانا سوزاک۔ کمزوری۔ جوانی میں بڑھاپے کی سی حالت، اصلی طاقت کی کمی معلوم ہوتا۔ سوچنے کی طاقت کا کم ہو جانا وغیرہ نامردی کو دور کر کے بدن میں انتہائی طاقت پیدا کر جوانی کا مزہ جسم کی رگ رگ میں بھر سکتی ہے۔ جو بھائی بنانا چاہیں اوپر کے لکھے نسخے کے مطابق تیار کر لیویں۔ جو چیز آپ کے یہاں نہ مل سکے، تو بابو شیام لعل جی رئیس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ، یو پی سے منگا لیں کیونکہ ان دوائیوں کی سخت ضرورت سمجھ کر اور بھائیوں کو پاک و تازہ دوائی ٹھیک وقت پر نہ ملنے سے ہم نے ان سبھی دوائیوں کا تھوک مال رکھنے کا انتظام کیا ہے، ہمارے یہاں سبھی دوائیاں، کیسر کستوری شلاجیت، بنگ بھسم وغیرہ پاک اور تازی ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ جن بھائیوں کو بنانے میں تکلیف ہو وہ ہمارے یہاں سے بنی بنائی منگا لیں۔ چالیس گولیوں کا ایک خوبصورت پیکٹ جس کی قیمت ۳؍ کے دام پر صرف دو روپیہ (۲)، تین پیکٹ کی پانچ روپیہ (۵؍) چھ پیکٹ کی قیمت نو روپیہ

ڈاک خرچ معاف منی آرڈر فیس ۲؍ ادھر سے لکھے ہوئے پتے سے منگائیے۔

دوا منگانے کا پتہ

بابو شیام لعل جی رئیس پریم ہٹی آفس کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

گورنمنٹ سے رجسٹری کی ہوئی

کام سُندری بٹی

کام سُندری بٹی ایک تجربے سے جنگل پہاڑوں کی جلد از جلد فائدہ دکھانے والی جڑی بوٹیوں سے تیار کر کے مریضوں کو تسکین کرنے کے لئے ہمیشہ بتلائی ہے۔ جو لوگ بچپن میں بچے یا کبھی وجہ بری صحبت میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کر دنیاوی سکھوں سے نا امید ہو چکے ہوں۔ اس سے پرلطف بھری زندگی بسر کرنیوالوں کے جسم میں نئی زندگی پیدا کر کے نامردوں کو مرد بنا دیتی ہے، پوشیدہ مقام کی کمزوری دور ہو کر رگیں طاقت کے جوش میں پھڑک اٹھتی ہیں۔ ہاری ہوئی ہمت اور برسوں کی مرجھائی ہوئی طبیعت کھلا کر انسان کے جسم میں نوجوانی کی طاقت بھر جاتی ہے۔ اس کی گولی کھا کر آپ جس عورت کے ساتھ ایک مرتبہ .... وہ آپ کی خادم بن جائے گی۔ حقیقت میں عورتوں کے لئے یہی ایک دوا [illegible] منتر ہے، آپ جب تک نہیں چاہیں گے انزال نہیں ہو سکے گا اور نہ آپ کو کسی قسم کی سستی یا تھکاوٹ ہی معلوم ہوگی۔ اس دوا سے ہزاروں آدمیوں کو جو دنیاوی سکھوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے پھر ایک مرتبہ جوانی کے نئے رنگ میں رنگ دیا۔ سینکڑوں بھائیوں کے آئے ہوئے شکریہ و تعریفوں سے بھرے ہوئے خطوط اس دوا کی سچائی کے ثبوت ہیں۔ اس دوا کے استعمال کرنے سے پرانے سے پرانا پرمیہ، کمزوری، خواب کا ہو جانا، سستی، منی کا گرنا، کمزوری کی وجہ سے مرضی کے موافق کام ٹھیک ٹھیک نہ ہونا۔ بدن میں ڈھیلا پن، ناطاقتی، پاخانہ ہوتے وقت قطرہ منی کا گرنا، نامردی، جلد انزال ہو جانا وغیرہ کی وجہ سے یا یاس نہ زندگی بسر کرتے ہوں۔ ایسے مریضوں کو کام سُندری بٹی ہرشٹ پشٹ کر دیتا ہے، جسم گلاب کی طرح جھلکنے لگتا اور ہر ایک نسوں میں بجلی کی طرح طاقت پیدا کر کے جوانی کی لہریں بدن کی نس نس میں پیدا کر دیتا ہے۔ خوبصورت اولاد پیدا کرتی ہے۔ عورتوں کی ہر قسم کی بیماری، حمل گرنا، ماہواری کم یا زیادہ ہونا وغیرہ دور کر کے حمل قرار پانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ قیمت ایک پیکٹ ۲ء دو روپیہ، تین پیکٹ کی قیمت پانچ روپیہ (للعہ) چھ پیکٹ کی قیمت (للعہ) نو روپیہ، ڈاک خرچ چھ پیکٹ تک (۲) دو آنہ۔ نقالوں سے ہوشیار، ہماری دوا دیکھ کر لوگوں نے نقل کی ہے ◆

دوا منگانے کا پتہ:- ویدرتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ۳ ایجنسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

مردوں کو مرد بنانے والا

طلاء مستانہ

بچپن کی جہالت سے خلاف قدرت بری عادتوں میں پڑ کر جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں یا شہوت کی کثرت سے اعضاء ڈھیلے کمزور ہو گئے ہوں، آگے یا پیچھے کا حصہ موٹا، جس میں نس پڑ گئی ہو، قوت مردی زائل ہو چکی ہو، مردی چلی گئی ہو اور زندگی بیکار معلوم ہوتی ہو، یا عضو خاص [illegible] ٹیڑھا ہونے کے سبب [illegible] سختی قائم نہ رہنے [illegible] اولاد ہونے میں خلل پڑتا ہو، اس طلاء مستانہ کو لگانے سے ہر قسم کی کمزوری دور ہو کر رگوں میں قوت دیکر دستور طاقت کو بڑھا کر اصلی نوجوانی کا لطف عطا کر کے مستانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ قیمت فی شیشی (للعہ) دو روپیہ آٹھ آنہ۔ ڈاک محصول معاف ◆

سروپ کو خوبصورت بنانے والا

روپ بلاس

دنیا میں مشہور ہے کہ لگاتے ہی چہرے کے کالے داغ، مہاسے، چھائیاں، پھنسی، خشکی، بدرونقی، جھریاں [illegible] چند روز کے استعمال سے کھلا یا چہرہ چاند کی طرح چمکدار [illegible] چہرہ پر دیکھنے والے [illegible] بدصورت بے رونق انسان [illegible] لگاتے ہی چہرہ کنول کے پھول کی مانند کھل اٹھے گا۔ اگر آپ اپنا چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو آج ہی روپ بلاس خرید کر استعمال کیجئے۔ روپ بلاس مرد، عورت دونوں کو خوش کرنے والا ہے۔ اس کی خوشبو بھی اتنی پیاری ہے کہ طبیعت مست کر دیتی ہے۔ قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ [illegible] آنے۔ ڈاک محصول معاف ◆

دوا ملنے کا پتہ

ویدرتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ۳ ایجنسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

دوا منگانے کا پتہ:- ویدرتن شری ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ا کنجوسی بازار ضلع اٹاوہ (یو۔پی)

منموہنی تیل

اس تیل کو سر میں لگاتے ہی آپ کی طبیعت مست ہو کر خوشبو سے بھر جاویگی اور مدھر منوہر بھینی بھینی خوشبو سے خوش ہو کر پاس کے بیٹھے ہوئے دوستوں کا دل لوٹ پوٹ ہو جاویگا۔ تیل لگا کر جس سمت سے آپ نکل جاوینگے۔ وہاں کے بیٹھنے والوں کو تعجب ہوگا۔ کہ یہ عجیب بہار اور دلکش خوشبو کس باغیچے سے آرہی ہے، اس کے استعمال سے سر گھومنا، دماغ کی کمزوری، درد سر، بال جھڑنا، کم عمری میں پکنا، سر میں خشکی رہنا۔ وغیرہ فوراً اچھا ہوتا ہے۔ دوسرے بالوں کو چمکیلے دار بناتا ہے۔ اور سر کو برف کی طرح ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ تیل کیمپٹی باغ کے بہت بڑھیا تازے پھولوں سے تیار کیا گیا ہے۔ اس لئے سب لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، قیمت فی شیشی ایک روپیہ چار شیشی منگانے سے ایک شیشی انعام - ڈاک خرچ بذمہ خریدار ۔

کنٹھ پپیہا

اس کے کھانے سے کوئل کے موافق رس بھری مدھر منوہر سریلی رسیلی اور منموہنی آواز ہوتی ہے۔ کھاتے ہی جلد گلا صاف کر کھانسی دور کرتی ہے۔ گانے والے ایڈریشک۔ کتھا بانچنے والے پنڈت، ناٹک منڈلی رام لیلا، راس لیلا، رامائن تھیٹر والوں کو ہمیشہ پاس رکھنی چاہئے جن گانے والے شوقینوں کو اپنی رنگیلی۔ رسیلی۔ سریلی اور میٹھی آواز کرنا ہو ان کو "کنٹھ پپیہا" منگا کر ضرور استعمال کرنا چاہئے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ ۸ آنہ عہ ڈاک خرچ معاف ۔

سوزاک بندو

یہ ہزاروں بار کی آزمودہ اصلی دوا ہے۔ کھاتے ہی فوراً آرام کرتی ہے۔ کیسا ہی پیپ، مواد آتا ہو یا کپڑے میں داغ پڑ جاتا ہو پیشاب کرنے میں سخت جلن اور درد ہوتا ہو۔ کبھی کبھی خون ملا پیشاب ہوتا ہو پیشاب بوند بوند اترتا ہو۔ بدن پیلا اور کمزور ہو گیا ہو۔ تھوڑا تھوڑا پیشاب کر کے اور جلن کے ساتھ اترتا ہو اور جن کو شکایت بنی رہتی ہو برسوں کا پرانا یا نیا سوزاک کیوں نہ ہو پہلی ہی خوراک کھانے سے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور زندگی بھر آرام ملتا ہے قیمت فی شیشی عہ ڈاک محصول معاف ۔

ناری سنجیون

یہ دوا خاص عورتوں کیلئے تیار کی گئی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کے جریان، درد حاجت، چھین، پردر، پیچھا بگڑنے سے اولاد ہی نہیں ہوتی اور ہمیشہ سفید یا لال و میلا پانی کا فساد بنا رہتا ہے مہینہ ٹھیک وقت پر نہ ہونے سے سر درد، بھوک کم لگنا، کلیجہ میں جلن، بدن دبلا پتلا، کمر اور پیڑو میں درد ہتھیلی اور پیر کے تلووں میں جھنجھناہٹ دل میں اداسی بنی رہتی ہے اور اولاد ہونے پر بھی کمزور اور تھوڑے روز زندہ رہتی ہے یا ہو کر مر جاتی ہے جس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ہم نے بہت دنوں کے تجربہ سے اس دوا کو ایجاد کیا ہے اس دوا کے استعمال سے عورتوں کا جریان، پردر، درد حاجت، چھین آرام ہو کر مہینہ ٹھیک وقت پر ہوتا ہے اور بدن میں بخوبی طاقت آتی ہے۔ خوبصورت اولاد تندرست پیدا ہوتی ہے۔ قیمت فی شیشی دو روپیہ آٹھ آنہ عہ ڈاک خرچ معاف ۔

چندر پرکاش سرمہ

یہ سرمہ ترپھلے کے عرق میں چھان کر دو مہینہ کیلا کے درخت میں دو مہینہ نیم کے درخت میں گاڑ کر پیسا گیا ہے، اس کے بعد اصلی گلاب کے عرق میں اصلی موتی ہیرا وغیرہ بیش قیمت کے مصالحہ اور جنگلی جڑی بوٹیوں اور پتیوں کے عرق میں ڈال کر ایک مہینہ برابر گھونٹا گیا ہے۔ اس کے لگانے سے آنکھوں میں طاقت اور نئی روشنی پیدا ہوتی ہے ایک سلائی لگاتے ہی آنکھوں کی تھکاوٹ دور کرتا ہے۔ اور تراوٹ لاتا ہے۔ جن صاحبوں کو دن رات میں آنکھوں سے زیادہ کام لینا پڑتا ہو۔ انکو "چندر پرکاش سرمہ" ضرور لگانا چاہئے۔ یہ آنکھوں کی کل بیماریوں کو دور کرتا ہے جیسے لالی۔ دھند۔ ڈھلکا، پھولا، کیچڑ نکلنا زیادہ دیکھنے سے آنکھوں میں چلچلاہٹ اور پانی بھر آنا، روشنی کم ہونا، کھجلاہٹ نزلہ وغیرہ کو آرام کرتا ہے۔ اس سرمہ کا نسخہ بادشاہی زمانے کے بہت بڑے تجربہ کار شاہی حکیم نے میرے بابا کو بتایا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سرمہ پانچ روپیہ تولہ فروخت کیا جائے تو بھی کم قیمت ہے۔ قیمت فی شیشی عہ ڈاک خرچ معاف ۔

بال صفا سندری صابون

اس کو بالوں پر لگاتے ہی فوراً بال صاف ہو جاتے ہیں اور وہ جگہ بالکل صاف چکنی ملائم نکل آتی ہے۔ گویا بال کبھی جمتے ہی نہ تھے، اگر تیز استرے سے بھی صاف کیا جائے تو ایسی صفائی نہیں ہوتی۔ اس سے نہ چمڑا پھٹتا ہے نہ جلن ہوتی ہے۔ چاروں طرف صفائی نظر آتی ہے قیمت فی چکتی چار آنے ہے چھ چکتی عہ ایک درجن عہ ڈاک محصول ذمہ خریدار ۔

دوا منگانے کا پتہ

ویدرتن ستیہ دیو جی روپ بلاس کمپنی نمبر ا کنجوسی بازار اٹاوہ (یو۔پی)

فہرست عام تعطیلات صوبہ پنجاب بابت سنہ ۱۹۳۶ء

نام تہوار	تاریخ انگریزی	نام یوم	تعداد تعطیل	کیفیت
نیو ایرس ڈے	یکم جنوری	بدھوار	۱ یوم	عدالت ڈاکخانہ [illegible]
[illegible]	یکم جنوری	بدھوار	۱ یوم	
چاند گرہن	۹ جنوری	جمعرات	۱ یوم	
لوہڑی	۱۳ جنوری	سوموار	۱ یوم	
بسنت پنچمی	۲۸ جنوری	منگلوار	۱ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
شیوراتری	۲۱ فروری	شکروار	۱ یوم	عدالت میں تعطیل ہوگی
عید الضحیٰ	۵ مارچ	ویروار	۱ یوم	عدالت و ڈاکخانہ میں تعطیل ہوگی
ہولی	۶ تا ۸ مارچ	شکر تا اتوار	۳ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
سومواتی اماوس	۲۳ مارچ	سوموار	۱ یوم	
درگا اشٹمی	۳۰ مارچ	سوموار	۱ یوم	
محرم	یکم تا ۳ اپریل	بدھ تا شکر	۳ یوم	عدالت ۳ یوم ڈاکخانہ ۱ یوم
بیساکھی	۱۲-۱۳ اپریل	اتوار	۱ یوم	عدالت و ڈاکخانہ میں تعطیل ہوگی
ایسٹر ہالیڈیز	بموجب گزٹ	شکر تا سوم	۴ یوم	عدالت ۴ یوم ڈاکخانہ ۱ یوم
آخری چہارشنبہ	۲۰ مئی	بدھوار	۱ یوم	
امپائر ڈے	۲۴ مئی	اتوار	۱ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
نرجلا ایکادشی	۳۱ مئی	اتوار	۱ یوم	
سالگرہ شہنشاہ ہند	۳ جون	بدھوار	۱ یوم	عدالت و ڈاکخانہ میں تعطیل ہوگی
بارہ وفات	۳ جون	بدھوار	۱ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
سورج گرہن	۱۹ جون	شکروار	۱ یوم	
بنک ہالیڈے	۳۰ جون	منگلوار	۱ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
ویاس پوجا	۴ جولائی	سنیچروار	۱ یوم	
چاند گرہن	۵ جولائی	اتوار	۱ یوم	
رکھڑی	۳ اگست	سوموار	۱ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
جنم اشٹمی	۱۰ اگست	سوموار	۱ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
سومواتی اماوس	۱۷ اگست	سوموار	۱ یوم	
تعطیلات موسم گرما	یکم ستمبر تا [illegible]	[illegible]	ایک ماہ	عدالتیں بند رہیں گی
درگا اشٹمی	۲۳ اکتوبر	شکروار	۱ یوم	
دسہرہ	۲۵ اکتوبر	اتوار	۱ یوم	عدالت و ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی
شب برات	۳۱ اکتوبر	سنیچروار	۱ یوم	
دیوالی	۱۳ نومبر	شکروار	۱ یوم	عدالت و ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی
بھیا دوج ٹیکا	۱۶ نومبر	سوموار	۱ یوم	
کتکی	۲۸ نومبر	سنیچروار	۱ یوم	عدالت میں بھی تعطیل ہوگی
جمعۃ الوداع	۱۱ دسمبر	شکروار	۱ یوم	
عید الفطر	۱۶ دسمبر	بدھوار	۱ یوم	عدالت ڈاکخانہ میں بھی تعطیل ہوگی
کرسمس ڈے	۲۵ تا ۳۱ دسمبر	شکر تا جمعرات	۷ یوم	[illegible]

مقامی تعطیلات در لاہور

ہولا	۹ مارچ	سوموار	۱ یوم	
عرس داتا گنج بخش	۱۳ مئی	بدھوار	۱ یوم	
میلہ [illegible]	۱۷ مئی	اتوار	۱ یوم	
[illegible] میلہ	۲۴ مئی	اتوار	۱ یوم	

(نوٹ) (۱) ہر اتوار کو عام تعطیل ہوتی ہے (۲) ہر ماہ کے آخری سنیچروار کو موسم گرما میں بشرطیکہ کام کی زیادتی نہ ہو بمرضی حکام تعطیل ہوتی ہے (۳) عدالتہائے دیوانی ماہ ستمبر میں بند رہتی ہیں مگر بمرضی حکام ایک آدھ یوم پس و پیش ہو سکتا ہے (۴) پنجاب ہائیکورٹ موسم گرما کی تعطیلات کیلئے وسط جولائی سے آخر ستمبر تک بند رہتا ہے اور بعض حکام کی مرضی سے مقرر ہوتی ہیں (۵) ہر ضلع میں لوکل تعطیلات حکم صاحب ڈپٹی کمشنر صادر ہوں گی لیکن انکی تعداد ۵ سے زائد نہ ہوگی (۶) عدالت و ڈاکخانہ کی تعطیلات کیفیت کے خانہ میں درج کر دی گئی ہیں گو ان میں بھی کمی بیشی بمرضی حکام ہو سکتی ہے (۷) اہل اسلام کی تعطیلات بوجہ کمی بیشی رویت ہلال ایک یوم پس و پیش ہو سکتی ہیں۔

فہرست تعطیلات عدالتہائے ممالک متحدہ آگرہ و اودھ سنہ ۱۹۳۶ء

نام تہوار	تاریخ انگریزی	نام یوم	تعداد تعطیل
نیو ایرس ڈے	یکم جنوری	چہارشنبہ	۱ یوم
چاند گرہن	۹ جنوری	پنجشنبہ	۱ یوم
سنکرانت مکر	۱۴ جنوری	دوشنبہ	۱ یوم
مونی اماوس	۲۵ جنوری	شنبہ	۱ یوم
بسنت پنچمی	۲۸ جنوری	سہ شنبہ	۱ یوم
شیوراتری	۲۱ فروری	جمعہ	۱ یوم
عید الضحیٰ	۵ مارچ	پنجشنبہ	۱ یوم
ہولی	۶ تا ۸ مارچ	جمعہ تا یکشنبہ	۳ یوم
آکھڑی کا میلہ	۱۶ مارچ	دوشنبہ	۱ یوم
سومواتی اماوس	۲۳ مارچ	دوشنبہ	۱ یوم
رام نومی	۳۱ مارچ	سہ شنبہ	۱ یوم
محرم	۲۵ مارچ تا ۳ اپریل	چہارشنبہ تا جمعہ	۱۰ یوم
ایسٹر ہالیڈیز	بموجب گزٹ	جمعہ تا دوشنبہ	۴ یوم
[illegible]	۱۰ مئی	یکشنبہ	۱ یوم
چہلم	۱۳ مئی	چہارشنبہ	۱ یوم
آخری چہارشنبہ	۲۰ مئی	چہارشنبہ	۱ یوم
امپائر ڈے	۲۴ مئی	یکشنبہ	۱ یوم
بارہ وفات	۳ جون	چہارشنبہ	۱ یوم
سالگرہ شہنشاہ ہند	۳ جون	چہارشنبہ	۱ یوم
سورج گرہن	۱۹ جون	جمعہ	۱ یوم
بنک ہالیڈے	۳۰ جون	سہ شنبہ	۱ یوم
[illegible] شریف	یکم جولائی	چہارشنبہ	۱ یوم
ویاس پوجا	۴ جولائی	شنبہ	۱ یوم
چاند گرہن	۵ جولائی	یکشنبہ	۱ یوم
ناگ پنچمی	۲۳ جولائی	پنجشنبہ	۱ یوم
سلونو	۳ اگست	دوشنبہ	۱ یوم
کرشن جنم اشٹمی	۱۰ اگست	دوشنبہ	۱ یوم
سومواتی اماوس	۱۷ اگست	دوشنبہ	۱ یوم
اننت چودس	۳۱ اگست	دوشنبہ	۱ یوم
تعطیل کلاں	[illegible] تا ۱۴ اکتوبر	[illegible]	ایک ماہ
تعطیل کلاں	[illegible]	[illegible]	ایک ماہ
[illegible] اماوس	۱۵ ستمبر	سہ شنبہ	۱ یوم
ولادت علی المرتضیٰ	۲۹ ستمبر	سہ شنبہ	۱ یوم
[illegible]	۱۳ اکتوبر	[illegible]	۱ یوم
دسہرہ	۲۵ اکتوبر	دوشنبہ	۱ یوم
شب برات	۳۱ اکتوبر	شنبہ	۱ یوم
دیوالی	۱۳ نومبر	جمعہ	۱ یوم
دیوالی ثانی	۲۵ نومبر	چہارشنبہ	۱ یوم
کاتکی اشنان	۲۸ نومبر	شنبہ	۱ یوم
جمعۃ الوداع	۱۱ دسمبر	جمعہ	۱ یوم
عید الفطر	۱۶ دسمبر	چہارشنبہ	۱ یوم
کرسمس ڈے	۲۵ تا ۳۱ دسمبر	جمعہ تا پنجشنبہ	۷ یوم

(نوٹ) (۱) ہر ایک یکشنبہ کو عام طور پر تعطیل ہوتی ہے (۲) ہر ماہ کے آخری شنبہ کو بھی عدالت دیوانی بند رہتی ہے۔ (۳) اہل اسلام کے تہواروں کی تعطیلیں بحساب رویت قمر ایک یوم پس و پیش ہو جاتی ہیں۔ (۴) چونکہ جنتری چھپتے وقت سرکاری گزٹ کی تعطیلات شائع نہیں ہوتیں۔ اس لئے باملاحظہ تہواروں کے تعطیلات فہرست میں درج کی جاتی ہیں۔ (۵) لوکل تعطیلات بمرضی حکام ہو سکتی ہیں۔

کوڑیوں کے مول موتی

مندرجہ ذیل چیزیں ہم نے شائقین کی صدہا فرمائشوں اور ان کے بار بار اصرار پر فاضل و کامل علماء کے ذریعہ علم جفر و تعویذ [illegible] کی سعادت و بہتری کو مدنظر رکھ کر بہت تھوڑی سی تعداد میں تیار کی ہیں اس لئے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو۔ فوراً منگا لیں۔

۱۔ حسن کا کاجل

یہ کاجل تیز دوا [illegible] کی رفتار کو مدنظر رکھ کر خاص حکمت پر تیار کیا گیا ہے جو کہ شائقین کے لئے عجیب تحفہ ہے۔ اس کو لگانے سے آنکھوں میں ایسی کشش مقناطیسی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ جس شخص کی طرف ذرا نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ فوراً دام محبت میں گرفتار ہو گیا۔ [illegible] کی طرف دیکھنے سے وہ محو و مفتون ہوتے ہیں۔ ہر دیکھنے والے کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ رعب داب قائم ہوتا ہے پس اس کاجل کو حسب ہدایت استعمال کریں جس کو چاہو بس میں کر لو۔ نہایت عجیب چیز ہے۔ قیمت فی شیشی دو روپے ... (عہ)

۲۔ شیر خوار بچوں کا محافظ تعویذ

یہ تعویذ علم جفر کے قاعدہ سے خاص وقت چاندی کے پترہ پر نقش کیا گیا ہے۔ اس کو بچے کے گلے میں پہنا دو۔ ہر قسم کی نظر بد سایہ آسیب جن و بھوت سے بچہ محفوظ رہیگا۔ جو بچے زیادہ روتے ہوں۔ اسکی نیکی تاثیر سے ہر وقت ہنستے خوش کھیلتے رہیں گے۔ غرضیکہ یہ تعویذ شیر خوار بچوں کا پورا محافظ ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

۳۔ طلسمی تعویذ برائے حاملہ مستورات

ایک کامل بزرگ کا عطا کردہ تعویذ حسب ہدایت تیار کر کے چاندی کے تعویذ کے اندر محفوظ کیا گیا ہے اس کے گلے میں ڈالنے سے حاملہ مستورات ہر قسم کے خطرات۔ سایہ۔ آسیب۔ جن۔ بھوت۔ چڑیل سے محفوظ رہیں گی۔ جن عورتوں کو اسقاط حمل یا مرض اٹھرا کا عارضہ ہو۔ ان کے گلے میں ڈالنے سے بفضل پرماتما ان امراض سے نجات پا کر گود ہری بھری ہوگی۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

۴۔ طلسم رفع نحوست زحل یعنی [illegible]

چونکہ جن لوگوں کے نام کی راس مکر کنبھ ہیں ان کو نتیجہ خراب ہے۔ چونکہ نہایت نحس اثر ظاہر کریگا۔ اس لئے ہم نے ان لوگوں کے لئے رفع نحوست زحل طلسم تیار کیا ہے۔ جس کے پاس رکھنے سے بفضل پرماتما زحل کی نحوست رفع ہوگی۔ پس اگر آپ کو ضرورت ہو۔ تو یہ طلسم ہم سے منگوالیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

ملنے کا پتہ: مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

مشہور عالم جنتری سنہ ۱۹۳۶ء

اشتہر پاتا شہر تفکستان کی گریا دلیں سے مشہور عالم جنتری کے چھپنے کا یہ اکتیسواں سال ہے۔ اس کے نادر مضامین کی مقبولیت کی وجہ سے ہندوستان اور ممالک غیر میں جہاں جہاں اہل ہنود اور ان کے احباب موجود ہیں۔ وہ مقبولیت اور عالمگیر شہرت حاصل کی ہے۔ جو اس سے پیشتر شاید ہی کسی جنتری کو نصیب ہوئی ہو۔ ہر چند ہیں۔ بلکہ اس کی قدر دانی اس کی تعداد اشاعت سے بخوبی ظاہر ہے۔ باوجود ایک لاکھ شائع ہونے کے ہزارہا شائقین اس کی خریداری سے ہر سال محروم رہ جاتے ہیں۔ اس قدر دانی کے لئے ناچیز مصنف پبلک کا تہ دل سے شکر گزار ہے۔

مشہور عالم جنتری کے مار آستین دوست

مشہور عالم جنتری کی ایک ہمہ گیر مقبولیت قدر دانی اور اس کے رسوخ کا رعب دیکھ کر بعض لوگوں کو اس کی یہ ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اور اسے حسد کے جل بھن کر کباب ہو رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس تاک میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم کو نقصان پہنچاویں۔ کچھ مہربانوں نے مشہور عالم جنتری کی ترتیب اور ڈھنگ پر نقلی جنتریاں چھاپ کر اور مشہور عالم جنتری کے ساتھ ملتے جلتے نام رکھ کر پبلک کے پیش کیں۔ پبلک ان کی اس چالاکی کو جلد ہی تاڑ گئی۔ اور ان بیچاروں نے منہ کی کھائی۔ اور دم بخود ہو کر بیٹھ گئے۔

مشہور عالم جنتری کے حاسدوں کی نئی چالاکیاں

مشہور عالم جنتری کے برخلاف ایک اور نئی پارٹی نے جنم لیا ہے اس پارٹی نے مشہور عالم جنتری کے موجد شریمان پنڈت گردھاری لعل جی جوتشی کے مقبول عام اور عالمگیر شہرت پائے ہوئے نام کی آڑ لے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی ہے۔ مگر ان بیچاروں کی حالت پر ہم کو ترس آتا ہے۔ کیونکہ بیچاروں میں اتنی لیاقت تو ہے نہیں کہ خود کوئی علمی مضامین سے لبریز جنتری پبلک میں پیش کر سکیں۔ اور فائدہ اٹھا ویں۔ لیکن ان کے دل میں یہ ہوس ضرور ہے کہ ہم بھی مصنف مشہور عالم جنتری کی طرح شہرت پاویں۔ اور فائدہ اٹھا ویں۔ پس اس خواہش کی تکمیل کے لئے انہوں نے چند مضامین ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے جنتری کی شکل میں چھاپنے شروع کر دئے ہیں۔ اور شرارت چالاکی یہ کی ہے کہ جنتری کے سرورق پر پنڈت گردھاری لعل جی کا نام کسی آڑ میں درج کر دیا ہے۔ تاکہ بھولے بھالے خریدار اس نقلی جنتری کو اصلی جنتری پنڈت گردھاری لعل والی سمجھ کر خرید لیں۔ اس اخلاق سے گری ہوئی حرکت سے ان کا منشا مشہور عالم جنتری کو نقصان پہنچانا اور خود ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ بس

مشہور عالم جنتری کے قدر دانوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ آپ جنتری خریدتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں

(۱) سرورق پر نام مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ (۲) پشت جنتری پر پنڈت گردھاری لعل جی کی تصویر جو کہ ہمارا تجارتی نشان ہے۔ (۳) سرورق پر مصنف کا نام پنڈت گردھاری لعل منجم و جفار سیالکوٹی کے لڑکے پنڈت رگھناتھ داس جوتشی کی شائع ہوتی۔ (۴) سرورق پر مشہور عالم پریس کا نام۔ پس اگر آپ ان چار باتوں کو مد نظر رکھ کر جنتری خریدیں گے تو آپ ان دھوکہ بازوں کے مکر و فریب کے پھندے سے بچ جاویں گے۔

اے ہمارے مہربان حاسد دوستو!

آپ سے ہم صرف اس قدر کہنا چاہتے ہیں کہ قدرت کے اٹل قانون سے ڈرو۔ اور راہ راست پر چلو کیونکہ [illegible] ہم کو مجبور نہ کرو۔ کہ ہم تمہارے برخلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ دل میں خوب یاد رکھو کہ تمہاری یہ چالاکیاں ایک نہ ایک دن ضرور بے نقاب ہوں گی۔ اور تم پشیمانی کرو گے۔ شری گورو نانک دیو جی مہاراج کے اس [illegible] کو یاد رکھو کہ [illegible]

خبردار! دھوکہ سے بچو

ہمارے پاس بہت سے خطوط آئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دھوکہ باز لوگ جنہوں نے جوتش اور پنڈت کا جامہ پہنا ہوا ہے اپنے آپ کو پنڈت گردھاری لعل جی کا بیٹا یا بھائی یا شاگرد ظاہر کر کے پبلک کو لوٹ رہے ہیں۔ اس لئے پبلک کی آگاہی کے لئے ہم اعلان کرتے ہیں۔ کہ پنڈت گردھاری لعل جی کا میرے سوا کوئی اور لڑکا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حقیقی بھائی یا شاگرد موجود ہے۔ جو شخص ایسا بیان کرتا ہے وہ دھوکہ باز ہے۔ پبلک ایسے لوگوں سے بچے۔ پنڈت رگھناتھ داس

مشہور عالم جنتری کے مضامین کا حل

سب سے اول بارہ تہواروں کی فہرست تفصیلات درج ہیں۔ مگر بعض اوقات [illegible] پس و پیش ہو جاتی ہیں۔ دوم اوقات نوروز اور فصل [illegible] کے بعد نایاب کیلنڈر اور سال کا راشٹری پھل و [illegible] اور اس کے بعد بارہ مہینوں کی جدولیں اور [illegible] کی تاریخیں اور [illegible] کے صادیں ہر نکشتر و یوگ کی ابتدائی گھڑی درج ہیں۔ جو طلوع آفتاب سے شمار کرنی چاہییں۔ اور بعد ازاں چندرماں کی راشی تبدیل ہونے کا انتہائی وقت گھڑی پل درج ہیں۔ بعد ازاں ناقص گھڑیوں کی ابتداء و انتہا درج ہیں [illegible] و نشان بہ گھڑی وپل درج کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو مطابق گھڑی کے دیکھنا چاہیں۔ تو طلوع و غروب مشہور عالم جنتری کے ساتھ ۳۳ منٹ اضافہ اور کریں۔ تو مطابق جیب گھڑی ہوگا۔ چاندنی اور اندھیرے کی جدولیں سفید روشنی اور سیاہ اندھیرے کی علامت ہے۔ طلوع و غروب بکری و مارکی اور دو خلہ ستارہ کی گھڑی وپل و اہل ہنود و اہل اسلام کے تہوار درج ہیں۔ بعد ازاں اس صفحہ کے مقابل [illegible] کواکب و [illegible] و تقویم سیارگان مع اوقات اور درجہ و دقیقہ درج کئے گئے ہیں۔ باقی مضامین جنتری صفحہ ۱۰ تک عام فہم ہیں۔ جو درج نہیں کئے گئے۔ اس کے بعد اشتہارات درج ہیں۔ اور ہر ایک اشتہار کے نیچے مشتہر کا نام درج ہے۔ براہ مہربانی ادویات و اشیاء مشتہران اشتہارات سے خط و کتابت کریں۔ اگر ان اشیاء کی نسبت کسی قسم کی شکایت ہو۔ تو اسی کارخانہ سے خط و کتابت کریں۔ کیونکہ ہم اشتہارات میں درج شدہ سامان کے غلط یا درست ہونے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔

بیاہ شادی کے سہالگ بابت سال ۱۹۳۶ء

اہل ہنود بیاہ میں دس دوشوں کا بچار کرتے ہیں۔ مگر ایت۔ ویدھ۔ بدھ۔ پنچک۔ کرانتی۔ وغیرہ پانچ دوش زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے کوئی ساہا ان دوشوں کا درج نہیں کیا گیا۔ جو لوگ دوشوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور صرف ساہا کے جنتری پر اکتفا کرنا چاہیں۔ وہ ہمارے مشہور عالم جنتری کا سمت ۱۹۹۳ بکرم کو دیکھ لیں۔ جس میں تمام سال کے شدھ و اشدھ ساہا تفصیل کے ساتھ درج کئے گئے ہیں۔ اس جگہ صرف شدھ ساہا درج کئے ہیں۔ شدھ کے نشان (۱) اور دوش کے نشان (۲) درج ہیں۔

تاریخ جنتری	تاریخ انگریزی	دن	نکشتر	دس دوشوں کے نام اور ان کے نشان ۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	لگن	کیفیت
۲ ماگھ	۵ جنوری	بدھوار	اترا بھادرپد	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	تلا	
۸ ماگھ	۱۲ جنوری	منگلوار	مولا	۱	۱	شکل ۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	کنیا و تلا	
۹ ماگھ	۲۲ جنوری	بدھوار	مولا	۱	۱	شکل ۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	مین	
۱۶ ماگھ	۲۹ جنوری	بدھوار	ریوتی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	۱	کنیا و برچھک	
۳ پھاگن	۱۵ فروری	سنیچر	اترا بھادرپد	شکل	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	تلا	
۵ پھاگن	۱۶ فروری	اتوار	اترا بھادرپد	شکل ۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	برکھ	
۳ بیساکھ	۱۴ اپریل	منگلوار	اترا کھاڑ	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۱	مین	[illegible]
۴ بیساکھ	۱۵ اپریل	بدھوار	اترا کھاڑ	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۱	کرک	
۲۳ ساون	۶ اگست	بیروار	اترا پھالگنی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۱	برکھ	چندرمان
۲۴ ساون	۷ اگست	شکروار	اترا پھالگنی	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۱	کنیا	چندرمان
۲۲ مگھر	۶ دسمبر	اتوار	اترا بھادرپد	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	تلا	سنیچرہ
۲۳ مگھر	۷ دسمبر	سوموار	اترا بھادرپد	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۱	مکر	

ضروری نوٹ۔ جنتری ہذا میں طلوع و غروب آفتاب کے گھنٹہ منٹ رفتار سورج کے حساب سے درج کئے گئے ہیں۔ سٹینڈرڈ جیب گھڑی کے مطابق کرنے کے لئے ۳۳ منٹ کا اضافہ کریں۔

نوروز عالم افروز افق لاہور ۲۰ مارچ ۱۹۳۶ء بروز شکروار بوقت ۵۲ گھڑی ۴۸ پل بعد طلوع آفتاب

وقت بلحاظ جیب گھڑی ۳ بجکر ۔ منٹ
وقت بلحاظ ریلوے سٹینڈرڈ ۳ بجکر ۴ منٹ

تحویل آفتاب در برج حمل بحساب اہل یونان

نوروز کے معنے شروع سال کے پہلے دن کے ہیں جس کو مختلف مذاہب والوں نے اپنے اپنے مذہبی آئین کے مطابق قائم کیا ہوا ہے۔ مثلاً اہل یورپ کا نوروز یکم جنوری کو اہل اسلام کا نوروز یکم محرم کو اہل ہنود کا نوروز بحساب قمری چیت سدی ایکم کو اور بحساب شمسی یکم بیساکھ کو واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح اہل یونان کا نوروز اس وقت واقع ہوتا ہے۔ جب کہ آفتاب عالمتاب تمام کرہ فلک کا دورہ پورا کرکے خط استوا کے عین مشرق میں فلک ثوابت کی پہلی شکل برج حمل کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ اس وقت دن رات برابر ہو جاتا ہے۔ اور فصل ربیع کی ابتدا ہوتی ہے۔ بنزد منجمان یہ وقت نہایت مبارک ہوتا ہے۔ اس وقت زائچہ تولد سال بنایا کرتے اور رفتار فلکی کی سعادت و نحوست کو مد نظر رکھ کر تمام عالم کے نیک و بد حالات قلم بند کئے جاتے ہیں۔ پس اس سال بفضل پروردگار نوروز ۲۰ مارچ ۱۹۳۶ء بروز شکروار یعنی جمعۃ المبارک ۲۷ چیت بدی دواشی ۸ چیت سمت ۱۹۹۲ بکرم ۱۵ ذی الحجہ ۱۳۵۴ ہجری بوقت ۵۲ گھڑی ۴۸ پل بعد طلوع آفتاب یعنی وقت بلحاظ جیب گھڑی ریلوے سٹینڈرڈ ٹائم ۳ بجکر ۴ منٹ بعد نصف شب طالع وقت بحساب اہل یونان برج دلو میں بساعت زہرہ تحویل آفتاب برج حمل میں ہوگی۔ بادشاہ سال زہرہ یعنی شکر رقاصہ فلک مالک فلک سوم کاسا اور والا منبر ہے۔ جو کہ چوپایہ پر سوار ہاتھ میں کتار سے پوشاک اطلس نقرئی پہنے کاندھے پر سفید دوشالہ ریشمی ڈالے سر پر جڑاؤ موتیوں کی کلغی اور گلے میں سفید پھولوں کا ہار ڈالے تخت حکومت فلکی پر جلوہ افروز ہوگا۔ خوراک اس کی میوہ تر و مٹھائی بزنگ سفید لڈو پیڑے برفی وغیرہ ہے۔

زائچہ ولادت بحساب اہل یونان



احکام نوروز

وقت طالع میں قمر پڑا ہے جسکی بادشاہ سال زہرہ سے دشمنی ہے اور وقت اسلامی کا مالک بخانہ ششم ہمراہ شمس پڑا ہے اس لئے اس سال میں آفات ارضی و سماوی زیادہ نمودار ہونگی۔ بیچ ہے ٹڈی۔ کرائی وغیرہ سے فصلوں کو نقصان پہنچیگا بخاری زیادہ ہونگی بیماریاں آسمان سے زیادہ ٹوٹیں گے اور کسی نئی آسمانی شے کا نظارہ بھی ہوگا پہاڑوں میں آتش بادہ بڑھ جاویگا جس سے نقصان کا اندیشہ ہے ملک کے اکثر حصوں میں امراض مہلکہ کا دورہ ہوگا۔ لوگوں کے خیالات عیاشی کی طرف زیادہ رہینگے۔ مستورات آزادی میں ترقی کرینگی۔ عہدہ غالب ہر و مغلوب رہینگے۔ بہت لوگ زیر عتاب شاہی ہونگے سرحدوں کی مضبوطی اور جنگی طاقتوں کے استحکام پر زیادہ توجہ دی جاویگی۔ ترکستان چین اور خراسان کے علاقوں میں فتنہ و فساد کی آگ سلگتی رہیگی ہندوستان کے لوگ تجارت میں ترقی کرینگے۔ یورپ میں تلد کی آگ زیادہ رہیگی۔ غلہ سے بڑا فائدہ میں رہینگے جاپانی لوگ ہندوستان میں ترقی کرینگے تبت سے لوگ کچھ تخفہ لیکر جائیں گے۔ علاقہ کشمیر میں آفات کا ظہور ہوگا۔ شاہان یورپ کی اندرونی رنجشیں اور جیالیاں خطرناک ثابت ہونگی۔ اہل امریکہ سائنس کی نئی نئی ایجادوں میں کامیابی حاصل کرینگے۔ علاقہ مدراس کو کچھ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ بیو لڑکے اہل پیدا ہونگے اور دنیا میں امن و امان ہوگا۔

ہندوستان کے مختلف شہروں میں تحویل آفتاب کا وقت

چونکہ بوجہ رفتار آفتاب ہر ایک شہر کے وقت میں تفاوت ہے اسلئے ہم چند ایک شہروں کا وقت تحویل درج کرتے ہیں۔ لاہور میں تحویل کا وقت ۳ بجکر ۴ منٹ شب ہے۔

نام شہر	وقت			نام شہر	وقت			نام شہر	وقت		
	گھنٹہ	منٹ	سیکنڈ		گھنٹہ	منٹ	سیکنڈ		گھنٹہ	منٹ	سیکنڈ
اجمیر	۳	۷	۳۸	قنوج	۳	۲۸	۵۶	پٹنہ	۳	۳۹	۵۲
امرتسر	۳	۷	۵۶	مدراس	۳	۳۱	۳۰	بردوان	۴	۰۰	۴۰
بیکانیر	۳	۱۲	۳۶	باندہ	۳	۳۰	۲۸	مرشدآباد	۴	۲	۴
انبالہ	۳	۱۶	۱۲	کانپور	۳	۳۰	۳۶	کلکتہ	۴	۲	۴۴
بھوپال	۳	۱۷	۳۸	سیتاپور	۳	۳۱	۵۲	ڈھاکہ	۴	۱۰	۴۸
دہلی	۳	۱۸	۸	گورکھپور	۳	۳۲	۲	آسام	۴	۲۵	۸
آگرہ	۳	۲۱	۱۲	لکھنؤ	۳	۳۲	۴۸	رنگون	۴	۳۳	۵۶
حیدرآباد دکن	۳	۲۳	۴	بارہ بنکی	۳	۳۳	۱۶	ملتان	۲	۵۴	۵۲
اٹاوہ	۳	۲۵	۱۲	فیض آباد	۳	۳۴	۳۶	بمبئی	۳	۰	۲۴
رامپور	۳	۲۵	۱۶	ہردوئی	۳	۳۴	۴	کابل	۲	۴۴	۵۶
ناگپور	۳	۲۵	۳۶	بہرائچ	۳	۳۵	۸	بڑودہ	۳	۱	۵۲
بانس بریلی	۳	۲۶	۴۸	الہ آباد	۳	۳۵	۳۷	کراچی	۲	۳۴	۴
نینی تال	۳	۲۶	۵۶	مرزاپور	۳	۳۹	۲۰	بصرہ	۱	۱۹	۲۸
فرخ آباد	۳	۲۷	۳۶	بنارس	۳	۴۱	۱۲	بخارا	۲	۲۷	۳۶
جبل پور	۳	۲۸	۴۲	نیپال	۳	۴۸	۵۶	بغداد	۱	۹	۳۶

شناخت اوقات تحویل آفتاب

جو احباب تحویل کا عملی وقت دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہئے کہ وقت مقررہ سے ایک گھنٹہ پیشتر ایک جگہ کو صاف کرکے خوشبویات مثل صندل و لوبان کا بخور کرکے ایک گھڑا یا تانبے کا برتن لا کر اس کے پیندے کے درمیان میں سوئی کے برابر سوراخ کر دیں اور اس کو پانی سے بھر کر معلق باندھ دیں۔ تاکہ پانی کی دھار اس سوراخ سے جاری رہے اور جس قدر آدمی اس جگہ موجود ہوں سب سفید لباس پہنے اور خاموش ہو کر یاد الہی میں مشغول ہوں جس وقت تحویل ہوگی چلتی ہوئی پانی کی دھار بند ہو جائیگی چونکہ یہ اشارہ غیبی ہوتا ہے۔ اس لئے خوب غور اور توجہ سے اس کو دیکھنا چاہئے



عمل بروقت تحویل آفتاب

عاملان علم جفر کے نزدیک یہ وقت نہایت مبارک ہے۔ اس وقت پر عملیات و تعویذات کا تیار کرنا نہایت متبرک و پرتاثیر مانا گیا ہے۔ پس اس سال بلحاظ رفتار فلکی مندرجہ ذیل طلسم کو تیار کرکے پاس رکھنا کشائش کاروبار ترقی روزگار اور مہم کام میں کامیابی انشاء اللہ بہت پر تاثیر ہے۔ پس بوقت تحویل پاک و صاف ہو کر لباس زیب تن کر کے ایک علیحدہ جگہ خلوت میں بیٹھیں۔ اور بخور عود و لوبان کا روشن کریں۔ اور نیلے رنگ کی سیاہی سے کاغذ سفید پر مندرجہ ذیل طلسم کو لکھیں۔ اور منہ جانب مشرق رکھیں۔ اور یکسوئی قلب سے یاد الہی میں مشغول ہوں۔ پھر اس طلسم کو پارچہ برنگ نیلا میں محفوظ کرکے تمام سال پاس رکھیں اور اسکی عجیب و غریب تاثیر کو دیکھیں۔

صورت طلسم یہ ہے

ولفقہ مشرقیت

(نوٹ) جو صاحب خود اس طلسم کو تیار نہ کر سکیں۔ ہم سے تیار شدہ طلسم منگوالیں۔ قیمت ۸ عہ

نقشہ جات متحیرہ یعنی پانچ سیارے جو اپنے محور پر سیدھی و الٹی رفتار سے گردش کرینگے بابت سنہ ۱۹۳۶ء

واضح ہے کہ سورج و چاند ہمیشہ اپنے محور پر سیدھی رفتار سے گردش کرتے ہیں۔ مگر پانچ سیارے یعنی منگل۔ بدھ۔ برہسپت شکر اور سنیچر یہ پانچوں کبھی سیدھی اور کبھی الٹی رفتار سے چلتے ہیں۔ اہل ہنود سیدھی رفتار کو مارگی اور الٹی رفتار کو بکری بولتے ہیں۔ جن کی اوقات جنتری میں درج ہے۔ ذیل میں ان پانچوں سیاروں کی سیدھی و الٹی چال سے نقشے دکھلائے گئے ہیں۔ جس صاحب کو بکری و مارگی ہونے کا ٹھیک وقت دیکھنا ہو وہ جنتری میں دیکھ لیں۔











(**نوٹ**) اس سال میں منگل اور شکر ہر دو سیارے بکری نہیں ہونگے

ملماس سمت ۱۹۹۳ بکرم میں اختلاف

ہر سال اس سال میں ملماس کے مہینہ میں بہت کچھ گڑبڑ ہے۔ گنت کی ریتی سے اسوج کا مہینہ ملماس ہوتا ہے۔ اور چندر ماس سنکرانتی رمت کی ریتی سے بھادوں کا مہینہ ملماس کا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ہمیشہ سے گنت کی ریتی کو ہی مانتے چلے آتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ماہ اسوج کو ملماس لگایا ہے اس فرق کی وجہ سے اس سال بھادوں اور دوسرے پکش والوں کا پتر پکش یعنی شرادھوں میں ایک ماہ کا فرق پڑیگا یعنی اسوج ملماس ماننے سے شرادھ ۱۷ بھادوں سے ۳۱ بھادوں تک ہونگے۔ اور بھادوں ملماس ماننے سے شرادھ ۱۵-اسوج سے ۳۰-اسوج تک ہونگے پس یہی فرق پڑیگا۔ ہم نے دونوں پکش آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم تو گنت کی ریتی کو ہی درست مانتے ہیں۔ اس لئے اسوج کو ملماس مانا ہے۔

پنڈت رگھناتھ داس جوتشی

رسالہ تاثیرات اجتماع سیارگان

شائقان علم جوتش کی خاطر ہم نے نہایت محنت و کوشش سے بڑے بڑے پراچین جوتش کے گرنتھوں کی مدد سے یہ رسالہ تیار کیا ہے جس میں تمام سیارگان کے باہم ایک جگہ اکٹھے ہونے کا پھل نہایت بالتشریح درج کیا گیا ہے۔ اس رسالہ کے مطالعہ کر لینے کے بعد آپ زائچہ سیارگان کو دیکھ کر فوراً ہر قسم کی پیشگوئی بابت ارزانی و گرانی غلہ۔ قحط۔ طوفان۔ بارش۔ آندھی۔ زلزلہ۔ جنگ و جدل وغیرہ وغیرہ کی نسبت کر سکیں گے علم جوتش کے شائقین کو اس رسالہ کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔ قیمت آٹھ آنہ (۸) محصول علاوہ ملنے کا پتہ: مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

نادر و نایاب دائمی کیلنڈر

جس سے سنہ عیسوی کے ہر ایک مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے

مشہور عالم جنتری کے ناظرین! اگر آپ کو سنہ عیسوی کے کسی مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہو۔ تو اس آسان طریقہ سے معلوم کر لیں۔ کہ سنہ مطلوبہ یعنی سنہ کے جس مہینہ کی پہلی تاریخ معلوم کرنی ہو۔ کو ۲۸ پر تقسیم کرو۔ جو باقی رہے۔ اس میں سے ایک عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھو جس جگہ باقی اعداد ملیں۔ اس کے زیریں جو یوم لکھا ہے۔ اس کے مقابل جو مہینہ لکھا ہے۔ اس مہینہ کی پہلی تاریخ کو وہی یوم ہے۔ چونکہ ہم نے ہندی زبان میں یوموں کے نام لکھے ہیں۔ اس لئے بتلایا جاتا ہے۔ کہ اتوار کو یکشنبہ اور سوموار کو دوشنبہ اور منگلوار کو سہ شنبہ اور بدھوار کو چہارشنبہ اور ویروار کو پنجشنبہ یا جمعرات اور شکروار کو جمعہ اور سنیچروار کو شنبہ فارسی زبان میں کہتے ہیں۔ پس اس نقشہ سے آپ ہر ایک سنہ عیسوی خواہ ماضی ہو یا مستقبل یا حال۔ اس کے ہر مہینہ کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس مہینہ کی جس تاریخ کا یوم معلوم کرنا چاہو۔ پھیلاوٹ سے کر لو۔

احتیاط۔ چونکہ ماہران علم ہیئت نے ہر سال کی کسرات کے لحاظ سے سنہ ۱۹۰۰ء پوری صدی میں جبکہ حساب سے فروری ۲۹ یوم کا ہونا چاہئے تھا۔ جو کسرات کو پورا کرنے کے لئے ۲۸ یوم کا قرار دیا تھا۔ اس لئے اس نقشہ سے سنہ ۱۸۹۹ء تک تو حسب بالا طریق پر یوم درست نکلیں گے۔ مگر سنہ ۱۹۰۰ء اور اس کے بعد یہ خیال رہے۔ کہ جو اعداد حسب قاعدہ مذکورہ بالا باقی رہیں۔ ان میں سے دو عدد کم کر کے باقی کو نقشہ میں دیکھو۔ تو یوم درست نکلے گا۔

مثال سنہ ۱۸۹۸ء میں جنوری کی پہلی تاریخ کا یوم معلوم کرنا ہے۔ پس سنہ ۱۸۹۸ء کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۲۲ رہے۔ ان میں سے ایک کو کم کیا۔ تو باقی ۲۱ نقشہ میں دیکھا۔ تو ۲۱ کے زیریں جنوری کے مقابل سنیچروار لکھا ہے جو درست ہے۔ دوسری مثال سنہ ۱۹۱۲ء میں مارچ کی پہلی تاریخ کا یوم دیکھنا ہے۔ اس سنہ ۱۹۱۲ء کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ تو باقی ۱۰۔ چونکہ یہ انیس سو سے زیادہ ہے۔ پس لئے اس میں سے ۲ کم کئے۔ تو باقی رہے آٹھ۔ نقشہ میں ۸ کے زیریں ماہ مارچ کے مقابلہ پر اتوار لکھا ہے۔ نکال کر دیکھو۔ درست ہے۔

نام مہینہ	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
جنوری	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار
فروری	شکر	منگل	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار
مارچ	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار
اپریل	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار
مئی	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل
جون	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر
جولائی	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار
اگست	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ
ستمبر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر
اکتوبر	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار
نومبر	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار
دسمبر	اتوار	سوموار	بدھ	ویروار	شکر	سنیچر	سوموار	منگل	بدھ	ویروار	سنیچر	اتوار	سوموار	منگل	ویروار	شکر	سنیچر	اتوار	منگل	بدھ	ویروار	شکر	اتوار	سوموار	منگل	بدھ	شکر	سنیچر

قاعدہ سنہ نا معلوم کو معلوم کرنا

رائج الوقت سمت بکرم سے ۵۷ کم کرنے پر سنہ عیسوی نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۱۳۵ کم کرنے پر سمت شاکا نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۹ کو کم کرنے بعد سنہ ہجری معلوم ہوتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۹ کم کرنے پر سمت فصلی نکل آتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۵۰ کم کرنے پر سنہ بنگلہ معلوم ہوتا ہے اور سمت بکرم سے ۶۴۲ کم کرنے پر سنہ الٰہی نکل آتا ہے چونکہ رائج الوقت سنین میں سے سمت بکرم شکرانتی بیساکھ سے اور سمت شاکا یکم چیت سے اور سنہ ہجری یکم محرم سے اور سمت فصلی اسوج سے اور سنہ بنگلہ یکم بیساکھ سے سنہ الٰہی یکم کلوار سے شروع ہوتے ہیں۔ اور سمت بکرم پر ۳۰۴۴ عدد زیادہ کریں۔ تو سمت کلجگ نکل آئیگا۔ اگر سمت بکرم پر ۲۸۹۱ عدد زیادہ کریں۔ تو پیدائش نوح کے سال نکل آئینگے۔ اگر سمت بکرم پر ۵۰۰ عدد زیادہ کریں۔ تو سمت بدھ کا معلوم ہوگا۔ اگر سمت بکرم پر ۲۹۰ عدد زیادہ کریں۔ تو اس سے سمت سکندری معلوم ہو سکتا ہے۔ **نوٹ۔** لیپ کے سال کے سوا ہر ایک سال کے یوم درست معلوم ہونگے۔ لیکن لیپ کے سال میں جنوری اور فروری کے یوم تو درست ہونگے۔ مگر اس کے بعد مارچ سے لیکر اگلے سال کی فروری تک ہر ماہ کی پہلی تاریخ میں ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ پس ناظرین لیپ کے سال میں اس بات کا خیال رکھیں۔ کہ جو یوم نقشہ سے معلوم ہو اس سے اگلا دن جانو۔ مثال سنہ ۱۹۱۶ء جو لیپ کا سال ہے۔ اس کو ۲۸ پر تقسیم کیا۔ باقی ۱۲ رہے۔ ۲ کم کئے تو ۱۰ رہے۔ نقشہ میں اس کے زیریں جنوری اور فروری کا پہلا یوم تو درست ہے۔ لیکن مارچ کے مقابل میں منگل لکھا ہے۔ لیکن اس سے اگلے دن بدھ کی پہلی ہوگی۔ اور فروری سنہ ۱۹۱۷ء تک اسی طرح ایک یوم کا فرق پڑیگا۔ اسی طرح ہر لیپ کے سال میں دیکھ لو۔

پرکھ پھل یعنی نتیجہ سال بحساب اہل ہند سمت ۱۹۹۳ بکرم و شکہ ۱۸۵۸ شاکھا مطابق سنہ ۱۹۳۶ء و سنہ ۱۳۵۵ ہجری

پیارے ناظرین! یہ دنیا انادی ہے۔ اس میں کسی چیز کو قیام نہیں۔ انقلاب کا سلسلہ ہر لمحہ جاری ہے۔ آبادیاں ویران اور بیابان آباد ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے سدھانت گرنتھوں میں اس سرشٹی کا ایک ارب چار ارب بتیس کروڑ سال کا ایک کلپ ہے جس کو کلپ یا برہم دن کہتے ہیں۔ چنانچہ علم جوتش کے پرانے اور پرمانک گرنتھ سورج سدھانت میں اس کا حساب اس طرح پایا جاتا ہے۔ ایک کلپ کے ۱۴ حصے ہیں جن کو منو کہتے ہیں۔ ایک منو میں ۷۱ چترجگی گذرتی ہیں۔ اور ایک چترجگی چار یگوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ ان چار یگوں کا نام مع تعداد حسب ذیل ہے۔ اول ست یگ ۱۷۲۸۰۰۰ سال۔ دوم ترتا یگ ۱۲۹۶۰۰۰ سال۔ سوم دواپر یگ ۸۶۴۰۰۰ سال۔ چہارم کلیگ ۴۳۲۰۰۰ سال۔ جب ان چاریگوں کے سالوں کو جمع کیا۔ تو ۴۳۲۰۰۰۰ سال ہوتے ہیں کو ایک چترجگی یا مہایگ کہتے ہیں ہر ایک منو کے شروع میں ایک سندھی ہوتی ہے جس کی میعاد ۱۷۲۸۰۰۰ برس کی ہوتی ہے۔ بموجب سورج سدھانت اس وقت ۶ منو گذر کر ساتواں منو گذر رہا ہے۔ اور ساتویں منو کی ۲۷ چترجگی گذر کر اٹھائیسویں چترجگی گذر رہی ہے جس کے تین یگ گذر کر چوتھا یگ گذر رہا ہے۔ جس کا نام کلیگ ہے۔ اور ۱۹۹۳ بکرم کے آخر تک اس کی عمر کے ۵۰۳۷ برس گذر جائیں گے۔ پس بموجب حساب مذکورہ بالا ایک چترجگی کی میعاد ۴۳۲۰۰۰۰ کو ۷۱ سے ضرب دیا۔ تو ۳۰۶۷۲۰۰۰۰ برس ہوئے یہ ایک منو ہوا۔ چونکہ ۶ منو گذر چکے ہیں۔ اس لئے اس کو ۶ سے ضرب دیا۔ تو چھ منوں کی میعاد ۱۸۴۰۳۲۰۰۰۰ برس ہوئی۔ ۶ منوں کے درمیان ۷ سندھیاں گذر چکی ہیں۔ ایک ایک سندھی کی میعاد ۱۷۲۸۰۰۰ کو ۷ سے ضرب دیا تو ۱۲۰۹۶۰۰۰ برس ہوئے۔ ان ہر دو کو جمع کرنے سے ۶ منوؤں کی گذشتہ ۱۸۵۲۱۶۰۰۰۰ برس ہوئی۔ اب جو ساتواں منو گذر رہا ہے اس کی ۲۷ چترجگی گذر چکی ہیں۔ اور اٹھائیسویں گذر رہی ہے۔ پس ایک چترجگی کی مدت کو ۲۷ سے ضرب دیا تو ۴۳۲۰۰۰۰ × ۲۷ = ۱۱۶۶۴۰۰۰۰ برس ہوئے۔ اب جو اٹھائیسویں چترجگی گذر رہی ہے۔ اس کے ۳۸۹۳۰۳۷ برس اس میں جمع کئے۔ تو ۱۲۰۵۳۳۰۳۷ برس ہوئے۔ اس مجموعہ کو منوؤں کی مدت ۱۸۵۲۱۶۰۰۰۰ میں جمع کیا تو ۱۹۷۲۹۴۹۰۳۷ سال ہوئے۔ اس میں سے سرشٹی کے ۱۷۰۶۴۰۰۰ برس تفریق کئے۔ تو باقی ۱۹۵۵۸۸۵۰۳۷ برس سرشٹی کی پیدائش کے ہیں۔ چونکہ سرشٹی کی کل عمر ایک کلپ یعنی ۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰ سال ہے۔ اس لئے سرشٹی کی پیدائش کے برسوں کو اس میں سے تفریق کیا۔ تو باقی اس سرشٹی کی عمر ۲۳۶۴۱۱۴۹۶۳ برس رہی جس کے گذرنے پر یہ سرشٹی فنا ہو کر پھر از سر نو پیدا ہوگی۔ اور یہ انادی چکر اسی طرح چلتا رہیگا۔ سمت ۱۹۹۳ بکرمی میں دیگر سموت حسب ذیل ہونگے۔

نام سمت	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
تعداد برس	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

اس برس کے ادھکاری یہ ہیں

(۱) برس کا راجہ منگل ہے۔ بارش کم بادل کی گرج اور بجلی کی چمک زیادہ ہو۔ ژالہ باری سے فصل کو نقصان پہنچے۔ حادثات ارضی و سماوی بہت ہوں۔ آتشزدگی چوری و راہزنی کی وارداتوں کی کثرت۔ امراض [illegible] خون پھوڑا پھنسی چیچک وغیرہ سے لوگوں کو سخت تکلیف پہنچے۔ جنگلات لال رنگ کی اشیاء۔ مثلاً سانپ۔ بچھو۔ چوہے وغیرہ کی پیدائش زیادہ۔ جانوروں کی اموات زیادہ ہو۔ پہاڑوں میں آتشزدگی زیادہ بڑھ جاوے اور نقصان کرے۔

(۲) وزیر سورج ہے۔ گرمی زیادہ پڑے۔ غلہ کا نرخ گراں۔ وبائی امراض سے لوگ تنگ ہوں۔ بغض۔ حسد و عداوت کا مادہ بہت پیدا ہو۔

(۳) بارش کا مالک سورج ہے۔ بارش کم۔ ندی نالوں میں پانی خشک ہو جاتے۔ گنے اور چاول کی پیداوار کم ہو۔ لوگوں کو تکلیف رہے۔

(۴) زراعت کا مالک بدھ ہے۔ زراعت کی پیداوار تو اچھی ہوگی۔ لیکن نقصان زیادہ ہو جاویگا۔ کیونکہ راجہ اور وزیر دونوں کرور رگ میں ہیں۔

(۵) سپہ سالار منگل ہے۔ شاہان وقت کے مرتبہ میں بلندی۔ لوگ آرام سے رہیں

(۶) دولت کا مالک بدھ ہے۔ دولت کی ترقی ہو۔ شاہ یعنی اور وزرا میں اتحاد رہے

(۷) رسوں کا مالک شکر ہے۔ رسدار اشیاء کی پیداوار اچھی ہو۔ تاکہ کسانوں میں دکھوں کا خیال زیادہ رہے۔

(۸) غلہ کا مالک منگل ہے۔ غلہ کا نرخ گراں۔ بیماری زیادہ۔ گھی تیل سن۔ گوڑ شکر وغیرہ گراں رہے۔

(۹) دھاتوں کا مالک بدھ ہے۔ سب طرح کی دھاتوں کی بڑھتی ہو۔

(۱۰) پھلوں کا مالک سنیچر ہے۔ پھل پھول نشٹ ہو جاویں۔ سردی زیادہ پڑے۔ پہاڑوں پر برف باری زیادہ ہو۔

روہنی کا واس تٹ پر۔ برس کا واس دھوبی کے گھر ہے۔

ثمرہ۔ بارش درمیانہ درجہ ندی نالوں میں پانی کم۔ غلہ کا نرخ گراں رہے۔

بین الکلا۔ ۳۰۰ نش ۴۳ کلا ہے۔

سمت سمر۔ اس سال میں سربدھاری نام سمت سر کا پرویش ہوگا جس کا سوامی سورج ہے۔ غلہ کا نرخ گراں۔ ساون بھادوں میں بارش کی قلت۔ لوگوں پر خوف و ہراس۔ بیماری پھیلے۔

شنکرانتیں۔ اس برس ۳ شنکرانتیں کرور والی ہیں اور ۹ سکھ والی ورشا پرویش ہوگی۔

آمادش۔ اس سمت میں صرف ایک آمادش سوماوتی اور ۲ سنیچرواری ہوتی ہیں۔

کنڈلی ہائے برکھ پرویش

کنڈلی برکھ پرویش [illegible]



کنڈلی میکھ سنکرانتی ۱۳ اپریل [illegible]



کنڈلی آدرا پرویش ۲۱ جون [illegible]



گرہن ہائے در سنہ ۱۹۳۶ء

(۱) چاند گرہن۔ پوہ شدی پورنماشی بدھوار ۲۵ پوہ سمت ۱۹۹۲ بکرم مطابق ۸ جنوری ۱۹۳۶ء کو چاند گرہن ہوگا ۵۰ گھڑی ۴۳ پل پر شروع ۵۴ گھڑی ۲ پل پر ختم ہو جاویگا۔ وقت حسب انگریزی ۹ بجکر ۷ منٹ پر شروع ہو ایک بجکر ۷ منٹ پر ختم ہوگا۔

جنوب
شمال
مغرب

(۲) سورج گرہن۔ ہاڑ بدی آمادش شکروار ۷ ہاڑ سمت ۱۹۹۳ بکرم مطابق ۱۹ جون ۱۹۳۶ء کو سورج گرہن ہوگا۔ ۹ گھڑی ۴۰ پل پر شروع ہو کر ۱۰ گھڑی ۵۴ پل پر ختم ہو جاویگا۔ وقت حسب انگریزی ۹ بجکر ۲۵ منٹ پر شروع ۱۰ بجکر ۲۳ منٹ پر ختم ہو جاویگا۔

مشرق
جنوب
شمال
مغرب

(۳) چاند گرہن۔ ہاڑ شدی پورنماشی بدھوار ۲۱ ہاڑ سمت ۱۹۹۳ بکرم مطابق ۴ جولائی ۱۹۳۶ء کو چاند گرہن ہوگا۔ ۴۸ گھڑی ۸ پل پر شروع ۵۰ گھڑی ۲ پل پر ختم ہوگا۔ وقت حسب انگریزی ۹ بجکر ۵ منٹ پر شروع ۱۰ بجکر ۲۳ منٹ پر ختم ہو جاویگا۔

مشرق
جنوب
شمال
مغرب

نوٹ۔ ایک ماہ میں دو گرہن ہیں جس کا ثمرہ اچھا نہیں ہوگا۔

سرب ارتھ سدھ یوگ در سنہ ۱۹۳۶ء

بعض اوقات ایسے ضروری کام پیش آجاتے ہیں جن کے لئے مہورت کا انتظار دشوار معلوم ہوتا ہے جن کے واسطے بعض پنڈتوں نے سرب ارتھ سدھ یوگ کو مقدم رکھا ہے۔ پس ناظرین مشہور عالم جنتری کی آسانی کیلئے سنہ ۱۹۳۶ء کے ہر ماہ کے سرب ارتھ سدھ یوگ کی تاریخیں نکال کر درج کی گئی ہیں مگر اس بات کا خیال کرنا چاہئے کہ جو تاریخ لکھی ہے اس روز کا شبھ وقت گھڑی پل جنتری میں درج ہے۔ اسی وقت میں کام کرنا چاہئے۔ جو کہ ہر طرح سے بخیر و خوبی سرانجام ہوگا۔

۱ جنوری کی ۲-۳-۷-۹-۱۰-۱۱-۲۰-۲۵-۲۸ فروری کی ۳-۷-۱۲-۲۱-۲۵-۲۷-۲۸ مارچ کی ۶-
۲۰-۳۰ اپریل کی ۵-۱۰-۲۰-۲۶ مئی کی یکم ۳-۸-۱۰-۱۴-۱۵-۲۷-۳۱ جون کی ۴-۱۷-۲۲-
۳ جولائی کی ۱-۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۹-۳۰ اگست کی ۲-۴-۹-۱۱-۱۲-۱۳-۳۰ ستمبر کی ۴
۶-۱۱-۱۹-۲۱-۳۰ اکتوبر کی یکم ۵-۱۳-۱۷-۱۹-۲۲-۲۹-۳۰ نومبر کی ۲-
۵-۱۱-۲۰-۲۵-۳۰ دسمبر کی ۳-۱۸-۲۲-۲۴ تاریخ کو یوگ ہے۔

سنیچر کا پایہ معلوم کرنے کا طریقہ

اکثر معتقدان علم جوتش بروقت تبدیلی راس سنیچر کا پایہ معلوم کیا کرتے ہیں کہ ہم کو سنیچر کس پایہ میں آیا ہے۔ پس ناظرین کی رفع تکلیف کے لئے ہم اس کا قاعدہ ذیل میں درج کر دیتے ہیں۔ تاکہ دیکھنے میں آسانی ہے۔ بوقت تبدیلی سنیچر جنتری میں دیکھو۔ کہ اس روز چندرماں کس راشی پر ہے۔ اپنے نام کی راشی سے چندرماں کی راشی تک شمار کرو۔ اگر شمار میں پہلی۔ چھٹی۔ گیارھویں ہو تو سونا کا پایہ۔ اگر دوسری۔ پانچویں۔ نانویں ہو تو چاندی کا پایا۔ اگر ساتویں تیسری۔ دسویں ہو۔ تو تانبہ کا پایہ۔ اگر چوتھی۔ آٹھویں۔ بارھویں ہو۔ تو لوہا کا پایہ جانو۔ سونا کا پایہ سعید اصغر جانو۔ چاندی کا پایہ سعدی اکبر۔ تانبہ کا پایہ معمولی اور لوہا کا پایہ نحس منحوس ہوتا ہے۔

بارہ راشیوں کو سمت ۱۹۹۳ بکرم میں سنیچر کا پایا

۳۔ اپریل ۱۹۳۴ء مطابق ۲۰ چیت سمت ۱۹۹۱ کو برچھک کے چندرماں میں سنیچر کنبھ راشی میں داخل ہوا تھا اور اس سال بھی بدستور اسی راشی میں رہیگا۔ اس لئے بارہ راشیوں کو مندرجہ ذیل پایہ پر رہیگا +

نام راس	متھن۔ برچھک۔ مکر	کرک۔ تلا۔ مین	میکھ۔ کنیا۔ کنبھ	برکھ۔ سنگھ۔ دھن
پایہ	سونا	چاندی	تانبہ	لوہا
ثمرہ	مال کم ہو	لابھ۔ ترقی رتبہ	آمدن خرچ مساوی	تکلیف حیرانی ہو

انسان کے اعضاؤں پر سنیچر آنے کا ثمرہ

اکثر معتقدان علم جوتش ہر سال اس بات کو بڑے شوق سے دریافت کرتے ہیں کہ سنیچر اس سال ان کو کس اعضا پر آیا ہے۔ اور کیا پھل کرے گا۔ لہذا ان کی آسانی کی خاطر نقشہ بابت سال ۱۹۳۶ء ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ اپنے نام کا نچھتر اس نقشہ میں دیکھیں۔ جہاں پر وہ نچھتر لکھا ہے۔ اس کے اوپر اعضاء کا نام اور نیچے اس کا ثمرہ درج ہے۔

ثمرہ	نچھتر	اعضا
[illegible] عزت [illegible]	پوربا بھادرپد	چھاتی
بیماری و فکر	اترا بھادرپد	منہ
[illegible] و مال	ریوتی۔ اشونی۔ بھرنی۔ کرتکا	دست راست
نقل و حرکت	روہنی۔ مرگشر۔ آردرا	پائے راست
سفر جا پڑے	پنربس۔ پکھ۔ اشلیکھا	پائے چپ
فضول خرچ	مگھا۔ پوربا پھالگنی۔ اترا پھالگنی۔ ہست	دست چپ
بلندی مرتبہ	چترا۔ سواتی۔ بشاکھا۔ انورادھا۔ جیشٹا	سینہ
ہر دلعزیز ہو	مولا۔ پوربا کھاڈ۔ اترا کھاڈ۔ شرون	چشم
[illegible] اسہال	دھنشٹا۔ ست بھکھا	مقعد

کسی جوتشی سے مت پوچھو کہ ہمارا آج کا دن کس طرح گذریگا

اگر آپ کو روزمرہ کے رنج و راحت دیکھنے کا شوق ہے۔ تو آپ کسی جوتشی سے مستفید نہ ہوں۔ بلکہ ہر روز بوقت صبح آٹھ بجے مشہور عالم جنتری میں اس روز کے نچھتر کو دیکھ لیں۔ اور پھر مندرجہ ذیل شکل کا چکر بنا کر جہاں نمبر ۱ کا

ہندسہ لکھا ہے۔ وہاں وہ نچھتر لکھ کر اس سے آئندہ کے نچھتر بالترتیب دوم سوم پر کر کے ۲۸ نچھتروں کا دور پورا کر دو۔ اور پھر دیکھو۔ کہ آپ کے نام کا نچھتر کس مقام پر پڑتا ہے۔ پس جس جس مقام پر پڑتا ہے۔ اس ثمرہ دیکھ کر تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کہ آیا وہ یوم کس طرح گذر رہا ہے +



ثمرہ۔ اگر آپ کے نام کا نچھتر دائرہ کے اندر پڑتا ہے۔ تو اس روز طبیعت میں فرحت اور سب طرح سے آرام ملیگا جو کام کریں گے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر دائرے کے باہر پڑے تو نصف یوم خوشی سے گذرے۔ مگر آخر روز دل کو فکر اور تشویش غم و غصہ پیدا ہو۔ جسم میں تکلیف ہو۔ اور اگر ترشول کے اوپر پڑے۔ تو تمام دن دل گھبرائے اور نسبت مال کا نقصان ہو۔ لوگوں سے مخالفت۔ دشمن سے دہشت جسم میں روگ پیدا ہو۔ اور الٹی اور چیچک نکلے ہو۔

لڑائی جھگڑے صحت بیمار اور سفر کے لئے

اگر سفر جانا ہو یا کسی بیمار کی بیماری کا حال دیکھنا ہو یا لڑائی جھگڑے اور مقدمات کا نتیجہ دیکھنا ہو۔ کہ کیا ہوگا۔ تو چاہیئے۔ کہ جس روز سفر کو جانا ہو یا جس وقت کوئی شخص بیمار ہو۔ یا دشمن کے مقابلہ میں جانا ہو۔ تو اس وقت دیکھو۔ کہ سورج کس نچھتر پر ہے جس نچھتر پر اس وقت سورج جس نچھتر پر ہو۔ اس کو یاد رکھو۔ اور ایک چکر حسب نمونہ ذیل بنا کر جس نچھتر میں سورج ہو۔ جہاں ایک کا ہندسہ لکھا ہے۔ وہاں اس نچھتر کو لکھ کر باقی نچھتروں کو بالترتیب دوم و سوم نمبر پر لکھو اور دیکھو کہ سائل کے نام کا نچھتر کس جگہ پر آیا ہے۔



ثمرہ۔ پس اگر نمبر ۱ یا ۲ یا ۸ پر نام نچھتر پڑے۔ تو سفر میں تکلیف اور دشمن کے مقابلہ میں شکست اور حیرانی و پریشانی ہو۔ اگر نمبر ۳ یا ۴ یا ۵ یا ۹ یا ۱۵ یا ۲۲ یا ۲۶ یا ۲۷ پر آئے۔ تو فکر و تشویش۔ دشمن سے خوف اور بیمار کی بیماری بڑھے۔ اگر نمبر ۱۰ سے نمبر ۲۰ تک پڑ جائے۔ تو سفر میں ناکامیابی اور بیمار کو سخت تکلیف بلکہ قریب المرگ ہو۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ اور دھن کا نقصان ہو۔ اگر نمبر ۵ یا نمبر ۷ یا ۲۳ یا ۲۴ یا ۲۵ پر پڑے سفر کریں۔ تو کامیابی اور صحت جسم اگر بیمار ہو تو جلد صحت پاوے۔ مقدموں اور لڑائی جھگڑوں میں کامیابی ہو۔ اور زر و مال کا مفاد ہو +

یہ بھی خیال رکھو۔ اگر نام کے نچھتر سے بوقت سفر سورج کا نچھتر اٹھارھواں ہوگا۔ تو سفر میں حیرانی و پریشانی ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں بیمار ہوگا تو بڑی مشکل سے صحت پائیگا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے وقت میں دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ تو ہر طرح سے کامیابی اور فتح پائیگا۔

بدھ	١	۵	١١	٢٢	١٨	ستمی	١٠ ١	اترابھادوں	٣۵ ٣۵	بریان	٣٠ ۴۵			١٠ ١	٣٢ ١	٢۴ ۵۵	٧ ١	۴ ۵٩	◐	
جمعرات	٢	٦	١٢	٢٣	١٩	اشٹمی نومی	[illegible]	ریوتی	٣١ ١	پرگھ	١٢ ۵٢	میکھ	٣١ ٣١			٢۴ ۵٦	٧ ١	۴ ۵٩		پنچک ختم ٣١-٣١
جمعہ	٣	٧	١٣	٢۴	٢٠	دسمی	٢٣ ٣	اشونی	٢٧ ۴٣	سدھ	٣٠ ۵٩					٢۴ ۵٨	٧ ١	۴ ۵٩		
ہفتہ	۴	٨	١۴	٢۵	٢١	ایکادشی	٢٨ ٢٩	بھرنی	٢٢ ٢٨	سادھ	۵١ ٣	برکھ	٣٩ ١٠	٢٠ ۴٧	٢٨ ٣٩	٢۵ ٠	٧ ٠	۵ ٠		پتردا ١١ ایکادشی
اتوار	۵	٩	١۵	٢٦	٢٢	دوادشی	٢٢ ٣۴	کرتکا	٢٣ ١٣	شبھ	۴٢ ۵٢					٢۵ ١	٧ ٠	۵ ٠		
سوموار	٦	١٠	١٦	٢٧	٢٣	ترودشی	٢١ ١١	روہنی	٣٠ ١٢	شکل	٣٩ ٢٨	متھن	۴٩ ٢١			٢۵ ٣	٧ ٠	۵ ٠		شکر کنبھ میں ٣٢-٣٣ پر آیا
منگل	٧	١١	١٧	٢٨	٢۴	چتردشی	٣١ ۵١	مرگ سر	١٩ ٣٠	برہم	٣٢ ۵٣			٣٩ ۵١		٢۵ ۵	٦ ۵٩	۵ ١		
بدھ	٨	١٢	١٨	٢٩	٢۵	پورنماشی	٣٩ ١٣	آردرا	١٩ ۵١	اندر	٣١ ١٣				٩ ٣٣	٢۵ ٧	٦ ۵٩	۵ ١	○	چاند گرہن - پورنماشی برت
جمعرات	٩	١٣	١٩	ماگھ	٢٦	ایکم	٣٩ ۵٩	پنربس	٢١ ٢٢	بیدھرت	٢٨ ٢٧	کرک	٩ ١٦			٢۵ ٩	٦ ۵٨	۵ ٢		ماگھ اشنان شروع
جمعہ	١٠	١۴	٢٠	٢	٢٧	دوج	۴١ ٨	پکھ	٢٣ ٣٣	بشکنبھ	٢٦ ۵٨					٢۵ ١٠	٦ ۵٨	۵ ٢		
ہفتہ	١١	١۵	٢١	٣	٢٨	تیج	۴۵ ١٣	اشلیکھا	٢٨ ٢٨	پریت	٢٦ ١٧	سنگھ	٢٨ ۴٨	١٣ ٣٩	٣۵ ١٣	٢۵ ١٢	٦ ۵٨	۵ ٢		
اتوار	١٢	١٦	٢٢	۴	٢٩	چوتھ	٣٩ ٣٠	مگھا	٣۴ ۴	آیوشمان	٢٩ ٢٢					٢۵ ١۴	٦ ۵٧	۵ ٣		گنیش چوتھ شکٹ چوتھ
سوموار	١٣	١٧	٢٣	۵	٣٠	پنچمی	۴٣ ٢٨	پوروا پھاگنی	۴٠ ٣	سوبھاگ	٢٦ ١٢	کنیا	۵٦ ۵۵			٢۵ ١٦	٦ ۵٧	۵ ٣		لوہڑی
منگل	١۴	١٨	٢۴	٦	ماگھ	چھٹ	۵٩ ٢۵	اتراپھاگنی	۴٧ ٢٣	شوبھن	٢٨ ٢٢			۵٩ ۴۵		٢۵ ١٨	٦ ۵٧	۵ ٣		سورج مکر میں ١٦ - ٠٠
بدھ	١۵	١٩	٢۵	٧	٢	ستمی	٦٠ ٠٠	ہست	۵٣ ۵	اتگنڈ	٢٩ ۴۵				٣٢ ٣١	٢۵ ٢١	٦ ۵٦	۵ ۴	◑	
جمعرات	١٦	٢٠	٢٦	٨	٣	ستمی	۵ ١٢	چترا	۵٩ ١٣	سوکرمان	٣٠ ۵٢	تلا	٢٦ ٩			٢۵ ٢٣	٦ ۵٦	۵ ۴		
جمعہ	١٧	٢١	٢٧	٩	۴	اشٹمی	١٠ ٣	سواتی	٦٠	دھرت	٣١ ٣٠					٢۵ ٢٦	٦ ۵۵	۵ ۵		
ہفتہ	١٨	٢٢	٢٨	١٠	۵	نومی	١٣ ٢٠	سواتی	٢ ٢٠	شول	٣١ ٣١	برچھک	۵٣ ٣	۴۵ ۴٨		٢۵ ٣٠	٦ ۵۴	۵ ٦		[illegible] مغرب ۵٣-٣
اتوار	١٩	٢٣	٢٩	١١	٦	دسمی	١۵ ١٨	بشاکھا	٩ ١٠	گنڈ	٣٠ ۵١				١٦ ١۵	٢۵ ٣٢	٦ ۵۴	۵ ٦		بدھ بکری ۵٦ - ۵٦ [illegible] دھن میں ٢٢-٢ پر آیا
سوموار	٢٠	٢۴	٣٠	١٢	٧	ایکادشی	١٩ ١٢	انرادھا	١٢ ٢٩	بردھ	٢٩ ٨					٢۵ ٣۴	٦ ۵٣	۵ ٧		کھٹ تلا ایکادشی
منگل	٢١	٢۵	دلو	١٣	٨	دوادشی	١٩ ٣١	جیشٹھا	١۴ ٣٧	دھرو	٢٦ ۴٢	دھن	١۴ ٣٢			٢۵ ٣٧	٦ ۵٣	۵ ٧		
بدھ	٢٢	٢٦	٢	١۴	٩	ترودشی	١٨ ۵۴	مولا	١۵ ١٩	بیاگھات	٢٢ ٣٩			١٨ ۵٦	٢٧ ۵٦	٢۵ ۴٠	٦ ۵٢	۵ ٨		
جمعرات	٢٣	٢٧	٣	١۵	١٠	چتردشی	١٦ ۵٢	پوروا کھاڑا	١۴ ۵۵	ہرکھن	١٨ ٩	مکر	٣٩ ٣٢			٢۵ ۴٢	٦ ۵٢	۵ ٨	●	بدھ مغرب میں غروب ٢٨-١١
جمعہ	٢۴	٢٨	۴	١٦	١١	اماوس	١٣ ۵٣	اتراکھاڑا	١٣ ۴٣	بجر	١٢ ٣٧					٢۵ ۴۵	٦ ۵١	۵ ٩		مونی اماوس
ہفتہ	٢۵	٢٩	۵	١٧	١٢	ایکم	٩ ٠	شرون	١١ ١٠	سدھ	[illegible]	کنبھ	٣٩ ٣۵			٢۵ ۴٨	٦ ۵١	۵ ٩		چاند نظر آئیگا پنچک شروع ٣٩-٣٦
اتوار	٢٦	ذیقعد	٦	١٨	١٣	دوج تیج	[illegible]	دھنشٹا	٩ ١	بریان	۵۴ ٨					٢۵ ۵١	٦ ۵٠	۵ ١٠		
سوموار	٢٧	٢	٧	١٩	١۴	چوتھ	۵٣ ۵	ستبھکھا	[illegible]	پرگھ	۴٢ ٢٧	مین	۴٨ ۵۵	٢٧ ٠٠	۵٣ ۵	٢۵ ۵۴	٦ ۴٩	۵ ١١		
منگل	٢٨	٣	٨	٢٠	١۵	پنچمی	۴٨ ١٨	اترابھادوں	۵۴ ٣١	شیو	٣٦ ٣۵					٢۵ ۵٧	٦ ۴٩	۵ ١١		بسنت پنچمی
بدھ	٢٩	۴	٩	٢١	١٦	چھٹ	٣٢ ٣٠	ریوتی	۵٢ ۵	سدھ	٣٨ ۵٢	میکھ	۵٧ ۵			٢٦ ٠	٦ ۴٨	۵ ١٢		پنچک ختم ۵٢-۵
جمعرات	٣٠	۵	١٠	٢٢	١٧	ستمی	٣٦ ۵١	اشونی	۴٦ ١٣	سادھ	٢١ ١٠			٣٦ ۵٠		٢٦ ٣	٦ ۴٧	۵ ١٣		اچلا ستمی
جمعہ	٣١	٦	١١	٢٣	١٨	اشٹمی	٣١ ٣٠	بھرنی	٢٦ ٢٩	شبھ	١٣ ٣٠				۴ ١٠	٢٦ ٨	٦ ۴٧	۵ ١٣	◐	بھیشم اشٹمی

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ٢ جنوری کو بادل ہوئے تو بارش جلد ہونے کی علامت ہے۔ اگر ٨ جنوری کو آسمان ابر چھایا رہا - تو ماہ ہاڑ کی بارش کو بارش ضرور ہوگی۔ اگر ١٩ جنوری کو بادل گرجا اور بارش ہوئی - تو ماہ ساون و اسوج میں بارش کی سخت قلت ہوگی۔ اگر ٢٢ جنوری کو بجلی چمکے ہوا چلے - تو آئندہ بارش خوب ہوگی۔ اگر ٢۴ جنوری کو بادل ہوئے - تو ماہ بھادوں میں بارش اچھی ہوگی۔ اگر ٢۵ جنوری کو گھنے بادل ہوئے تو تمام سوگندھی والی جنسیں ارزاں ہونگی۔ اگر ٢٦ جنوری کو مطلع صاف رہا۔ تو ایک ماہ تک غلہ گراں ہوگا۔ اگر ٢٧ جنوری کو بادل گرجا تو پان - ناریل وغیرہ گراں ہونگے۔ اگر ٣٠ جنوری کو مطلع صاف رہا - تو تمام سال گرانی غلہ کی علامت ہے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت مکر جنوری ۱۹۳۶ء ۵م وقت



پن کال سنکرانت ۱۶ سے ۳۳ تک

پیشینگوئی بابت ماہ ماگھ

ابتدائے ۱۴ جنوری لغایت ۱۱ فروری

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت برونز منگلوار بیبھا پھالگن نکھشتر میں پردیش ہوگی۔ جو کہ ۵م مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں کمی بیشی ہوتی رہیگی۔ لیکن اوسط نرخ گرانی پر رہیگا۔ غلہ نخود موٹھ۔ مونگ۔ ماش۔ جوار۔ باجرہ وغیرہ کا نرخ بھی ایک حال پر نہ رہیگا۔ چاول۔ کھانڈ۔ دودھ۔ دہی۔ گھی۔ سن۔ سوت۔ نوار۔ روئی۔ کپاس کا نرخ گراں رہیگا۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ تو رہیہ۔ تارامیرا کا بھاؤ بھی تیز ہوگا۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد لال مرچ۔ پٹ سن۔ چندن۔ لاکھ۔ مسور وغیرہ گراں رہینگے۔ سونا۔ تانبہ۔ پیتل کا نرخ گراں قلعی۔ جستی۔ چاندی وغیرہ کا بھاؤ سم رہیگا لکڑی۔ اوپلے۔ تمباکو۔ چارہ۔ بھوسہ۔ کوڑی۔ گگل سن گراں ہونگے۔ پنساری کا سامان۔ زیرہ مرچ سیاہ۔ ہلدی۔ دھنیہ۔ وغیرہ۔ انار دانہ وغیرہ کا نرخ سم رہیگا۔

موسم۔ منگل و راہو کا ذاتی جوگ ہے جو کہ مستورات کی صحت خراب اور اسقاط زیادہ کریگا جنگل و سنیچر کا جوگ ہے جو کہ امراض پھیلائے۔ فسادات اور دنگل کی بیماری کی تاثیر رکھتا ہے اسلئے اندیشہ ہے کہ ملک کے سود اور سوئے کا مندا کرنیگے۔ اس سے بھی نقصان ہوگا۔

کرۂ فلک

آسمان پر سرخی مائل زیادہ رہیگا۔ رات کو سیاہ سے زیادہ ہوگا۔ بارش کم ہوگی۔ ماہ جنوری کی ۱۳ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۰ تاریخ کو آسمان پر بادل چکر لگا دینگے۔ ہوا تیز چلیگی۔ ۲۳ ـ ۲۴ ـ ۲۷ جنوری کو آسمان ابر محیط ۳۰ ـ ۳۱ جنوری کو خفیف بوندا باندی ہوگی۔

ماہ فروری کی یکم و ۲ تاریخ کو بعض جگہ بارش اور ۳ ـ ۵ و ۹ فروری کو آسمان ابر محیط اور ہوا تیز چلنے کا یوگ ہے۔



تقویم سیارگان

تاریخ	
۱	سورج پورباکھاڑا کے (۲) ... ۲۷ ـ ۲۹
۲	شکر دھنشٹا کے (۱۲) ۱۹ ـ ۴۸ شکر ... کے (۳) ۵۹ ـ ۱۳
۳	بدھ اتراکھاڑا کے (۳) ۵۲ ـ ۶
۴	سورج پورباکھاڑا کے (۴) ... ۵ ـ ...
۵	شکر اتراکھاڑا کے (۲) ۴۵ ـ ۵۳
۶	منگل دھنشٹا کے (۳) ۲۲ ـ ۱۳ بدھ شرون کے (۱) ۴۸ ـ ۵۶
۷	سورج پورباکھاڑا کے (۴) ۴۵ ـ ۳۲
۸	شکر جنشٹا کے (۱) ۲۹ ـ ۲۹
۹	
۱۰	منگل دھنشٹا کے (۴) ۵۵ ـ ۳۰ بدھ شرون کے (۲) ... ۵۸
۱۱	سورج اتراکھاڑا کے (۱) ... ۵۵ شکر جنشٹا کے (۲) ۱۳ ـ ۳
۱۲	
۱۳	شکر جنشٹا کے (۳) ۵۶ ـ ۱۱
۱۴	سورج اتراکھاڑا کے (۲) ۱۴ ـ ۰۰ بدھ شرون کے (۳) ۲۷ ـ ۴۶
۱۵	منگل شت بھکا کے (۱) ۹ ـ ۵
۱۶	شکر جنشٹا کے (۴) ۴ ـ ۹
۱۷	سورج اتراکھاڑا کے (۳) ۳۲ ـ ۹ بدھ ... کے ... ۲۶
۱۸	
۱۹	منگل شت بھکا کے (۲) ۳۰ ـ ۳ شکر مولا کے (۱) ۲۷ ـ ...
۲۰	سورج اتراکھاڑا کے (۴) ۴۸ ـ ۱
۲۱	شکر مولا کے (۲) ۵۹ ـ ۵۷
۲۲	
۲۳	منگل شت بھکا کے (۳) ۴۵ ـ ۳۴
۲۴	سورج شرون کے (۱) ۲ ـ ... شکر مولا کے (۳) ۴۳ ـ ۳۸
۲۵	بدھ شرون کے (۴) ۴۸ ـ ۵۲ ... ... ۵۷ ـ ۲۳
۲۶	
۲۷	سورج شرون کے (۲) ۱۹ ـ ۵۵ مولا کے (۴) ۳۸ ـ ۲۵
۲۸	منگل شت بھکا کے (۴) ۵ ـ ۸
۲۹	
۳۰	سورج شرون کے (۳) ... بدھ شرون کے ... [illegible]
۳۱	

ماہ جنوری ۱۹۳۶ء

[illegible]

فروری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	ابتدا	انتہا	گھڑی پل	طلوع	غروب	[illegible]	[illegible]
سنیچروار	۱	۷	۱۲	۲۴	۱۹	نومی	۲۶ ۵۵	کرتکا	۳۲ ۵	شکل	۶ ۳۸	برکھ	۱ ۲۳			۲۶ ۱۲	۶ ۴۶	۵ ۱۴		
اتوار	۲	۸	۱۳	۲۵	۲۰	دسمی	۲۳ ۷	روہنی	۳۰ ۱۵	برہم اندر	۲۳-۰۰ ۱۴-۵۳			۵۱ ۴۳		۲۶ ۱۶	۶ ۴۵	۵ ۱۵		
سوموار	۳	۹	۱۴	۲۶	۲۱	ایکادشی	۲۰ ۱۹	مرگشر	۳۹ ۱۷	بیدھرت	۴۹ ۵۱	متھن	۹ ۳۷		۳۰ ۱۹	۲۶ ۲۰	۶ ۴۴	۵ ۱۶		موہنی ایکادشی
منگلوار	۴	۱۰	۱۵	۲۷	۲۲	دوادشی	۱۸ ۳۳	آردرا	۳۳ ۲۹	وشکنبھ	۴۵ ۵۴					۲۶ ۲۴	۶ ۴۳	۵ ۱۶		
بدھوار	۵	۱۱	۱۶	۲۸	۲۳	ترودشی	۱۸ ۰۰	پنربس	۳۰ ۵۶	پریت	۴۳ ۰۰	کرک	۲۲ ۱۹			۲۶ ۲۸	۶ ۴۳	۵ ۱۷		
ویروار	۶	۱۲	۱۷	۲۹	۲۴	چترودشی	۱۰ ۳۹	پکھ	۳۳ ۳۸	آیوشمان	۴۵ ۳			۱۸ ۴۹	۲۹ ۵۲	۲۶ ۳۲	۶ ۴۲	۵ ۱۸	○	
شکروار	۷	۱۳	۱۸	۳۰	۲۵	پورنماشی	۴۰ ۵۵	اشلیکھا	۴۶ ۳۳	سوبھاگ	۴۰ ۲	سنگھ	۴۷ ۳۳			۲۶ ۳۶	۶ ۴۱	۵ ۱۹		ماگھ اشنان ختم۔ پورنماشی برت
سنیچروار	۸	۱۴	۱۹	[illegible]	۲۶	پڑوا	۲۳ ۱۳	مگھا	۵۲ ۳۵	شوبھن	۳۰ ۲					۲۶ ۴۰	۶ ۴۰	۵ ۲۰		بدھ مشرق میں طلوع ۳۱-۵۵
اتوار	۹	۱۵	۲۰	۲	۲۷	دوج	۲۵ ۲۵	پوربا پھاگن	۵۰ ۲۵	اتی گنڈ	۴۰ ۴۱					۲۶ ۴۴	۶ ۳۹	۵ ۲۱		
سوموار	۱۰	۱۶	۲۱	۳	۲۸	تیج	۳۳ ۳۵	اترا پھاگن	۶۰ ۰۰	سکرما	۴۱ ۴۸	کنیا	۱۵ ۱	۱ ۱	۳۳ ۳۵	۲۶ ۴۸	۶ ۳۸	۵ ۲۲		
منگلوار	۱۱	۱۷	۲۲	۴	۲۹	چوتھ	۳۸ ۵۳	اترا پھاگن	۴ ۵۱	دھرت	۴۳ ۱۳					۲۶ ۵۲	۶ ۳۷	۵ ۲۳		گنیش چوتھ
بدھوار	۱۲	۱۸	۲۳	۵	[illegible]	پنچمی	۴۳ ۲۲	ہست	۱۱ ۲۸	شول	۴۴ ۱۱	تلا	۴۴ ۳۷			۲۶ ۵۶	۶ ۳۵	۵ ۲۳		سورج کنبھ میں ۴۳-۳۱ [illegible] میں ۴۳-۵۰
ویروار	۱۳	۱۹	۲۴	۶	۲	چھٹ	۴۹ ۳	چترا	۱۷ ۳	گنڈ	۴۴ ۹			۴۹ ۳		۲۷ ۰۰	۶ ۳۴	۵ ۲۴		بدھ ۱۲-۴۵ پر مارگی ہوا
شکروار	۱۴	۲۰	۲۵	۷	۳	ستمی	۵۳ ۲۲	سواتی	۲۳ ۲۴	وردھی	۳۰ ۳۱				۳۱ ۸	۲۷ ۴	۶ ۳۵	۵ ۲۵		شکر مین میں ۱۶-۲۷ پر آیا
سنیچروار	۱۵	۲۱	۲۶	۸	۴	اشٹمی	۵۶ ۰۰	وشاکھا	۳۰ ۹	دھرو	۳۵ ۳	برچھک	۱۱ ۵۵			۲۷ ۸	۶ ۳۳	۵ ۲۶	◒	[illegible] ۳۵ [illegible] ۱۱-۵۵
اتوار	۱۶	۲۲	۲۷	۹	۵	نومی	۵۶ ۴۸	انرادھا	۳۱ ۵۰	بیاگھات	۳۳ ۴۲					۲۷ ۱۲	۶ ۳۳	۵ ۲۶		
سوموار	۱۷	۲۳	۲۸	۱۰	۶	دسمی	۵۸ ۸	جیشٹھا	۳۲ ۳	ہرکھن	۳۰ ۵۲	دھن	۳۴ ۳	۲۶ ۵۸	۵۸ ۸	۲۷ ۱۶	۶ ۳۲	۵ ۲۸		
منگلوار	۱۸	۲۴	۲۹	۱۱	۷	ایکادشی	۵۸ ۱۳	مول	۳۵ ۷	بجر	۳۷ ۰۰					۲۷ ۲۰	۶ ۳۲	۵ ۲۸		بجیا ایکادشی
بدھوار	۱۹	۲۵	۳۰	۱۲	۸	دوادشی	۵۵ ۹	پوربکھاڑ	۳۵ ۰۰	سدھی	۳۱ ۳۰	مکر	۳۹ ۳۱			۲۷ ۲۴	۶ ۳۰	۵ ۲۹		
ویروار	۲۰	۲۶	[illegible]	۱۳	۹	ترودشی	۵۱ ۵۷	اترکھاڑ	۳۳ ۴۴	بیتی پات	۲۶ ۲۵			۵۱ ۵۷		۲۷ ۲۸	۶ ۳۰	۵ ۳۰		
شکروار	۲۱	۲۷	۲	۱۴	۱۰	چودس	۴۷ ۵۲	شرون	۳۱ ۴۱	وریان	۲۱ ۲۸				۱۹ ۵۵	۲۷ ۳۳	۶ ۲۹	۵ ۳۱		[illegible] شوراتری پردوش برت
سنیچروار	۲۲	۲۸	۳	۱۵	۱۱	اماوس	۴۲ ۵۴	دھنشٹھا	۲۸ ۴۴	پرگھ	۱۳ ۴۹	کنبھ	۰۰ ۱۲			۲۷ ۳۶	۶ ۲۸	۵ ۳۲	●	پنچک شروع ۰۰-۱۳
اتوار	۲۳	۲۹	۴	۱۶	۱۲	پڑوا	۳۷ ۲۶	شتبھکھا	۲۵ ۱۰	شیو	۷ ۳۸					۲۷ ۴۰	۶ ۲۸	۵ ۳۲		
سوموار	۲۴	۳۰	۵	۱۷	۱۳	دوج	۳۱ ۴۳	پوربا بھادرپد	۲۱ ۱۴	سدھ سادھیہ	۵-۰۰ ۳۰-۵۲	مین	۷ ۱۳			۲۷ ۴۵	۶ ۲۷	۵ ۳۳	☽	چاند نظر آئیگا
منگلوار	۲۵	[illegible]	۶	۱۸	۱۴	تیج	۲۵ ۵۳	اترا بھادرپد	۱۷ ۶	شبھ	۶۳ ۵۷			۵۳ ۰۰		۲۷ ۵۰	۶ ۲۶	۵ ۳۴		برہسپت دھن میں ۱۱-۵۳ پر آیا
بدھوار	۲۶	۲	۷	۱۹	۱۵	چوتھ	۲۰ ۷	ریوتی	۱۳ ۵۹	شکل	۳۶ ۴۶	میکھ	۱۲ ۵۹		۲۰ ۷	۲۷ ۵۵	۶ ۲۵	۵ ۳۵		پنچک ختم ۱۲-۵۹
ویروار	۲۷	۳	۸	۲۰	۱۶	پنچمی	۱۳ ۲۱	اشونی	۹ ۲	برہم	۲۹ ۱۹					۲۸ ۰۰	۶ ۲۴	۵ ۳۶		
شکروار	۲۸	۴	۹	۲۱	۱۷	چھٹ	۹ ۱۳	بھرنی	۵ ۳۳	اندر	۲۳ ۱	برکھ	۱۹ ۵۰			۲۸ ۵	۶ ۲۳	۵ ۳۶		
سنیچروار	۲۹	۵	۱۰	۲۲	۱۸	ستمی	۳ ۳۳	کرتکا	۳ ۳۹	بیدھرت	۱۵ ۲۰			۳ ۳۳	۳۲ ۳۳	۲۸ ۱۰	۶ ۲۲	۵ ۳۸	◓	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ فروری کو بارش ہوئی۔ تو فصل اچھا ہوگا۔ اگر ۴ فروری کو بادل رہے تو ماہ ساون میں اناج گراں رہے۔ اگر ۸ فروری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ ساون میں غلہ کا نرخ تیزی پر رہے۔ اگر ۱۰ فروری کو چاند کے گرد ہالہ پڑا۔ تو ماہ چیت میں بادل بہت ہوں گے۔ اگر ۱۵ فروری کو بادل ہوئے۔ تو ماہ چیت میں ژالہ باری ہوگی۔ اگر ۲۱ و ۲۲ فروری رات کو بادل گرجا۔ تو ماہ جیٹھ میں نقصان کثرت سے آوے۔ اگر ۲۶ فروری کو بادل ۲۷ فروری کو مطلع صاف اور ۲۹ فروری کو بارش ہوئی۔ تو ماہ بیساکھ میں غلہ گراں ہوگا۔

تقویم سیارگان

فروری ۱۹۳۶ء

۱	منگل پوربا بھادرپد کے (۱) ۲۱-۵۵ شکر پورباکھاڈھ کے (۲) ۶-۱۲
۲	سورج شرون کے (۴) ۵۳-۰۰
۳	بدھ اتراکھاڈھ کے (۴) ۶-۴۹ برہسپت جیشٹھا کے (۴) ۳۱-۲۹
۴	شکر پورباکھاڈھ کے (۳) ۳۶-۳۵
۵	منگل پورباکھاڈھ کے (۲) ۳۷-۳۸
۶	سورج دھنشٹا کے (۱) ۹-۵۸
۷	شکر پورباکھاڈھ کے (۴) ۱۹-۴
۸	
۹	سورج دھنشٹا کے (۲) ۲۶-۵۵ بدھ اتراکھاڈھ کے (۳) ۱۸-۳۸
۱۰	منگل پوربا بھادرپد کے (۳) ۱۳-۸ شکر اتراکھاڈھ کے (۱) ۱-۲۱
۱۱	
۱۲	سورج دھنشٹا کے (۳) ۴۳-۴۱ شکر اتراکھاڈھ کے (۲) ۳۳-۵
۱۳	بدھ اتراکھاڈھ کے (۲) ۲۱-۴۳
۱۴	منگل پوربا بھادرپد کے (۴) ۱۶-۴
۱۵	شکر اتراکھاڈھ کے (۳) ۲۴-۵۲
۱۶	سورج دھنشٹا کے (۴) ۱-۳۹
۱۷	
۱۸	منگل اترا بھادرپد کے (۱) ۴۱-۳۷ شکر اتراکھاڈھ کے (۴) ۵-۵۲
۱۹	سورج شت بھکا کے (۱) ۲۰-۱۳
۲۰	بدھ شرون کے (۱) ۴-۱۹ شام شکر شرون کے (۱) ۴۸-۲۰
۲۱	
۲۲	سورج شت بھکا کے (۲) ۳۶-۵۱ برہسپت شت بھکا کے (۲) ۳۳-۴۲
۲۳	منگل اترا بھادرپد کے (۲) [illegible] [illegible]
۲۴	
۲۵	سورج شت بھکا کے (۳) ۵۵-۲۶ برہسپت مول کے (۱) ۱۱-۱۳
۲۶	بدھ شرون کے (۲) ۵۷-۲ شکر شرون کے (۲) ۱-۲۲
۲۷	منگل اترا بھادرپد کے (۳) ۲۱-۲۸
۲۸	شکر شرون کے (۳) ۵۱-۱
۲۹	سورج شت بھکا کے (۴) ۱۶-۶ [illegible]



تقویم سیارگان

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کنبھ مورخہ ۳۰ بو ۴۳



پن کال سنکرانت ۲۵ دوپہر کے بعد سے شروع

پیشینگوئی بابت ماہ پھاگن

ابتدا سے ۱۷ فروری لغایت ۱۲ مارچ

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار چیتر نچھتر میں پرویش ہوگی جو کہ ۳۰ مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور ماہ سابقہ ہی رہیگا۔ غلہ خورد کا بھاؤ کبھی گراں کبھی ارزاں ہوتا ہے۔ گھی۔ دودھ۔ دہی۔ چاول۔ کھانڈ کے نرخ میں قدرے ارزانی رہیگی۔ مونگ و ماش گراں رہینگے اشیاء سرخ رنگ۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ مسور چندن اور سرخ رنگ کے چوپائے وغیرہ کا نرخ تیز ہوگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن پھوٹ نوار پٹولہ وغیرہ کا نرخ ارزاں رہیگا۔ تیل تل گراں۔ السی۔ سرسوں۔ تورپہ تارامیرا کا نرخ کچھ ارزاں ہوگا۔ سونا۔ تانبہ پیتل۔ لوہا۔ سکہ وغیرہ کا نرخ ارزاں رہیگا۔ علاقہ مارواڑ میں قحط کے آثار نمودار ہونگے۔ کاٹھ۔ کوئلہ کا نرخ ارزاں۔ چارہ بھوسہ۔ گھاس۔ توڑی کا نرخ تیز رہیگا۔

موسم۔ آمادش بروز شنیچر وار ہے۔ اس لئے بیماری کا زور رہیگا۔ بچے محرقہ اور طاعون سے بہت جانیں ضائع ہونگی۔ خونی امراض سے بھی لوگ تنگ ہونگے۔

کرۂ فلک

سورج شنیچر کا باہمی راشی سنجوگ ہے۔ اسلئے ہوا۔ جھکڑ۔ بارش کم ہوگی۔ بادل کی گرج۔ بجلی کی چمک۔ ژالہ باری اور بجلی گرنے سے بہت نقصان ہوگا۔ فصل کو بھی نقصان پہنچیگا۔ ماہ فروری کی ۱۲ و ۱۳ تاریخ کو بادل ہوا تیز ۱۴ و ۱۵ فروری کو گرج چمک بارش اور ژالہ باری بھی ہو ۲۰ و ۲۱ فروری کو خفیف بارش۔ ۲۵۔ ۲۸۔ ۲۹ فروری کو بادل۔ ہوا تیز۔ بارش۔ گھٹا رہیگی۔ یکم ۲ و ۳ مارچ کو ہوا تیز گرج۔ چمک۔ ژالہ باری۔ ۶ و ۷ مارچ کو آسمان ابر آلود خفیف بارش اور ۱۱ ۱۲ مارچ کو بادل رہیگا۔

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اتوار	۱	۶	۱۱	۲۳	۱۹		بجیا ایکادشی
سوموار	۲	۷	۱۲	۲۳	۲۰		
منگلوار	۳	۸	۱۳	۲۵	۲۱		آملا اکیادشی
بدھوار	۴	۹	۱۴	۲۶	۲۲		
ویروار	۵	۱۰	۱۵	۲۷	۲۳		ساوتا – عید اضحیٰ
شکروار	۶	۱۱	۱۶	۲۸	۲۴		بدھ کنبھ میں ۵۹۔۵۵ پر آیا
شنیچروار	۷	۱۲	۱۷	۲۹	۲۵	○	شکر کنبھ میں ۵۵۔۴۴ پر آیا۔ ہولی پوجن۔ پورنماشی برت۔
اتوار	۸	۱۳	۱۸	۳۰	۲۶		ہولی۔
سوموار	۹	۱۴	۱۹	[illegible]	۲۸		ہولا
منگلوار	۱۰	۱۵	۲۰	۲	۲۸		
بدھوار	۱۱	۱۶	۲۱	۳	۲۹		گنیش چوتھ
ویروار	۱۲	۱۷	۲۲	۴	۳۰		
شکروار	۱۳	۱۸	۲۳	۵	[illegible]		سورج مین میں ۴۳۔۲ پر آیا بدھ مشرق میں غروب [illegible]
شنیچروار	۱۴	۱۹	۲۴	۶	۲		
اتوار	۱۵	۲۰	۲۵	۷	۳		سیتلا اشٹمی
سوموار	۱۶	۲۱	۲۶	۸	۳	◑	اشٹمی کا میلہ
منگلوار	۱۷	۲۲	۲۷	۹	۵		
بدھوار	۱۸	۲۳	۲۸	۱۰	۹		
ویروار	۱۹	۲۴	۲۹	۱۱	۷		پاپ موچنی ایکادشی
شکروار	۲۰	۲۵	۳۰	۱۲	۸		پنچک شروع ۳۱۔۵
شنیچروار	۲۱	۲۶	[illegible]	۱۳	۹		سنیچر مشرق میں طلوع ۱۳ ساوتا دی
اتوار	۲۲	۲۷	۲	۱۴	۱۰	●	چیت چودس
سوموار	۲۳	۲۸	۳	۱۵	۱۱	☽	بدھ مین میں ۹۔۳۵ پر آیا [illegible]
منگلوار	۲۴	۲۹	۴	۱۶	۱۲		[illegible]
بدھوار	۲۵	محرم	۵	۱۷	۱۳		[illegible] سنہ ۱۳۵۵ ہجری شروع
ویروار	۲۶	۲	۶	۱۸	۱۳		
شکروار	۲۷	۳	۷	۱۹	۱۵		بسنتی چھٹی
شنیچروار	۲۸	۴	۸	۲۰	۱۴		سکندھا چھٹ
اتوار	۲۹	۵	۹	۲۱	۱۷		گنگا ستمی۔ میلہ شالامار باغ لاہور
سوموار	۳۰	۶	۱۰	۲۲	۱۸	◐	درگا اشٹمی
منگلوار	۳۱	۷	۱۱	۲۳	۱۹		رام نومی

آسمانی علامات اور آیندہ کے واقعات

اگر ۲ مارچ کو بادل اور ۳ مارچ کو مطلع صاف رہا۔ تو آیندہ بارش کی قلت اور آندھی سخت چلنے کا یوگ جاننا۔ اگر ۸ مارچ کو گرج و بارش ہووے۔ تو ماہ ساون بھادوں میں نرخ غلہ گراں اور بارش کم ہو۔ اگر ۱۰ مارچ کو مطلع صاف رہا اور ہوا چلی۔ تو ماہ بھادوں میں بارش خوب ہو۔ اگر ۱۱ مارچ کو پورب دا تری ہوا چلی۔ تو غلہ ارزاں ہو۔ اگر ۱۲ مارچ کو بارش ہووے۔ تو یہ علامت قحط سالی کی ہے۔ اگر ۱۵ مارچ کو بادل رہا۔ تو نرخ جنس کی تمام اشیا ارزاں ہو جاویں۔ اگر ۱۷ مارچ کو بجلی چمکی۔ تو بارش کے لئے شبھ ہے۔ اگر ۲۵ مارچ کو مطلع صاف رہا۔ تو ماہ بھادوں بارش سے خالی جاوے۔

تاریخ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت مین سنوتی ۵ م بوقت ۳ ح



پن کال سنکرانت = دو پہر کے بعد سے شروع

پیشنگوئی بابت ماہ چیت

ابتداء سے ۱۳ مارچ لغایت ۱۱ اپریل

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز شکروار (جمعہ) کو میں پرویش کرے گی جو کہ ہوتی ہے ۔ اس سے غلہ گندم و جو کے نرخ میں خفیف گرانی رہے گی غلہ خورد مونگ ۔ ماش ۔ جوار ۔ باجرہ ۔ موٹھ ۔ مٹر کا نرخ بھی تیز رہے گا ۔ دودھ ۔ دہی ۔ گھی کا بھاؤ مدہم ۔ تل ۔ تیل ۔ السی ۔ سرسوں ۔ توریہ ۔ تارا میرا ۔ بنولہ کا نرخ ارزاں رہے گا گوڑ ۔ شکر ۔ شہد ۔ کالی مرچ ۔ سونٹھ ۔ چندن وغیرہ کا نرخ گراں ہوگا ۔ چاول ۔ چاندی قلعی ۔ روئی ۔ کپاس ۔ سوت ۔ کپڑا سفید کا نرخ ارزاں ہوگا ۔ سواری کے جانور ۔ گھوڑا ہاتھی ۔ اونٹ وغیرہ ارزاں بکیں گے ۔ سونا ۔ تانبہ ۔ لوہا ۔ سکہ کا نرخ تیز رہیگا ۔ لکڑی کوئلہ ۔ چارہ ۔ کپاس ۔ وغیرہ کا نرخ گرانی پر ہوگا ۔ سوتی و ریشمی کپڑا رنگدار کا نرخ گراں سفید کا ارزاں رہیگا ۔ پنساریوں کا سامان گراں بکیگا ۔

موسم ۔ لوگوں کی صحت اس ماہ میں کچھ اچھی نہ رہے گی ۔ امراض خونی اور بخار سے زیادہ تکلیف پاویں گے ۔

کرۂ فلک

اس ماہ میں شکر و شنیچر کا راشی بھوگ ہے ۔ اور چندرما جل چکر میں ہے ۔ اس لئے بادل بہت بنیں گے ۔ بارش بھی ہوگی ۔ ہوا زیادہ چلیگی ۔ جو کہ فصل کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگی ۔ ۱۳ و ۱۸ مارچ کو آسمان ابر آلود ۔ بارش ۲۰ ۔ ۲۱ ۔ ۲۳ ۔ ۲۴ ۔ ۲۵ تاریخ کو آسمان پر بادل ۔ ہوا تیز ۔ گرج چمک ۔ ژالہ باری اور بارش ۔ ۲۹ ۔ ۳۰ مارچ کو خفیف بارش ہوگی ماہ اپریل کی ۳ ۔ ۴ تاریخ کو بادل بارش اور ۹ و ۱۰ اپریل کو آسمان ابر آلود کہیں کہیں بارش بھی ہو ۔

۱	
۲	منگل اترا بھادرپد کے (۲) بدھ دھنشٹا کے (۱) ۳۳ ۔ ۲۲
۳	سورج پوربا بھادرپد کے (۱) ۳۳ ۔ ۵۱
۴	بدھ دھنشٹا کے (۲) ۳۱ ۔ ۳۳
۵	شکر دھنشٹا کے (۲) ۱۴ ۔ ۵۱
۶	سورج پوربا بھادرپد کے (۲) [illegible]
۷	منگل ریوتی کے (۱) شکر دھنشٹا کے (۳) ۵۵
۸	
۹	بدھ دھنشٹا کے (۳) ۱ ۔ ۳۲
۱۰	سورج پوربا بھادرپد کے (۳) ۱۴ ۔ ۲۰ شکر دھنشٹا کے (۴) ۵۵
۱۱	منگل ریوتی کے (۲) بدھ ستبھکا کے (۱) [illegible]
۱۲	شکر ستبھکا کے (۱) ۱۷ ۔ ۴۲
۱۳	سورج پوربا بھادرپد کے (۴) ۳۴ ۔ ۹ بدھ ستبھکا کے (۲) ۷ ۔ ۳۰
۱۴	بدھ ستبھکا کے (۳) ۵۹ ۔ ۱۳
۱۵	منگل ریوتی کے (۳) ۵۴ ۔ ۵۳ شکر ستبھکا کے (۲) ۵۸ ۔ ۳۷
۱۶	سورج اترا بھادرپد کے (۱) ۵۵ ۔ ۱۰ بدھ ستبھکا کے (۴) ۵ ۔ ۵۵
۱۷	
۱۸	بدھ پوربا بھادرپد کے (۱) ۴۳ ۔ ۲۸ شکر ستبھکا کے (۳) ۳۶ ۔ ۴۹
۱۹	شنیچر پوربا بھادرپد کے (۱) ۵۸ ۔ ۳۴
۲۰	سورج اترا بھادرپد کے (۲) منگل اشونی بدھ پوربا بھادرپد کے (۲) [illegible]
۲۱	شکر ستبھکا کے (۴) ۲۰ ۔ ۳۴
۲۲	بدھ پوربا بھادرپد کے (۳) ۲۵ ۔ ۵۷
۲۳	سورج اترا بھادرپد کے (۳) ۳۶ ۔ ۱۰ بدھ پوربا بھادرپد کے (۴) ۵۹
۲۴	منگل اشونی کے (۱) ۳۹ ۔ ۳۴ شکر پوربا بھادرپد کے (۱) ۲ ۔ ۵۲
۲۵	
۲۶	بدھ اترا بھادرپد کے (۱) ۵ ۔ ۱
۲۷	سورج اترا بھادرپد کے (۴) [illegible]
۲۸	بدھ اترا بھادرپد کے (۲) ۲۸ ۔ ۳۰ شنیچر پوربا بھادرپد کے (۲) ۱۸ ۔ ۵۰
۲۹	منگل اشونی کے (۲) ۱۴ ۔ ۳۹ بدھ اترا بھادرپد کے (۳) ۳۶ ۔ ۳۰
۳۰	سورج ریوتی کے (۱) شکر پوربا بھادرپد کے (۲) [illegible]
۳۱	بدھ اترا بھادرپد کے (۴) ۱ ۔ ۳۸



تقویم سیارگان

طلوع و غروب آفتاب

بدھوار	۱	۸	۱۲	۲۴	۲۰	دسمی	۳۲ ۳۱	پکھ	۳۲ ۳۲	سکرما	۱۳ ۴۳					۳۰ ۵۰	۵ ۵۰	۶ ۱۰	
ویروار	۲	۹	۱۳	۲۵	۲۱	ایکادشی	۳۴ ۳۴	اشلیکھا	۲۶ ۱۱	دھرت	۱۳ ۲۲	سنگھ	۲۶ ۱۱	۳ ۲۸	۳۴ ۳۴	۳۰ ۵۵	۵ ۴۹	۶ ۱۱	کاما ایکادشی
شکروار	۳	۱۰	۱۴	۲۶	۲۲	دوادشی	۳۶ ۳۲	مگھا	۳۰ ۴۳	شول	۱۱ ۵۱					۳۱ ۰۰	۵ ۴۸	۶ ۱۲	محرم
سنیچر	۴	۱۱	۱۵	۲۷	۲۳	ترودشی	۳۴ ۵	پوربا پھاگن	۳۵ ۳۷	گنڈ	۱۲ ۳۱	کنیا	۵۲ ۲۰			۳۱ ۵	۵ ۴۷	۶ ۱۳	شکر مین میں ۲۲-۳۹ پر آیا
اتوار	۵	۱۲	۱۶	۲۸	۲۴	چتردشی	۳۶ ۵۳	اترا پھاگن	۴۲ ۲۹	بردھ	۱۳ ۳۹			۴۶ ۵۳		۳۱ ۱۰	۵ ۴۶	۶ ۱۴	
سوموار	۶	۱۳	۱۷	۲۹	۲۵	پورنماشی	۵۲ ۱	ہست	۴۹ ۸	دھروہ	۱۸ ۱۸				۱۹ ۲۷	۳۱ ۱۵	۵ ۴۵	۶ ۱۵	ہنومان جنم پورنماشی برت
منگلوار	۷	۱۴	۱۸	[illegible]	۲۶	[illegible]	۵۶ ۱۸	چترا	۵۵ ۳۵	ویاگھات	۱۶ ۲۰	تلا	۳۲ ۲۱			۳۱ ۲۰	۵ ۴۴	۶ ۱۶	
بدھوار	۸	۱۵	۱۹	۲	۲۷	دوج	۶۰ ۰۰	سواتی	۶۰ ۰۰	ہرکھن	۱۸ ۳۳					۳۱ ۲۵	۵ ۴۳	۶ ۱۷	بدھ میکھ میں ۳۳-۲۵ پر آیا
ویروار	۹	۱۶	۲۰	۳	۲۸	دوج	۱ ۴۸	سواتی	۱ ۳۳	بجر	۱۹ ۳۳	برچھک	۵۰ ۲۷	۳۳ ۴۶		۳۱ ۳۰	۵ ۴۲	۶ ۱۸	قمر در عقرب ۵۰-۲۷
شکروار	۱۰	۱۷	۲۱	۴	۲۹	تیج	۵ ۴۳	بشاکھا	۶ ۴۳	سدھی	۱۹ ۵۳				۵ ۴۳	۳۱ ۳۵	۵ ۴۱	۶ ۱۹	گنیش چوتھ
سنیچر	۱۱	۱۸	۲۲	۵	۳۰	چوتھ	۸ ۱۵	انورادھا	۱۰ ۴۹	ویتی پات	۱۹ ۱۹					۳۱ ۴۰	۵ ۴۰	۶ ۲۰	
اتوار	۱۲	۱۹	۲۳	۶	[illegible]	پنچمی	۹ ۵۱	جیشٹھا	۱۳ ۴۴	وریان	۱۷ ۳۷	دھن	۱۳ ۴۳			۳۱ ۴۵	۵ ۳۹	۶ ۲۱	سورج میکھ میں ۵۲-۳۱ میکھ بیساکھی
سوموار	۱۳	۲۰	۲۴	۷	۲	چھٹ	۹ ۵۳	مول	۱۵ ۲۳	پرکھ	۱۳ ۱۳			۹ ۵۴	۳۹ ۲۰	۳۱ ۵۰	۵ ۳۸	۶ ۲۲	
منگلوار	۱۴	۲۱	۲۵	۸	۳	ستمی	۸ ۴۵	پوربا کھاڑھ	۱۵ ۲۴	شو	۱۰ ۱۱	مکر	۲۱ ۱۶			۳۱ ۵۵	۵ ۳۷	۶ ۲۳	[illegible]
بدھوار	۱۵	۲۲	۲۶	۹	۴	اشٹمی	۶ ۲۲	اترا کھاڑھ	۱۵ ۱۳	سادھیہ	[illegible]					۳۲ ۰۰	۵ ۳۶	۶ ۲۴	بدھ مغرب میں طلوع ۵۹-۴۵
ویروار	۱۶	۲۳	۲۷	۱۰	۵	نومی	[illegible]	شرون	۱۳ ۱۹	شبھ	۴۳ ۴۷	کنبھ	۴۲ ۰۰	۳۰ ۴۸	۴۸ ۳۷	۳۲ ۵	۵ ۳۵	۶ ۲۵	پنچک شروع ۴۲-۰۰
شکروار	۱۷	۲۴	۲۸	۱۱	۶	ایکادشی	۵۲ ۳۸	دھنشٹا	۱۰ ۳۱	شکل	۳۴ ۵۰					۳۲ ۱۰	۵ ۳۴	۶ ۲۶	بروتھنی ایکادشی
سنیچر	۱۸	۲۵	۲۹	۱۲	۷	دوادشی	۴۸ ۱۱	شتبھکھا	۵ ۲۵	برہم	۳۹ ۴۳	مین	۵۱ ۱۱			۳۲ ۱۵	۵ ۳۳	۶ ۲۷	شکر مغرب میں غروب ۳۸-۳۳
اتوار	۱۹	۲۶	۳۰	۱۳	۸	ترودشی	۴۷ ۸	[illegible]	[illegible]	اندر	۳۲ ۱۱			۴۳ ۸		۳۲ ۲۰	۵ ۳۲	۶ ۲۸	
سوموار	۲۰	۲۷	۳۱	۱۴	۹	چتردشی	۳۲ ۹	اترا بھادوں	۵۵ ۴۳	ویدھرت	۲۴ ۲۸	میکھ	۵۵ ۲۳		۹ ۹	۳۲ ۲۵	۵ ۳۱	۶ ۲۹	پنچک ختم ۵۵-۲۳
منگلوار	۲۱	۲۸	[illegible]	۱۵	۱۰	اماوس	۳۰ ۱	ریوتی	۵۱ ۳۴	وشکمبھ	۱۶ ۵۰					۳۲ ۳۰	۵ ۳۰	۶ ۳۰	
بدھوار	۲۲	۲۹	۲	۱۶	۱۱	[illegible]	۳۲ ۱۸	اشونی	۳۴ ۲۱	پریت	۹ ۱۹					۳۲ ۳۵	۵ ۲۹	۶ ۳۱	روبیت ہلال مشکوک
ویروار	۲۳	۳۰	۳	۱۷	۱۲	دوج	۱۰ ۵۲	کرتکا	۳۴ ۱۴	[illegible]	[illegible]	برکھ	۱ ۲۸			۳۲ ۴۰	۵ ۲۸	۶ ۳۲	چاند نظر آئیگا
شکروار	۲۴	[illegible]	۴	۱۸	۱۳	تیج	۱۳ ۱۶	روہنی	۳۱ ۵۷	شوبھن	۲۹ ۳۰			۴۳ ۲۲		۳۲ ۴۳	۵ ۲۷	۶ ۳۳	اکھشے ترتیہ پرشرام جینتی
سنیچر	۲۵	۲	۵	۱۹	۱۴	چوتھ	۱۰ ۳۴	[illegible]	۳۰ ۳۳	[illegible]	۴۳ ۱	متھن	۱۱ ۸		۱۰ ۲۷	۳۲ ۴۸	۵ ۲۶	۶ ۳۴	
اتوار	۲۶	۳	۶	۲۰	۱۵	پنچمی	۷ ۳۰	آردرا	۳۶ ۵۴	سوکرما	۳۹ ۳۰					۳۲ ۵۲	۵ ۲۵	۶ ۳۸	
سوموار	۲۷	۴	۷	۲۱	۱۶	[illegible]	۵ ۳۰	پنرباس	۴۰ ۳۹	دھرت	۳۵ ۵۹	کرک	۲۵ ۹			۳۲ ۵۶	۵ ۲۵	۶ ۳۵	بدھ برکھ میں ۲۰-۵۷ پر آیا
منگلوار	۲۸	۵	۸	۲۲	۱۷	ستمی	۵ ۲	پکھ	۴۴ ۳۹	شول	۳۳ ۲۳			۵ ۳	۳۶ ۲۴	۳۳ ۰۰	۵ ۲۴	۶ ۳۶	شکر میکھ میں ۴۰-۱۲ پر آیا
بدھوار	۲۹	۶	۹	۲۳	۱۸	اشٹمی	۵ ۴۳	اشلیکھا	۴۶ ۱	گنڈ	۵۲ ۱	سنگھ	۴۵ ۵۶			۳۳ ۴	۵ ۲۳	۶ ۳۷	
ویروار	۳۰	۷	۱۰	۲۴	۱۹	نومی	۷ ۵۳	مگھا	۵۰ ۲۱	بردھ	۳۱ ۱۷					۳۳ ۸	۵ ۲۲	۶ ۳۸	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۴-اپریل کو بارش ہوئی - تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے - اگر اس روز ہوا تند چلے - تو بارش کی قلت ہو - اگر ۹-اپریل کو بادل ہوویں - تو ماہ بھادوں میں بارش کی قلت ہوگی - اگر ۱۰-اپریل کو بادل ہوویں - تو ارزانی غلہ کی دلیل ہے - اگر ۷ سے ۱۴ اپریل تک برابر بادل رہے اور بجلی چمکے - تو امسال غلہ ارزاں ہوگا - اگر ۱۵-اپریل کو بادل ہو اور بارش ہو جاوے تو فصل کی پیداوار اچھی ہو - اگر ۲۰-اپریل کو بارش پڑی تو آئندہ نرخ غلہ گراں ہو جاوے - اگر ۲۳-اپریل کو بادل ہوویں - تو فصل کے لئے ناقص علامت ہے - اگر ۲۴-اپریل کو بادل ہوویں تو لوگ بیماری سے تنگ ہونگے - اگر ۲۶-اپریل کو بارش ہوئی - تو ماہ بھادوں میں غلہ گراں ہوگا - اگر ۳۰-اپریل کو مطلع صاف رہے - تو آئندہ بارش کم ہوگی ۔

پن کال سنکرانت ہے اسکے دروازہ دیر تک

پیشنگوئی بابت ماہ بیساکھ

ابتدا سے ۱۲-اپریل لغایت ۱۲ مئی

کرہ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار مولا گھنٹہ میں پرویش کریگی - چونکہ ۳۰ مہورتی ہے - اور شدی تیج کو روہنی گھنٹہ ہے اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ قدرے ارزاں پر رہیگا - اناج خورد مونگ موٹھ - جوار - باجرہ - مکی کا نرخ کم وبیش ہوتا رہیگا - دودھ - دہی - چاول - گھی کا نرخ ارزاں ہو - روئی - کپاس - گوڑ - شکر - تیل کا نرخ گرانی پر چلا جاوے - سرسوں - تورید - تارامیرا - السی - ارنڈی وغیرہ کا نرخ ایک حال پر نہ رہے - سفید رنگ کا کپڑا ارزاں اور رنگدار گراں ہو - شہد - لال مرچ - لاکھ - مسور - چندن سرخ کا نرخ بھی تیزی پر رہیگا - سونا کا بھاؤ اوسط پر - تانبہ گراں - چاندی - قلعی - کانسی وغیرہ کا بھاؤ سم رہے - لکڑی - کوئلہ - چارہ - لوٹی کا نرخ ارزاں رہے۔

موسم میں منگل غروب اور برہسپت بکری رہیگا اس لئے لوگ بیماری سے تکلیف پاویں گے - ملک کے بہت حصوں میں وبائی امراض نمودار ہوں - چوپائے جانوروں کی موت زیادہ ہو - بیماری لوگوں کو نقصان اور عورتوں کی موت زیادہ ہو۔

کرہ فلک

چونکہ سورج منگل ایک راشی پر رہینگے - اس لئے گرمی زیادہ رہیگی - آسمان ابر محیط اور ہوا چلیگی - ۱۲ لغایت ۱۵ اپریل ہوا تیز آسمان پر بادل خفیف بارش - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - اپریل کو آسمان ابر محیط - ہوا تیز چلے - ۲۶ لغایت ۳۰ اپریل بادل و آندھی اور بارش ہو - ۴ و ۵ و ۶ مئی کو بادل کی گرج چمک - ہوا تیز اور بعض بعض جگہ بارش ہو - ۹ - ۱۰ مئی کو ہوا تیز چلیگی۔

تقویم سیارگان

۱	برہسپت وکری ہوگے (۳) ۵۹ - ۵۹
۲	سورج ریوتی کے (۲) ۲۲ - ۰۰ ... ریوتی کے (۱) ۱۳ - ۳۰
۳	
۴	بدھ ریوتی کے (۲) ۰۰ - ۳۲ شکر پورا بھادر پد کے (۳) ۲۲ - ۳۹
۵	بدھ ریوتی کے (۳) ۴۷ - ۳۱
۶	سورج ریوتی کے (۳) ۷ - ۴۰
۷	[illegible]
۸	بدھ اشنی کے (۱) ۴۳ - ۲۵
۹	سورج ریوتی کے (۴) ۳۱ - ۸ شکر اترا بھادر پد کے (۲) ۴۳ - ۳۵
۱۰	
۱۱	منگل بھرنی کے (۱) ۴۹ - ۲۳ بدھ اشنی کے (۲) ۳ - ۲۴
۱۲	سورج اشنی کے (۱) ۵۶ - ۳۱ شکر اترا بھادر پد کے (۳) ۴۹ - ۱۷
۱۳	بدھ اشنی کے (۳) ۰۰ - ۱۳
۱۴	بدھ اشنی کے (۴) ۵۳ - ۲۵
۱۵	سورج اشنی کے (۲) ۵۰ - ۴۳ شکر اترا بھادر پد کے (۴) ۳ - ۳۲
۱۶	منگل بھرنی کے (۲) ۱۱ - ۵۰ بدھ بھرنی کے (۱) [illegible]
۱۷	[illegible]
۱۸	بدھ بھرنی کے (۲) ۳۸ - ۳ شکر ریوتی کے (۱) ۱۳ - ۵۲
۱۹	سورج اشنی کے (۳) ۴۶ - ۲۷
۲۰	منگل بھرنی کے (۳) ۵۸ [illegible]
۲۱	
۲۲	سورج اشنی کے (۴) ۵۴ - ۴۴ بدھ بھرنی کے (۴) [illegible]
۲۳	شکر ریوتی کے (۲) ۱۰ - ۱۹
۲۴	بدھ کرتکا کے (۱) ۵ - ۱۷
۲۵	منگل بھرنی کے (۴) [illegible]
۲۶	سورج بھرنی کے (۱) ۳۸ - ۵۹
۲۷	بدھ کرتکا کے (۲) ۲۰ - ۵۲
۲۸	شکر اشنی کے (۱) ۲۰ - ۱۲
۲۹	بدھ کرتکا کے (۳) ۵۱ - ۱۲
۳۰	سورج بھرنی کے (۲) ۵ - ۹ [illegible]

														بھدرا			طلوع	غروب	چاندنی اور اندھیرا	طلوع وغروب سیارگان تیوہاروں
							گھڑی پل		گھڑی پل		گھڑی پل		گھڑی پل	ابتدا	انتہا	گھڑی پل				
شکروار	۱	۸	۱۱	۲۵	۲۰	دسمی	۱۰ ۵۵	[illegible]	۵۵ ۳۴	[illegible]	۳۱ ۳۵			۴۲ ۵۴		۳۳ ۱۷	۵ ۳۲	۶ ۳۸		
سنیچروار	۲	۹	۱۲	۲۶	۲۱	اکادشی	۱۳ ۴۸	[illegible]	۶۰ ۰۰	[illegible]	۳۲ ۳۲	کنیا	۱۱ ۵۰		۱۳ ۵۸	۳۳ ۱۶	۵ ۳۱	۶ ۳۹		موہنی ایکادشی
اتوار	۳	۱۰	۱۳	۲۷	۲۲	دوادشی	۱۹ ۵۸	[illegible]	۱ ۵۵	[illegible]	۳۴ ۳					۳۳ ۲۰	۵ ۳۰	۶ ۴۰		
سوموار	۴	۱۱	۱۴	۲۸	۲۳	ترودشی	۲۵ ۰۰	ہست	۸ ۲۸	بجر	۳۵ ۳۹	تلا	۴۱ ۴۴			۳۳ ۲۳	۵ ۲۹	۶ ۴۱		منگل برکھ میں ۲۹-۷ پر آیا۔
منگلوار	۵	۱۲	۱۵	۲۹	۲۴	چتردشی	۳۰ ۱۳	چترا	۱۵ ۰۰	سدھی	۳۷ ۷			۳۰ ۱۳		۳۳ ۲۸	۵ ۱۸	۶ ۴۲		میلہ نرسنگھ جی
بدھوار	۶	۱۳	۱۶	۳۰	۲۵	پورنماشی	۳۳ ۳۹	سواتی	۲۱ ۳۰	[illegible]	۳۸ ۸				۳ ۲۱	۳۳ ۳۲	۵ ۱۶	۶ ۴۳	○	میلہ بدو کی گسائیاں پرنماشی برت
ویروار	۷	۱۴	۱۷	[illegible]	۲۶	[illegible]	۳۸ ۱۵	[illegible]	۲۶ ۳	[illegible]	۳۸ ۲۹	برچھک	۱۰ ۳			۳۳ ۳۶	۵ ۱۶	۶ ۴۳		قمر درعقرب ۱۰-۳۰
شکروار	۸	۱۵	۱۸	۲	۲۷	[illegible]	۳۰ ۱۴	[illegible]	۳۰ ۳	[illegible]	۳۴ ۱۰					۳۳ ۴۰	۵ ۱۷	۶ ۴۴		
سنیچروار	۹	۱۶	۱۹	۳	۲۸	[illegible]	۳۵ ۱۰	[illegible]	۳۳ ۳۵	[illegible]	۳۶ ۳۴	دھن	۴۳ ۳۵	۱۱ ۴۷	۴۲ ۰۰	۳۳ ۴۴	۵ ۱۵	۶ ۴۵		
اتوار	۱۰	۱۷	۲۰	۴	۲۹	[illegible]	۳۳ ۴۳	[illegible]	۳۵ ۳۰	[illegible]	۳۱ ۱۱					۳۳ ۴۸	۵ ۱۴	۶ ۴۶		گنیش چوتھ ۔ میلہ چھاپیر
سوموار	۱۱	۱۸	۲۱	۵	۳۰	[illegible]	۲۷ ۱۳	[illegible]	۳۰ ۹	[illegible]	۳۰ ۹	مکر	۵۰ ۲۹			۳۳ ۵۲	۵ ۱۳	۶ ۴۷		
منگلوار	۱۲	۱۹	۲۲	۶	۳۱	[illegible]	۲۰ ۵۹	[illegible]	۳۰ ۱۶	[illegible]	۲۶ ۲۷			۳۸ ۴۹		۳۳ ۵۴	۵ ۱۳	۶ ۴۷		
بدھوار	۱۳	۲۰	۲۳	۷	[illegible]	[illegible]	۳۵ ۱۶	[illegible]	۳۱ ۲	[illegible]	۲۱ ۱۳				۶ ۳	۳۴ ۰۰	۵ ۱۲	۶ ۴۸	◐	سورج برکھ میں ۵۳-۴۳ چہلم
ویروار	۱۴	۲۱	۲۴	۸	۲	[illegible]	۱۳ ۰۰	[illegible]	۳ ۴	[illegible]	۱۶ ۱۸	کنبھ	۲ ۵۰			۳۴ ۲	۵ ۱۱	۶ ۴۹		پنچک شروع ۲-۵۰
شکروار	۱۵	۲۲	۲۵	۹	۳	نومی	۳۰ ۳۸	[illegible]	۳۰ ۳۰	[illegible]	۸ ۴۱			۵۳ ۱		۳۴ ۴	۵ ۱۰	۶ ۵۰		
سنیچروار	۱۶	۲۳	۲۶	۱۰	۴	دسمی	۲۰ ۱۵	[illegible]	۳۱ ۳۳	[illegible]	۳۵ ۰۰	مین	۱۰ ۳۰		۳۰ ۱۵	۳۴ ۱۳	۵ ۹	۶ ۵۱		
اتوار	۱۷	۲۴	۲۷	۱۱	۵	اکادشی	۱۴ ۲۰	[illegible]	۲۱ ۲۰	[illegible]	۳۱ ۳۵					۳۴ ۱۶	۵ ۹	۶ ۵۱		[illegible] مشتری میں غروب ہوا ۔ ۵۱ ۲۲ [illegible] کالی ایکادشی
سوموار	۱۸	۲۵	۲۸	۱۲	۶	[illegible]	۳ ۲۰	[illegible]	۱۰ ۳۳	[illegible]	۳۰ ۳۵	میکھ	۱۴ ۳۴			۳۴ ۲۰	۵ ۸	۶ ۵۲		پنچک ختم ۳۳-۴۴ بدھ بکری ۱۰-۲۱
منگلوار	۱۹	۲۶	۲۹	۱۳	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۱ ۲۷			۳ ۳	۲۹ ۳۸	۳۴ ۲۷	۵ ۷	۶ ۵۳		
بدھوار	۲۰	۲۷	۳۰	۱۴	۸	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۹ ۴۳	[illegible]	۳۴ ۳	برکھ	۲۱ ۳۴			۳۴ ۲۶	۵ ۶	۶ ۵۴	●	آخری چہار شنبہ
ویروار	۲۱	۲۸	۳۱	۱۵	۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۲۶	[illegible]	۱۵ ۵					۳۴ ۲۶	۵ ۶	۶ ۵۴		بدھ مغرب میں غروب ۹-۴۵
شکروار	۲۲	۲۹	[illegible]	۱۶	۱۰	[illegible]	۵۱ ۴۶	[illegible]	۲ ۵۰	[illegible]	۱۱ ۸	متھن	۳۱ ۵۰			۳۴ ۳۱	۵ ۵	۶ ۵۵		چاند نظر آئیگا
سنیچروار	۲۳	[illegible]	۲	۱۷	۱۱	[illegible]	۳۹ ۲۰	[illegible]	۱ ۵۹	[illegible]	۵ ۳۰					۳۴ ۳۳	۵ ۵	۶ ۵۵		شکر برکھ میں ۲-۲۳ پر آیا
اتوار	۲۴	۲	۳	۱۸	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵۲ ۵۵	کرک	۲۵ ۳۵	۵۹ ۳۵	۳۶ ۳	۳۴ ۳۵	۵ ۵	۶ ۵۵		میلہ جوڑ میل ۔ ایلیا گرڈھے
سوموار	۲۵	۳	۴	۱۹	۱۳	[illegible]	۳۳ ۱۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵۲ ۳۸					۳۴ ۳۷	۵ ۴	۶ ۵۶		
منگلوار	۲۶	۴	۵	۲۰	۱۴	[illegible]	۳۹ ۱۳	[illegible]	۲ ۱۹	[illegible]	۵۱ ۳۸					۳۴ ۳۹	۵ ۴	۶ ۵۶		
بدھوار	۲۷	۵	۶	۲۱	۱۵	[illegible]	۳۰ ۵۴	[illegible]	۵ ۱۳	[illegible]	۵۳ ۵	سنگھ	۵ ۱۳	۳۸ ۵۲		۳۴ ۴۱	۵ ۴	۶ ۵۶	◑	
ویروار	۲۸	۶	۷	۲۲	۱۶	[illegible]	۴۱ ۴۹	[illegible]	۹ ۱۷	[illegible]	۵۲ ۱۳				۱۰ ۳۲	۳۴ ۴۳	۵ ۳	۶ ۵۷		
شکروار	۲۹	۷	۸	۲۳	۱۷	[illegible]	۴۴ ۰۰	[illegible]	۱۴ ۲۶	[illegible]	۵۲ ۱۳	کنیا	۳۰ ۵۳			۳۴ ۴۵	۵ ۳	۶ ۵۷		
سنیچروار	۳۰	۸	۹	۲۴	۱۸	دسمی	۴۸ ۴۰	[illegible]	۲۰ ۳۲	[illegible]	۵۲ ۳۶					۳۴ ۴۷	۵ ۳	۶ ۵۷		سمپورنا کالات بکری برچھک میں ۱۹-۳۶ گرہا دسمی
اتوار	۳۱	۹	۱۰	۲۵	۱۹	اکادشی	۵۵ ۴۶	[illegible]	۲۵ ۵۵	[illegible]	۵۲ ۱۷			۲۳ ۴۰	۵۵ ۳۱	۳۴ ۴۹	۵ ۲	۶ ۵۸		نرجلا ایکادشی

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم مئی کو بادل رہا تو آئندہ بارش کی قلت ہو۔ اگر ۲ و ۳ مئی کو بارش ہوئی۔ تو قحط کی علامت ہے۔ اگر ۴ مئی کو آسمان ابر محیط رہا۔ تو غلہ گرانی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ۵ مئی کو بادل گرجا۔ اور بجلی چمکی۔ تو فصل کے لئے مفید ہے۔ اگر ۹ مئی کو دوپہر کے بعد بارش ہوئی۔ تو ماہ بھادوں تک غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۱۴ مئی کو بارش ہوئی۔ تو بھادوں میں بارش اچھی ہو۔ اگر ۲۰ مئی کو آسمان ابر محیط رہے۔ تو آئندہ بارش کی قلت ہو۔ اگر ۲۲ مئی کو بادل گرجے تو بارش جلد آوے۔ اگر ۲۵ مئی کو بارش ہو تو غلہ کا نرخ ارزاں ہو جاوے۔ اگر ۲۸ مئی سے ۳۱ تک ۴ روز برابر پروا کی ہوا چلی۔ تو ساون میں بارش خوب ہوگی۔

جنتری تبدیلی برج سیارگان

ماہ مئی سنہ ۱۹۳۶ء

تاریخ	
۱	شکر متھن کے (۲) ۳۳-۱۰
۲	بدھ کرتکا کے (۴) ۳-۲۸
۳	سورج بھرنی کے (۳) ۳۱-۱۴
۴	منگل کرتکا کے (۲) ۹-۲۷ بدھ روہنی کے (۱) [illegible]
۵	
۶	سورج بھرنی کے (۴) ۸-۱۹ شکر اشونی کے (۴) ۴۳-۱۱
۷	بدھ روہنی کے (۲) ۵۲-۴۳
۸	راہو مولا کے (۴) کیتو آردرا (۲) [illegible]
۹	منگل کرتکا کے (۳) ۲۱-۴۴ شکر بھرنی کے (۱) ۲۰-۵۹
۱۰	سورج کرتکا کے (۱) ۳۵-۸
۱۱	
۱۲	شکر بھرنی کے (۲) ۱۲-۱۰
۱۳	سورج کرتکا کے (۲) ۵۲-۴۳ بدھ روہنی کے (۳) ۴-۴۷
۱۴	منگل کرتکا کے (۴) ۵-۱۲ شکر بھرنی کے (۳) ۵۹-۱۰
۱۵	
۱۶	
۱۷	سورج کرتکا کے (۳) ۲۲-۵ شکر بھرنی کے (۴) ۳۴-۵۷
۱۸	منگل روہنی کے (۱) ۵۳-۵۹
۱۹	
۲۰	سورج کرتکا کے (۴) ۵۰-۴۸ شکر کرتکا کے (۱) ۲۰-۵
۲۱	
۲۲	
۲۳	منگل روہنی کے (۲) ۲۶-۴۱ شکر کرتکا کے (۲) ۲-۲۳
۲۴	سورج روہنی کے (۱) ۱۹-۳۰ بدھ روہنی کے (۳) ۰-۱۵
۲۵	شکر کرتکا کے (۳) ۴۶-۳۰
۲۶	بدھ روہنی کے (۲) ۵۳-۲۱
۲۷	سورج روہنی کے (۲) ۳۸-۵۵
۲۸	منگل روہنی کے (۳) ۱۲-۳۰ شکر کرتکا کے (۴) ۳۳-۱۲
۲۹	
۳۰	برہسپت جیشٹھا کے (۴) ۲۹-۳۶
۳۱	سورج روہنی کے (۳) ۱۸-۲۹ شکر روہنی کے (۱) ۲۹-۱۹

تحویل آفتاب در برج جوزا

کنڈلی بیاکھ شدی پورنماشی ۶ مئی بوقت ۴۲-۴۳

کنڈلی جیٹھ بدی اشٹمی ۱۳ مئی بوقت ۷-۴۷-۲

کنڈلی جیٹھ بدی اماوس ۲۰ مئی بوقت ۱۳-۴۷

کنڈلی جیٹھ شدی اشٹمی ۲۸ مئی بوقت ۲۲-۴۷



تقویم سیارگان

نام سیارہ	سورج	منگل	بدھ	برہسپت	شکر	سنیچر	راہو	کیت
دوراشی	برکھ	برکھ	برکھ	دھن	میکھ	کمبھ	دھن	متھن
انش	۲۳	۱	۱۲	۳	۹	۲۵	۱۳	۱۳
کلا	۸	۲۲	۱۰	۳۸	۵۰	۱۳	۲۷	۳۳
بکلا	۳۳	۴	۴۸	۳۹	۵۳	۳۰	۲۵	۴۵
حرکت یومی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
بکری و مارگی	م	م	م	ب	م	م	ب	ب
صورت برج	ط	ط	ط	ط	ط	ط	ع	ع

استعمال و پرہیز

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت برکھ کی ۳۰ ۵۳



پن کال - سوموار کے روز صبح سے دوپہر تک

پیشینگوئی بابت ماہ جیٹھ

ابتدائے ۱۳ مئی لغایت ۱۳ جون

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار د جنشٹا نچھتر میں پرویش ہوتی ہے۔ چونکہ سم ہوتی ہے۔ اور پانچویں نچھتر میں پرویش ہوتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں گذشتہ ماہ سے قدرے گرانی کی تاثیر رکھیگی۔ اناج خورد جوار باجرہ مکی وغیرہ کے نرخ میں کمی بیشی ہوتی رہیگی۔ دودھ۔ دہی۔ گھی کا نرخ گراں رہیگا۔ روئی کپاس۔ سن۔ سوت۔ سوتی کپڑا اسکا نرخ تیزی پر رہیگا۔ ریشمی۔ اونی کپڑا ارزاں رہیگا۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ تارہ میرا۔ توریہ کا بھاؤ گراں ہو۔ اشیاء سرخ رنگ تانبہ اور اس کی ساخت اشیاء لاکھ۔ مجیٹھ۔ چندن سرخ مرچ سرخ مسور کا بھاؤ تیز۔ پنساری کا سودا۔ مرچ سیاہ۔ دھنیا۔ زیرہ۔ ہلدی۔ اناردانہ وغیرہ کا بھاؤ سم رہے۔ گوڑ شکر شہد وغیرہ کا بھاؤ گراں رہے۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ بھوسہ۔ توڑی۔ گھاس کا نرخ ارزاں رہیگا۔ موسم۔ سورج منگل کا قران ہے۔ اس لئے گرم ہوا زیادہ ہو۔ لو لگنے سے اموات بہت ہوں۔ بخار گرمی سے بھی لوگ تنگ ہوں۔ چوپائے جانوروں میں روگ بڑھے۔ پھل پھول اچھے ہوں۔ لوگوں کے خیالات عیاشی کی طرف مائل اور بردہ فروشی و اغوا کی واردات کثرت سے ہو۔

کرۂ فلک

آسمان گرد آلود رہیگا۔ گرمی زیادہ پڑیگی۔ آندھی اور گرد و غبار بہت اڑیگی۔ ۱۴ و ۱۵ مئی کو ہوا تیز۔ ۱۷ و ۱۸ مئی کو گرج چمک ہوا تیز اور بارش ہو۔ ۲۱-۲۲-۲۳ مئی کو آسمان ابر محیط اور آندھی آئے۔ ۲۸-۳۰-۳۱ مئی کو ہوا تیز گرم ہو۔ یکم لغایت ۳ جون بارش چھینٹے۔ ۸-۹-۱۱-۱۲ جون کو بادل

نظر و شرف و ہبوط سیارگان

ماہ مئی

۳ مئی کو مریخ در برج ثور وبال میں داخل۔
۷ مئی کو قمر در برج عقرب ہبوط میں داخل۔
۸ " زحل بر شمس نظر تسدیس۔
۱۴ " زہرہ مشرق میں غروب
۱۸ " عطارد رجعت میں شروع
۲۰ " قمر در برج ثور شرف میں داخل
۲۰ " زحل بر زہرہ نظر تسدیس۔
۲۱ " عطارد مغرب میں غروب
۲۷ " شمس و عطارد کا برج ثور میں قران۔

سمور عام بستر ی ر بسر د مہر ۱۸۰۳ ۱۸ — سنہ ۶ مطابق سمبت بکرم ۱۹۹۶



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	تتھی	گھڑی پل	نکشتر	گھڑی پل	یوگ	گھڑی پل	راشی	گھڑی پل	ابتدا گھڑی پل	انتہا گھڑی پل	گھڑی پل	طلوع	غروب	[illegible]
سوموار	۱	۱۰	۱۱	۲۶	۲۰	دوادشی	۶۰/۰۰	چترا	۳۳/۲۹	[illegible]	۵۷/۵۲	تلا	۰۰/۱۳			۳۳/۵۱	۵/۲	۶/۵۸	
منگلوار	۲	۱۱	۱۲	۲۷	۲۱	دوادشی	۳/۲۶	سواتی	۳۹/۴۲	پریگھ	۵۹/۲۳					۳۳/۵۲	۵/۲	۶/۵۸	
بدھوار	۳	۱۲	۱۳	۲۸	۲۲	تیودشی	۹/۶	وشاکھا	۴۵/۱۵	شیو	۶۰/۰۰	برشچک	۲۸/۵۲			۳۳/۵۵	۵/۱	۶/۵۹	بارہ وفات سالگرہ شہنشاہ معظم قمر در عقرب ۲۸-۵۲
ویروار	۴	۱۳	۱۴	۲۹	۲۳	چتردشی	۸/۵۲	انرادھا	۴۹/۵۱	سدھ	۳-۰۰ ۳-۵۹			۸/۵۴	۳۰/۹	۳۴/۵۲	۵/۱	۶/۵۹	پورنماشی برت
شکروار	۵	۱۴	۱۵	۳۰	۲۴	پورنماشی	۱۱/۲۲	جیسٹھا	۵۳/۱۹	سادھ	۵۸/۳۲	دھن	۵۳/۱۹			۳۴/۵۸	۵/۱	۶/۵۹	بدھ مشرق میں طلوع ۵۸-۵۸
سنیچروار	۶	۱۵	۱۶	[illegible]	۲۵	پڑوا	۱۳/۳۳	مول	۵۴/۳۳	شبھ	۵۴/۲۷					۳۵/۰۰	۵/۰۰	۷/۰۰	
اتوار	۷	۱۶	۱۷	۲	۲۶	دوج	۱۳/۳۸	پورباکھاڑ	۵۶/۳۳	شکل	۵۳/۱۶			۴۲/۱۲		۳۵/۲	۵/۰۰	۷/۰۰	
سوموار	۸	۱۷	۱۸	۳	۲۷	تیج	۱۱/۳۵	اتراکھاڑ	۵۶/۵	برہم	۴۹/۳۸	مکر	۱۱/۱۸		۱۱/۳۵	۳۵/۳	۵/۰۰	۷/۰۰	بدھ ارگی ۲۰ گنیش چوتھ
منگلوار	۹	۱۸	۱۹	۴	۲۸	چوتھ	۹/۱۳	شرون	۵۳/۳۹	ایندر	۴۵/۵					۳۵/۴	۴/۵۹	۷/۱	
بدھوار	۱۰	۱۹	۲۰	۵	۲۹	پنچمی	۵/۱	دھنشٹا	۵۳/۵۵	ویدھرت	۳۹/۱۷	کمبھ	۲۳/۱۷			۳۵/۶	۴/۵۹	۷/۱	پنچک شروع ۲۲-۱۸
ویروار	۱۱	۲۰	۲۱	۶	۳۰	ششٹی سپتمی	۲-۳۰ ۵۸-۵۹	ستبھکا	۴۹/۲۳	وشکنبھ	۳۳/۵۱			۱/۲۳	۲۸/۳۷	۳۵/۸	۴/۵۹	۷/۱	
شکروار	۱۲	۲۱	۲۲	۷	۳۱	اشٹمی	۵۰/۳	پورباپھاد	۴۴/۵۱	پریت	۲۵/۵۷	مین	۳۰/۵۹			۳۵/۱۰	۴/۵۸	۷/۲	
سنیچروار	۱۳	۲۲	۲۳	۸	۳۲	نومی	۴۴/۴۹	اترابھادر	۳۹/۳۸	آیوشمان	۱۷/۳۸					۳۵/۱۱	۴/۵۸	۷/۲	
اتوار	۱۴	۲۳	۲۴	۹	[illegible]	دسمی	۳۸/۱۵	ریوتی	۳۶/۳۹	سوبھاگ	۹/۵۴	میکھ	۳۶/۳۶	۱۱/۲۶	۳۸/۱۵	۳۵/۱۲	۴/۵۸	۷/۲	سورج متھن میں ۱۹-۳۸ پنچک ختم ۳۷-۳۶
سوموار	۱۵	۲۴	۲۵	۱۰	۲	ایکادشی	۳۲/۲۱	اشونی	۳۳/۲۹	شوبھن اتی گنڈ	۱-۳ ۵۹-۵۲					۳۵/۱۳	۴/۵۸	۷/۳	یوگنی ایکادشی
منگلوار	۱۶	۲۵	۲۶	۱۱	۳	دوادشی	۲۶/۲۱	بھرنی	۲۹/۳۶	سوکرما	۴۸/۳۱	برکھ	۳۴/۲۳			۳۵/۱۴	۴/۵۸	۷/۳	منگل متھن میں ۲۸-۱۲ پر
بدھوار	۱۷	۲۶	۲۷	۱۲	۴	تیودشی	۲۰/۴۲	کرتکا	۲۶/۹	دھرت	۳۱/۳۸			۲۰/۴۳	۴۸/۱۶	۳۵/۱۵	۴/۵۷	۷/۳	شکر متھن میں ۳۲-۲ پر آیا
ویروار	۱۸	۲۷	۲۸	۱۳	۵	چتردشی	۱۵/۵۳	روہنی	۲۳/۲۰	شول	۳۵/۳۲	متھن	۵۲/۲۷			۳۵/۱۶	۴/۵۷	۷/۳	
شکروار	۱۹	۲۸	۲۹	۱۴	۶	اماوس	۱۱/۴۴	مرگشر	۲۲/۱۳	گنڈ	۲۹/۲۷					۳۵/۱۷	۴/۵۷	۷/۳	سورج گرہن - ہریالی اماوس
سنیچروار	۲۰	۲۹	۳۰	۱۵	۷	پڑوا	۸/۴۳	آردرا	۲۰/۳۱	بردھ	۲۵/۲					۳۵/۱۸	۴/۵۷	۷/۳	چاند نظر آئیگا - رتھ یاترا
اتوار	۲۱	[illegible]	۳۱	۱۶	۸	دوج	۶/۴۰	پنربس	۲۰/۳۰	دھرو	۲۱/۱۰	کرک	۵/۳۱			۳۵/۱۹	۴/۵۷	۷/۳	
سوموار	۲۲	۲	[illegible]	۱۷	۹	تیج	۵/۵	پکھ	۲۱/۴۵	ویاگھات	۱۶/۱۷			۳۶/۴		۳۵/۲۰	۴/۵۶	۷/۴	
منگلوار	۲۳	۳	۳	۱۸	۱۰	چوتھ	۶/۱۷	اشلیکھا	۲۳/۴۳	ہرکھن	۱۶/۲۵	سنگھ	۲۲/۲۲		۶/۱۷	۳۵/۱۹	۴/۵۶	۷/۴	
بدھوار	۲۴	۴	۳	۱۹	۱۱	پنچمی	۸/۲	مگھا	۲۸/۱۰	وجر	۱۵/۳۵					۳۵/۱۸	۴/۵۶	۷/۴	
ویروار	۲۵	۵	۴	۲۰	۱۲	چھٹ	۱۱/۱	پورباپھالگنی	۳۳/۱۰	سدھی	۱۳/۵۳	کنیا	۵۲/۳۳			۳۵/۱۷	۴/۵۶	۷/۴	
شکروار	۲۶	۶	۵	۲۱	۱۳	ستمی	۱۳/۵۳	اتراپھالگنی	۳۸/۵۳	ویتی پات	۱۶/۲۷			۱۳/۵۳	۴۷/۱۷	۳۵/۱۶	۴/۵۷	۷/۴	
سنیچروار	۲۷	۷	۶	۲۲	۱۴	اشٹمی	۱۹/۱	ہست	۴۵/۱۵	بریان	۱۵/۲۷					۳۵/۱۵	۴/۵۷	۷/۳	
اتوار	۲۸	۸	۷	۲۳	۱۵	نومی	۲۲/۳۸	چترا	۵۱/۵۱	پریگھ	۱۸/۲۹	تلا	۱۸/۳۳			۳۵/۱۴	۴/۵۷	۷/۳	
سوموار	۲۹	۹	۸	۲۴	۱۶	دسمی	۲۹/۲۹	سواتی	۵۸/۱۱	شو	۳۰/۵					۳۵/۱۲	۴/۵۷	۷/۳	
منگلوار	۳۰	۱۰	۹	۲۵	۱۷	ایکادشی	[illegible]	وشاکھا	۶۰/۰۰	سدھ	۲۱/۳۱	برشچک	۳/۳۴	[illegible]	۳۲/[illegible]	۳۵/[illegible]	۴/۵۸	۷/۳	[illegible] ۳۰ ۲۶ [illegible] ایکادشی [illegible]

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۴ جون کو بارش ہوئی تو بھادوں میں بارش خوب ہوگی۔ اگر ۵ جون کو آسمان ابر محیط رہا۔ اور دکھن کی ہوا چلتی رہی۔ تو ساون اور بھادوں بارش سے خالی جاویں گے۔ اگر ۹ جون کو سورج بادلوں میں ڈھکا رہے۔ تو تین ماہ تک بارش نہ ہوگی۔ اگر ۱۲ جون کو رات کے وقت بادل رہے۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو جائے۔ اگر ۱۳ جون کو آسمان ابر محیط رہا۔ تو غلہ کا نرخ بہت جلد ارزاں ہو جاویگا۔ اگر ۱۹ جون کو صبح کے وقت بادل دوپہر کو آسمان صاف اور شام کو بارش ہو جائے تو پھر بارش بلند ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۲۰ جون سے ۲۲ جون تک برابر بارش ہو تو آئندہ بارش خوب ہو۔ اگر ۲۳ جون کو بارش ہوئی۔ تو آئندہ بارش کی طرف سے خدشہ جواب جانو۔ اگر ۲۴ جون کو بارش کے بعد قوس قزح نظر آئے تو دو ماہ تک بھی غلہ سخت گران ہو جائے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت مثمن نیر ق ۳۰ بوقت ۱۹



پن کال - بعد دوپہر شام تک

پیشینگوئی بابت ماہ ہاڑ

ابتدائے ۱۴ جون لغایت ۱۴ جولائی

کرۂ ارض

اِس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار ریوتی نچھتر میں پیش ہوگی۔ چوکہ سوجوتی اور پانچواں نچھتر سے اور بیرکھا شی برو تر سنیچر وار مولا نچھتر میں ہوگی۔ اس لئے اس ماہ میں غلہ گندم و جو دکا نرخ بہ نسبت ماہ گذشتہ گرانی پر رہیگا۔ غلہ خورد۔ جوار۔ باجرہ۔ مکی وغیرہ کا نرخ بدستور ماہ سابقہ ہی رہیگا تفاوت کمی بیشی ہوگی۔ روئی کپاس۔ سن۔ سوت سفید کپڑا۔ چاول۔ نمک۔ گھی۔ دودھ۔ دہی کا نرخ تیز ہو۔ گا۔ تل۔ تیل۔ السی۔ تارا میرا وغیرہ کا بھاؤ بدستور ماہ سابقہ رہے۔ ہر قسم کی دھاتیں گراں اشیا سیاہ رنگ مثلاً لوہا۔ کوئلہ وغیرہ کا نرخ بحال رہیگا۔ پنساری کا سامان ہر قسم کھانڈ۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ مسور۔ لاکھ۔ چندن وغیرہ کا نرخ تیزی پر۔ ہر قسم سورج۔ منگل۔ بدھ۔ شکر ایک راشی پر رہیں گے۔ اور بیماری ہے۔ اس لئے لوگ بیماری سے تنگ ہونگے۔ مستورات کو تکلیف زیادہ۔ اسقاط حمل کی وارداتیں بہت ہوں۔ چوپاؤں کا ناش ہو۔ چوری۔ ڈاکہ اور آگ لگنے کی وارداتیں کثرت سے ہوں۔ لوگ [illegible] کریں۔

کرۂ فلک

چونکہ شکر و بدھ کے درمیان سورج رہیگا۔ اس لئے ہوا تیز بہت چلے بارش کم ہو۔ ماہ جون کی ۱۳-۱۵ تاریخ کو آسمان ابر آلود۔ ہوا تیز۔ ۱۶ و ۱۷-۱۹-۲۱ جون کو گرج چمک اور بارش ہو۔ ۲۴ و ۲۵ جون کو بادل رہیں۔ ۲۹ و ۳۰ جون کو آسمان پر بادل بجلی کی چمک گرج اور بارش ہو۔ ماہ جولائی کی ۳-۴-۵ کو ہوا تیز بادل ہیں۔ ۹ و ۱۰ جولائی کو آسمان ابر آلود رہیگا ۔



تقویم سیارگان

۱	
۲	منگل ودہنی کے (۳) ۱۳ شکر ودہنی کے (۲) ۵۷ - ۱۰
۳	سورج ودہنی کے (۱) ۴۸ - ۳۴
۴	
۵	بدھ کرتکا کے (۳) ۱۰ - ۵۵ شکر ودہنی کے (۳) ۲۱ - ۴۳
۶	منگل مرگشر کے (۱) ۴۸ - ۱۳
۷	سورج مرگشر کے (۱) ۱۸ - ۴۲ شکر ودہنی کے (۴) ۵۳ - ۳۵
۸	
۹	
۱۰	سورج مرگشر کے (۲) ۳۸ - ۳۹
۱۱	منگل مرگشر کے (۲) ۴۴ - ۲۳ شکر مرگشر کے (۱) ۵ - ۵۵
۱۲	
۱۳	شکر مرگشر کے (۲) ۵۲ - ۲۱
۱۴	سورج مرگشر کے (۳) ۱۹ - ۲۸
۱۵	بدھ ودہنی کے (۱) ۳۳ - ۱۵
۱۶	منگل مرگشر کے (۳) ۲۸ - ۱۲
۱۷	سورج مرگشر کے (۴) ۵۰ - ۲۱ شکر مرگشر کے (۳) ۲۳ - ۲
۱۸	
۱۹	بدھ ودہنی کے (۲) ۲ - ۱۵ شکر مرگشر کے (۴) ۱۱ - ۵۳
۲۰	
۲۱	سورج آردرا کے (۱) ۲۱ - ۱۳ شکر آردرا کے (۱) ۵ - ۱۰
۲۲	منگل مرگشر کے (۴) ۱۰ - ۴۹ بدھ ودہنی کے (۳) ۳ - ۱۹
۲۳	
۲۴	سورج آردرا کے (۲) ۴۹ - ۲۶ شکر آردرا کے (۲) ۳۳ - ۴۴
۲۵	برہسپت جیشٹھا کے (۳) ۱ - ۱۵
۲۶	منگل آردرا کے (۱) ۳۸ - ۲۳
۲۷	بدھ مرگشر کے (۱) ۰۰ - ۲۷ شکر آردرا کے (۳) ۳۰ - ۱۶
۲۸	سورج آردرا کے (۳) ۱۹ - ۳۰
۲۹	
۳۰	بدھ مرگشر کے (۲) ۲۳ - شکر آردرا کے (۴) ۳ - ۱۵

ماہ جون

ایام	انگریزی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	تتھی	گھڑی پل	نچھتر	گھڑی پل	یوگ	گھڑی پل	چندرما راس	گھڑی پل	گھڑی پل	گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	طلوع گھنٹہ منٹ	غروب گھنٹہ منٹ	جدول	کیفیت و عرس بزرگان دین
بدھوار	۱	۱۱	۱۰	۲۶	۱۸	دوادشی	۳۶ ۳۸	بشاکھا	۳ ۵۲	سادھ	۲۲ ۲					۳۵ ۹	۴ ۵۸	۷ ۲		بدھ متھن میں ۲۵-۱۸ پر آیا
ویروار	۲	۱۲	۱۱	۲۷	۱۹	ترودشی	۴۲ ۱۳	انورادھا	۸ ۳۹	شبھ	۲۱ ۵۹					۳۵ ۸	۴ ۵۸	۷ ۲		
شکروار	۳	۱۳	۱۲	۲۸	۲۰	چتردشی	۴۱ ۴۳	جیشٹا	۱۲ ۳۲	شکل	۲۱ ۳	دھن	۱۲ ۲۲	۲۱ ۴۳		۳۵ ۶	۴ ۵۸	۷ ۲		
سنیچروار	۴	۱۴	۱۳	۲۹	۲۱	پورنماشی	۳۱ ۴۸	مول	۱۳ ۹	برہم	۱۹ ۳				۱۱ ۴۳	۳۵ ۵	۴ ۵۵	۷ ۱	○	چاند گرہن - بیاس پوجا - [illegible] پورنماشی برت
آدتوار	۵	۱۵	۱۴	ساون	۲۲	[illegible]	۳۰ ۳۰	پورباکھاڑ	۱۵ ۵۴	اندر	۱۵ ۵۳	مکر	۳۰ ۵۴			۳۵ ۳	۴ ۵۹	۷ ۱		
سوموار	۶	۱۶	۱۵	۲	۲۳	دوج	۳۸ ۱۴	اتراکھاڑ	۱۵ ۵۷	بیدھرت	۱۲ ۳					۳۵ ۱	۵ ۰	۷ ۰		
منگلوار	۷	۱۷	۱۶	۳	۲۴	تیج	۳۳ ۴۲	شرون	۱۴ ۲۲	وشکنبھ	۸ ۱۰	کنبھ	۴۳ ۱	۶ ۳۵	۳۳ ۵۳	۳۴ ۵۹	۵ ۰	۷ ۰		پنچک شروع ۴۳-۱ گنیش چوتھ
بدھوار	۸	۱۸	۱۷	۴	۲۵	چوتھ	۳۰ ۲۸	دھنشٹا	۱۱ ۴۱	پریت آیوشمان	۳۰-۱ ۹-۵۵					۳۴ ۵۷	۵ ۰	۷ ۰		
ویروار	۹	۱۹	۱۸	۵	۲۶	پنچمی	۲۵ ۲۵	شت بھکا	۹ ۳۷	سوبھاگ	۴۸ ۱۳	مین	۵۲ ۸			۳۴ ۵۵	۵ ۱	۶ ۵۹		بدھ مشرق میں غروب ۳۲-۵۵
شکروار	۱۰	۲۰	۱۹	۶	۲۷	چھٹ	۱۹ ۵۰	پورباپھادرپد	۶ ۱۵	شوبھن	۴۱ ۵۳			۱۹ ۵۰	۳۶ ۳۵	۳۴ ۵۳	۵ ۱	۶ ۵۹		
سنیچروار	۱۱	۲۱	۲۰	۷	۲۸	سپتمی	۱۳ ۴۰	اترابھادرپد ریوتی	۱۱-۲ ۱۱-۵۸	اتگنڈ	۳۳ ۲۲	میکھ	۵۸ ۱۱			۳۴ ۵۱	۵ ۱	۶ ۵۹	◓	شکر کرک میں ۱۹-۲۰ پر آیا پنچک ختم ۵۸-۱۱
آدتوار	۱۲	۲۲	۲۱	۸	۲۹	اشٹمی	۶ ۳۳	اشونی	۵۳ ۵۰	سکرما	۳۵ ۴۲					۳۴ ۵۰	۵ ۲	۶ ۵۸		
سوموار	۱۳	۲۳	۲۲	۹	۳۰	نومی دشمی	۳۰-۱ ۵۵-۵۴	بھرنی	۵۰ ۳	دھرت	۱۸ ۷			۲۸ ۴۵	۴۵ ۳۱	۳۴ ۴۸	۵ ۲	۶ ۵۸		
منگلوار	۱۴	۲۴	۲۳	۱۰	۳۱	ایکادشی	۴۹ ۵۱	کرتکا	۴۶ ۲۳	شول	۱۰ ۲۹	برکھ	۱۲ ۸			۳۴ ۴۶	۵ ۲	۶ ۵۸		کملا ایکادشی
بدھوار	۱۵	۲۵	۲۴	۱۱	ساون	دوادشی	۴۳ ۴۶	روہنی	۴۲ ۲۶	گنڈ بردھ	۵۲-۴۳ ۴۸-۵۶					۳۴ ۴۵	۵ ۳	۶ ۵۷		سورج کرک میں ۵۷-۵۱
ویروار	۱۶	۲۶	۲۵	۱۲	۲	ترودشی	۳۰ ۳۱	مرگ شر	۴۰ ۳۰	دھرو	۵۱ ۴۳	متھن	۱۱ ۵۸	۴۰ ۳۱		۳۴ ۴۲	۵ ۳	۶ ۵۷		
شکروار	۱۷	۲۷	۲۶	۱۳	۳	چودش	۳۴ ۴۳	آردرا	۳۰ ۲	بیاگھات	۴۶ ۴۷				۹ ۶	۳۴ ۴۰	۵ ۴	۶ ۵۹		بدھ کرک میں ۵۹-۴۳ پر آیا
سنیچروار	۱۸	۲۸	۲۷	۱۴	۴	اماوس	۲۵ ۲۰	پنربس	۳۹ ۵۰	ہرکھن	۴۳ ۴۴	کرک	۲۳ ۵۵			۳۴ ۳۸	۵ ۴	۶ ۵۶	●	منو آدی اماوش
آدتوار	۱۹	۲۹	۲۸	۱۵	۵	[illegible]	۳۳ ۲۳	پکھ	۴۰ ۴۹	بجر	۳۴ ۴۹					۳۴ ۳۶	۵ ۴	۶ ۵۶		
سوموار	۲۰	۳۰	۲۹	۱۶	۶	دوج	۳۴ ۱۳	اشلیکھا	۴۲ ۱۴	سدھی	۳۹ ۳۶	سنگھ	۴۲ ۱۴			۳۴ ۳۴	۵ ۵	۶ ۵۵		چاند نظر آیا
منگلوار	۲۱	جمادی	۳۰	۱۷	۷	تیج	۳۶ ۳۰	مگھا	۴۶ ۵۰	بیتی پات	۳۷ ۳۶					۳۴ ۳۲	۵ ۵	۶ ۵۵		ہریالی تیج
بدھوار	۲۲	۲	۳۱	۱۸	۸	چوتھ	۳۹ ۱۴	پوربا پھالگنی	۵۱ ۱۸	بریان	۳۸ ۲۴			۷ ۴۳	۳۹ ۱۴	۳۴ ۳۰	۵ ۶	۶ ۵۴		
ویروار	۲۳	۳	۳۲	۱۹	۹	پنچمی	۴۳ ۵۹	اترا پھالگنی	۵۶ ۵۴	پریگھ	۳۴ ۵	کنیا	۷ ۴۲			۳۴ ۲۸	۵ ۶	۶ ۵۴		ناگ پنچمی
شکروار	۲۴	۴	[illegible]	۲۰	۱۰	چھٹ	۴۷ ۲۵	ہست	۶۰ ۰	شو	۳۸ ۱۴					۳۴ ۲۵	۵ ۷	۶ ۵۳		
سنیچروار	۲۵	۵	۲	۲۱	۱۱	سپتمی	۵۲ ۳۰	ہست	۳ ۱۱	سدھ	۳۹ ۵۱	تلا	۳۶ ۳۲	۵۲ ۴۰		۳۴ ۲۲	۵ ۷	۶ ۵۳		
آدتوار	۲۶	۶	۳	۲۲	۱۲	اشٹمی	۵۶ ۴۸	چترا	۹ ۵۲	سادھ	۴۳ ۲				۲۵ ۱۴	۳۴ ۱۹	۵ ۸	۶ ۵۲	◒	میلہ جینت پوری دلی
سوموار	۲۷	۷	۴	۲۳	۱۳	نومی	۶۰ ۰	سواتی	۱۴ ۷	شبھ	۴۲ ۴۶					۳۴ ۱۷	۵ ۸	۶ ۵۲		
منگلوار	۲۸	۸	۸	۲۴	۱۴	نومی	۲ ۱۶	بشاکھا	۲۱ ۵۵	شکل	۴۳ ۳۸	برچھک	۵ ۳۱			۳۴ ۱۴	۵ ۹	۶ ۵۱		قمر در عقرب ۵-۳۱
بدھوار	۲۹	۹	۹	۲۵	۱۵	دشمی	۵ ۵۹	انورادھا	۲۴ ۱	برہم	۴۳ ۴			۳۷ ۴۲		۳۴ ۱۱	۵ ۹	۶ ۵۱		شکر مغرب میں طلوع ۵۹-۵۵
ویروار	۳۰	۱۰	۷	۲۶	۱۶	ایکادشی	۸ ۴۵	جیشٹھا	۳۰ ۵۶	اندر	۴۲ ۵۰	دھن	۳۰ ۵۶		۸ ۴۵	۳۴ ۸	۵ ۱۰	۶ ۵۰		پوترا ایکادشی
شکروار	۳۱	۱۱	۸	۲۷	۱۷	دوادشی	۱۰ ۱۴	مول	۳۳ ۴۱	بیدھرت	۴۰ ۵۹					۳۴ ۴	۵ ۱۱	۶ ۴۹		

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۸ جولائی کو مطلع صاف رہا تو اٹھارہ روز کے اندر اندر بارش خوب ہوگی۔ اگر ۹ جولائی کو بادل نہ گرجا۔ تو قحط پڑنے کی علامت ہوگی۔ اگر ۱۱ جولائی کو بوقت غروب آفتاب آسمان پر سرخی ہو۔ تو بیماری پڑ جاوے۔ اگر ۱۲ جولائی کو بارش ہوگئی۔ تو نرخ غلہ جلد گراں ہوجگا۔ اگر ۱۴ جولائی کو بارش ہوگئی۔ تو فصل کی پیداوار بہت ہوگی۔ اگر ۲۳-۲۴ جولائی کو دو روز برابر بارش ہوئی۔ اور دکھن میں بجلی چمکی۔ تو قحط پڑنے کی علامت جاننا۔ اگر ۲۶ جولائی کو آسمان ابر محیط رہے۔ تو بارش بہت جلد کثرت سے ہو۔

ماہ جولائی ۱۹۳۶ء

فہرست سیارگان برج و نچھتر

۱	سورج آردرا کے (۳) ۵۴-۱۹ منگل آردرا کے (۲) ۲۵-۳۲ بدھ مرگشر کے (۳) ۲۵-۱۸
۲	شکر پنربس کے (۱) ۳۸-۳۱
۳	بدھ مرگشر کے (۴) ۸-۴۹
۴	
۵	سورج پنربس کے (۱) ۲۵-۹ شکر پنربس کے (۲) ۳۳-۱۱
۶	منگل آردرا کے (۳) ۳-۵۶
۷	راہو پوروا کے (۳) کیتو آردرا کے (۱) ۱۵/۳۴
۸	بدھ آردرا کے (۲) ۵۷-۱ شکر پنربس کے (۳) ۴۷-۱۴
۹	سورج پنربس کے (۲) ۴۷-۳
۱۰	بدھ آردرا کے (۳) ۵۱-۲۶
۱۱	منگل آردرا کے (۴) ۸-۴۹ بدھ آردرا کے (۴) ۴۴-۱۰ شکر پنربس کے (۴) ۱۹-۴۲
۱۲	سورج پنربس کے (۳) ۲۶-۵۹ بدھ پنربس کے (۱) ۴۹-۲
۱۳	شکر پکھ کے (۱) ۴۹-۳۱
۱۴	بدھ پنربس کے (۲) ۴۰-۷
۱۵	سورج پنربس کے (۴) ۵۷-۵۱
۱۶	منگل پنربس کے (۱) ۱۳-۵۸ بدھ پنربس کے (۳) ۲-۴۷ شکر پکھ کے (۲) ۲۱-۱۶
۱۷	بدھ پنربس کے (۴) ۵۹-۲۳
۱۸	شکر پکھ کے (۳) ۵-۴۷
۱۹	سورج پکھ کے (۱) ۳۳-۱۹ بدھ پکھ کے (۱) ۲-۲۹
۲۰	منگل پنربس کے (۲) ۲۳-۷ بدھ پکھ کے (۲) ۱۹-۵ شکر پکھ کے (۴) ۵۳-۳۳
۲۱	
۲۲	سورج پکھ کے (۲) ۵۹-۵۰ بدھ پکھ کے (۳) ۴۷-۸
۲۳	شکر اشلیکھا کے (۱) ۳۴-۵۵
۲۴	بدھ پکھ کے (۴) ۱۳-۳ برہسپت جیشٹا کے (۲) [illegible]
۲۵	منگل پنربس کے (۳) ۱۳-۲۰
۲۶	سورج پکھ کے (۳) [illegible] بدھ اشلیکھا کے (۱) [illegible] شکر اشلیکھا کے (۲) ۹-۳۰
۲۷	
۲۸	بدھ اشلیکھا کے (۲) ۲-۲۰
۲۹	سورج پکھ کے (۴) ۵۹-۵۳ بدھ اشلیکھا کے (۳) [illegible] شکر اشلیکھا کے (۳) ۲-۳۰
۳۰	
۳۱	

تقویم سیارگان

کنڈلی اساڑھ سدی پورنماشی ۴ جولائی بوقت ۷-۳۳



کنڈلی ساون بدی اشٹمی ۱۰ جولائی بوقت ۷-۲۵



کنڈلی ساون بدی اماوس ۱۸ جولائی بوقت ۷-۱۹



کنڈلی ساون سدی اشٹمی ۲۶ جولائی بوقت ۷-۱



نام سیارہ	سورج	منگل	بدھ	برہسپت	شکر	سنیچر	راہو	کیت
راس	متھن	متھن	متھن	برچھک	متھن	کنبھ	دھن	متھن
انش	۱۹	۱۲	۶	۲۵	۲۲	۲۵	۱۰	۱۰
کلا	۲۳	۲۳	۳	۹	۲۵	۵۲	۶	۶
بکلا	۱۹	۳۱	۲۵	۲۳	۶	۳۴	۵۹	۵۹
حرکت روزانہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	م	م	م	ب	م	ب	ب	ب
طلوع و غروب	ط	ع	و	ط	ع	ط	ع	ع

نام سیارہ	سورج	منگل	بدھ	برہسپت	شکر	سنیچر	راہو	کیت
راس	متھن	متھن	متھن	برچھک	کرک	کنبھ	دھن	متھن
انش	۳۲	۱۷	۳۰	۲۳	۱	۲۷	۹	۹
کلا	۵۹	۵۹	۵	۳۰	۲۷	۲۸	۴۱	۴۱
بکلا	۳۰	۵۳	۱۰	۶	۲	۵	۲۸	۲۸
حرکت روزانہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	م	م	م	ب	م	ب	ب	ب
طلوع و غروب	ط	ع	ع	ع	ع	ط	ع	ع

نام سیارہ	سورج	منگل	بدھ	برہسپت	شکر	سنیچر	راہو	کیت
راس	کرک	متھن	کرک	برچھک	کرک	کنبھ	دھن	متھن
انش	۳	۲۱	۱	۲۳	۹	۳۲	۹	۹
کلا	۴۰	۴۵	۱۰	۵۴	۳۳	۳۴	۲۲	۲۲
بکلا	۳۴	۱۷	۵۲	۳	۸	۱۰	۲۲	۲۲
حرکت روزانہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	م	م	م	ب	م	ب	ب	ب
طلوع و غروب	ہ	ع	ع	ط	ع	ط	ع	ع

نام سیارہ	سورج	منگل	بدھ	برہسپت	شکر	سنیچر	راہو	کیت
راس	کرک	متھن	کرک	برچھک	کرک	کنبھ	دھن	متھن
انش	۱۰	۲۷	۱۵	۲۳	۱۹	۲۷	۸	۸
کلا	۱۶	۴	۵۲	۱۸	۲۱	۱۴	۵۹	۵۹
بکلا	۳۴	۳۰	۲۸	۲۴	۳۷	۲۳	۵۴	۵۳
حرکت روزانہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	م	م	م	ب	م	ب	ب	ب
طلوع و غروب	ط	ع	ط	ط	ع	ط	ع	ع

تحویل آفتاب در برج اسد

۲۳ جولائی

استعمال و پرہیز

استعمال کثرت کرنا۔ گرم پانی سے نہانا۔ مولی کھانا۔ پھول کھانا۔ حجامت کرنے مفید ہے۔ پرہیز۔ گرم غذا کھانا۔ زیادہ صحبت کرنا۔ دریا کے کنارے بیٹھنا۔ جسم کو ننگا رکھنا صحت کے لئے مضر ہے۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت کرک ہوتی ۳۰ پل وقت



ین کال۔ اگلے روز صبح سے دوپہر تک

پیشینگوئی بابت ماہ ساون

ابتدائے ۱۵ جولائی لغایت ۱۵ اگست

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز بدھ وار مرگشر نچھتر میں پرویش کریگی چونکہ ۳۰ مہورتی ہے اور چھٹے نچھتر میں پرویش ہوئی ہے۔ آماوش بروز سنیچر وار اور جودش کو آردرا نچھتر ہے۔ یہ سب یوگ اناج کی تیزی کرنے والے ہیں۔ اسلئے تمام گندم تلوں کا بھاؤ گرانی پر رہیگا۔ اناج خورد و نمک موٹھ۔ جوار۔ باجرہ۔ مکی وغیرہ کا نرخ بھی تیز رہیگا۔ روئی۔ کپاس۔ سوت اور سوتی کپڑہ کے نرخ میں کمی بیشی خفیف ہوتی رہیگی۔ دودھ دہی۔ گھی۔ چاول وغیرہ گراں ہونگے۔ گوڑ شکر۔ کھانڈ۔ شہد وغیرہ کا بھاؤ تیز۔ سب طرح کی دھاتیں کم بھاؤ۔ تیل۔ السی۔ سرسوں توریہ۔ تارا میرا۔ ارنڈی کا نرخ کم و بیش ہوتا ہے۔ پنساری کا سودا مرچ سیاہ۔ زیرہ دھنیا۔ کھجور۔ انار دانہ۔ ہلدی وغیرہ کا بھاؤ خفیف تیز رہے۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ تورئی۔ چارہ بھوسہ گراں۔ تمباکو ارزاں ملے۔

موسم۔ سورج۔ بدھ۔ شکر ایک نچھتر پر رہینگے اسلئے امراض معدہ۔ بیضی۔ پیٹ درد۔ اسہال وغیرہ بیماری سے لوگ تنگ ہونگے۔ آگ سے نقصان ہو۔ تجارت سست رہیگی۔ لوگوں کو تکلیف ناگہانی اتفاقات پیدا ہوں اور لوگوں کو فکر و تشویش رہیگا۔

کرۂ فلک

سورج۔ شکر کے درمیان بدھ اور چندرماں بادی نچھتر ہیں اس لئے ہوا زیادہ چلیگی۔ چونکہ آتے ہوئے بادلوں کو بھی اڑا کر لے جایا کریگی۔ بارش میدانی علاقوں میں کم اور پہاڑی علاقوں میں زیادہ ہوگی۔ ماہ جولائی کو ۱۵۔ ۱۶ و ۱۷ کو ہوا سرد۔ بادل۔ ۲۱ و ۲۲ و ۲۶ و ۲۷ تاریخ کو بادل اور بعض بعض جگہ بارش ہو۔ ۲۹ و ۳۰ جولائی کو بادل کی گرج چمک۔ بادل و بارش ہوا سرد چلے۔ ۲ و ۳ و ۷ و ۸ اگست کو گرج چمک بارش اور ۹۔ ۱۰۔ ۱۲ و ۱۳ اگست کو بادل و بارش ہوگی۔

شرف و ہبوط سیارگان

ماہ جولائی

۹ جولائی۔ عطارد مشرق میں غروب

۱۱ مریخ و عطارد کا برج جوزا میں قران

۱۳ قمر در برج ثور شرف میں داخل۔

۱۵ شمس برج سرطان برج غیر شرف میں داخل

۱۸ شمس و عطارد کا برج سرطان میں قران۔

۲۴ قمر برج عقرب ہبوط میں داخل

۲۹ زہرہ مغرب میں طلوع



اگست ۳۱							گھڑی پل		گھڑی پل		گھڑی پل		گھڑی پل	انتہا گھڑی پل	ابتدا گھڑی پل	گھڑی پل	طلوع آفتاب گھنٹہ منٹ	غروب آفتاب گھنٹہ منٹ	[illegible]
سنیچروار	۱	۱۲	۹	۲۸	۱۸	تیرودشی	۱۰ ۲۸	پوربا کھاڈ	۳۵ ۸	بکنبھ	۳۸ ۹	مکر	۵۰ ۱۰			۳۳ ۰۰	۵ ۱۲	۶ ۴۸	
اتوار	۲	۱۳	۱۰	۲۹	۱۹	چتردشی	۹ ۳۰	اترا کھاڈ	۳۵ ۲۱	پریت	۳۳ ۱۹			۹ ۳۹	۳۷ ۵۶	۳۳ ۵۴	۵ ۱۳	۶ ۴۶	پورنماشی برت
سوموار	۳	۱۴	۱۱	۳۰	۲۰	پورنماشی	۶ ۱۵	سرون	۳۳ ۲۵	آیوشمان	۲۹ ۳۴					۳۳ ۵۲	۵ ۱۳	۶ ۴۶	بدھ سنگھ میں ۳-۴۰ پر آیا رکھڑی میلہ امرناتھ جی
منگلوار	۴	۱۵	۱۲	[illegible]	۲۱	پرتپدا دوتیا	۳-۳۷ ۵۹-۵	دھنشٹا	۳۲ ۳۲	سوبھاگ	۲۴ ۱	کمبھ	۳ ۲۸			۳۳ ۴۸	۵ ۱۴	۶ ۴۶	[illegible] سنگھ میں ۱۳-۱۰ [illegible] [illegible] ۲۰-۳ [illegible]
بدھوار	۵	۱۶	۱۳	۲	۲۲	تیج	۵۳ ۳۶	شت بھکھا	۴۶ ۵۰	شوبھن	۱۴ ۴۸			۲۶ ۵۱	۵۳ ۳۶	۳۳ ۴۴	۵ ۱۵	۶ ۴۵	
ویروار	۶	۱۷	۱۴	۳	۲۳	چوتھ	۳۸ ۵۴	پوربا بھادر	۳۶ ۳۳	اتیگنڈ	۱۰ ۳	مین	۱۲ ۲۵			۳۳ ۴۰	۵ ۱۶	۶ ۴۴	گنیش چوتھ
شکروار	۷	۱۸	۱۵	۴	۲۴	پنچمی	۴۳ ۲۸	اترا بھادر	۲۲ ۳۰	سکرما دھرت	۳۴-۳ ۴-۵۸					۳۳ ۳۶	۵ ۱۷	۶ ۴۳	
سنیچروار	۸	۱۹	۱۶	۵	۲۵	چھٹ	۳۶ ۵۳	ریوتی	۳۰ ۳۶	شول	۲۸ ۲۱	میکھ	۲۰ ۳۶	۳۶ ۵۳		۳۳ ۳۲	۵ ۱۷	۶ ۴۳	پنچک ختم ۲-۲-۳ چندن چھٹ
اتوار	۹	۲۰	۱۷	۶	۲۶	سپتمی	۳۰ ۳۴	اشونی	۱۳ ۱۱	گنڈ	۳۱ ۴۵				۳ ۴۳	۳۳ ۲۸	۵ ۱۸	۶ ۴۲	سیتلا آٹھیں جنم اشٹمی برت
سوموار	۱۰	۲۱	۱۸	۷	۲۷	اشٹمی	۲۳ ۲۱	بھرنی	۱۲ ۱۷	بردھ	۳۳ ۲۰	برکھ	۲۵ ۳۸			۳۳ ۲۳	۵ ۱۹	۶ ۴۱	بدھ غروب پچھم ۱۱-۳۷ جنم [illegible]
منگلوار	۱۱	۲۲	۱۹	۸	۲۸	نومی	۱۹	کرتکا	۶ ۲۳	دھرو	۲۷ ۱۵			۳۷ ۳۲		۳۳ ۲۰	۵ ۲۰	۶ ۴۰	گوگا نومی
بدھوار	۱۲	۲۳	۲۰	۹	۲۹	دسمی	۱۴ ۳	روہنی	۳ ۱۳	بیاگھات	۱۹ ۳۹	متھن	۳۶ ۳		۱۴ ۴	۳۳ ۱۶	۵ ۲۱	۶ ۳۹	
ویروار	۱۳	۲۴	۲۱	۱۰	۳۰	ایکادشی	۹ ۵۵	مرگشرا آردرا	۵۹-۳۲ ۱۴-۵۹	ہرکھن	۱۴ ۴۵					۳۳ ۱۲	۵ ۲۲	۶ ۳۸	اجا ایکادشی
شکروار	۱۴	۲۵	۲۲	۱۱	۳۱	دوادشی	۶ ۳۵	پنرپس	۵۵ ۵۲	بجر	۸ ۳۸	کرک	۴۴ ۰			۳۳ ۸	۵ ۲۲	۶ ۳۸	گؤ وتسا دوادشی
سنیچروار	۱۵	۲۶	۲۳	۱۲	۳۲	تیرودشی	۳ ۲۶	پکھ	۵۹ ۳۲	سدھی	۴ ۱۸			۴ ۲۴	۳۳ ۵۶	۳۳ ۴	۵ ۲۳	۶ ۳۷	برہسپت مارگی ۳۰-۱۳
اتوار	۱۶	۲۷	۲۴	۱۳	[illegible]	چودس	۳ ۲۵	آشلیکھا	۲۰ ۰۰	ویتی پات وریان	۱۳-۱ [illegible]					۳۳ ۰۰	۵ ۲۳	۶ ۳۷	سورج سنگھ میں ۲۵-۴۱
سوموار	۱۷	۲۸	۲۵	۱۴	۲	اماوس	۳ ۳۳	آشلیکھا	۱ ۴۳	پرگھ	۵۶ ۲۸	سنگھ	۱ ۳۲			۳۲ ۵۶	۵ ۲۵	۶ ۳۵	سوماوتی کشا گرہنی اماوس
منگلوار	۱۸	۲۹	۲۶	۱۵	۳	پرتپدا	۵ ۳۱	مگھا	۳ ۴۷	شو	۵۶ ۵۶					۳۲ ۵۲	۵ ۲۵	۶ ۳۵	چاند نظر آئیگا۔
بدھوار	۱۹	[illegible]	۲۷	۱۶	۴	دوج	۸ ۱۰	پوربا پھاگن	۴۰	سدھ	۵۴ ۲۳	کنیا	۲۳ ۰			۳۲ ۴۸	۵ ۲۶	۶ ۳۴	
ویروار	۲۰	۲	۲۸	۱۷	۵	تیج	۱۱ ۵۷	اترا پھاگن	۱۳ ۳۲	سادھ	۵۷ ۲۳			۴۴ ۱۰		۳۲ ۴۴	۵ ۲۷	۶ ۳۳	ہرتالکا تیج [illegible] چوتھ
شکروار	۲۱	۳	۲۹	۱۸	۶	چوتھ	۱۶ ۲۶	ہست	۲۰ ۳۵	شبھ	۵۶ ۵۳	تلا	۵۳ ۴۷		۱۶ ۲۴	۳۲ ۴۰	۵ ۲۸	۶ ۳۲	بدھ کنیا میں ۷۵-۲۷ پر آیا
سنیچروار	۲۲	۴	۳۰	۱۹	۷	پنچمی	۳۱ ۳۰	چترا	۲۲ ۵۶	شکل	۶۰ ۰۰					۳۲ ۳۴	۵ ۲۹	۶ ۳۱	رشی پنچمی
اتوار	۲۳	۵	۳۱	۲۰	۸	چھٹ	۳۲ ۳۷	سواتی	۳۳ ۳۷	شکل	۰۰ ۲۸					۳۲ ۳۲	۵ ۲۹	۶ ۳۱	
سوموار	۲۴	۶	[illegible]	۲۱	۹	سپتمی	۳۱ ۲۳	بساکھا	۳۹ ۳۴	برہم	۱ ۳۸	برچھک	۴۳ ۹	۳۰ ۲۳		۳۲ ۲۸	۵ ۳۰	۶ ۳۰	[illegible] قمر در عقرب ۲-۳۳
منگلوار	۲۵	۷	۲	۲۲	۱۰	اشٹمی	۳۵ ۱۳	انورادھا	۴۳ ۵۱	اندر	۲ ۲				۳ ۱۹	۳۲ ۲۴	۵ ۳۱	۶ ۲۹	رادھا اشٹمی
بدھوار	۲۶	۸	۳	۲۳	۱۱	نومی	۳۶ ۵۶	جیشٹا	۳۸ ۵۹	بیدھرت	۲ ۵۲	دھن	۳۸ ۵۹			۳۲ ۲۰	۵ ۳۲	۶ ۲۸	
ویروار	۲۷	۹	۴	۲۴	۱۲	دسمی	۳۹ ۳	مول	۴۲ ۳	بشکنبھ	۲ ۹					۳۲ ۱۶	۵ ۳۳	۶ ۲۷	
شکروار	۲۸	۱۰	۵	۲۵	۱۳	ایکادشی	۴۰ ۱	پوربا کھاڈ	۵۳ ۳۴	پریت آیوشمان	۲۹-۰۰ ۲۹-۵۹			۹ ۵۳	۳۰ ۱	۳۲ ۱۲	۵ ۳۳	۶ ۲۷	پدماں ایکادشی
سنیچروار	۲۹	۱۱	۶	۲۶	۱۴	دوادشی	۳۹ ۵	اترا کھاڈ	۵۴ ۵۷	سوبھاگ	۵۳	مکر	۹ ۱۸			۳۲ ۸	۵ ۳۴	۶ ۲۶	شکر کنیا میں ۳۹-۱۹ پر آیا
اتوار	۳۰	۱۲	۷	۲۷	۱۵	تیرودشی	۳۶ ۳۵	سرون	۵۳ ۳۵	شوبھن	۴۹ ۳۰					۳۲ ۴	۵ ۳۵	۶ ۲۵	
سوموار	۳۱	۱۳	۸	۲۸	۱۶	چتردشی	۳۳ ۲۸	دھنشٹا	۵۱ ۱	اتیگنڈ	۴۱ ۳	کمبھ	۲۲ ۴۷	۳۳ ۲۸	۰	۳۱ ۵۹	۵ ۳۶	۶ ۲۴	پنچک شروع ۲۳-۳۳ اننت چتردشی برت

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۲ و ۳ اگست کو بارش ہوئی۔ تو ساونی کا فصل اچھا ہوگا۔ اگر ۴۔ اگست کو بارش ہوئی تو ماہ پوہ میں غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۱۵۔ اگست کو بادل ہوئے۔ تو نرخ غلہ گراں ہو جاوے۔ اگر ۱۶۔ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو لوگوں میں بیماری سے دہشت پھیل جاوے۔ اگر ۱۸۔ اگست کو بارش ہوگئی تو گھی۔ تیل گراں ہو جاوے۔ اگر ۲۰۔ اگست کو بادل ہوئے۔ تو اناج کا نرخ جلد گراں ہو جاوے۔ اگر ۲۲۔ اگست کو مطلع صاف رہا۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے۔ اگر ۲۴۔ اگست کو مطلع صاف رہا تو قحط سالی کی علامت جانتا۔ اگر ۲۶۔ اگست کو بارش ہوگئی۔ تو غلہ جلد گراں ہو جاویگا۔ اگر ۲۸ اگست کو بارش ہوئی۔ تو غلہ ارزاں ہوگا۔

وقت تحویل سیارگان برج و نچھتر

اگست ۱۹۳۶	
۱	
۲	سورج اشلیکھا کے (۱) ۹-۱۰
۳	بدھ گھا کے (۱) ۳۲-۱۸
۴	بدھ گھا کے (۵) ۲۸-۵۵ شکر گھا کے (۱) ۳۱-۳۱
۵	سورج اشلیکھا کے (۲) ۵۸-۴۸
۶	[illegible]
۷	
۸	بدھ گھا کے (۳) ۷-۱۶
۹	[illegible]
۱۰	منگل پکھ کے (۲) ۳۵-۸
۱۱	[illegible]
۱۲	سورج اشلیکھا کے (۴) ۵۸-۲۵
۱۳	
۱۴	بدھ پوربا پھالگنی کے (۳) ۵۶-۳۰
۱۵	[illegible]
۱۶	سورج گھا کے (۱) ۲۵-۴۱
۱۷	بدھ پوربا پھالگنی کے (۴) ۳-۲۳
۱۸	[illegible]
۱۹	سورج گھا کے (۲) ۵۴-۱۰
۲۰	منگل پکھ کے (۳) ۳۲-۳۸
۲۱	[illegible]
۲۲	
۲۳	[illegible]
۲۴	شکر پوربا پھالگنی کے (۳) ۱۱-۵۹
۲۵	[illegible]
۲۶	[illegible]
۲۷	
۲۸	بدھ ہست کے (۱) ۴۷-۵۱
۲۹	[illegible]
۳۰	[illegible]
۳۱	[illegible]



تقویم سیارگان

[illegible]



پرکال - ۹ گھڑی ۱۴ پل دن چڑھے کے بعد شروع ہو

پیشنگوئی بابت ماہ بھادوں

ابتدائے ۱۷ اگست لغایت ۱۵ ستمبر

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار اشلیکھا نچھتر میں پرویش کریگی۔ چونکہ ۱۵ مہورتی ہے اور پانچویں نچھتر میں آئی ہے۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور ماہ سابقہ گراں ہی رہیگا۔ غلہ خورد موٹھ۔ ماش۔ موٹھ۔ جوار باجرہ۔ مکی کا نرخ قدرے ارزاں ہو جائیگا۔ دودھ۔ دہی کا نرخ کچھ ارزاں گھی گراں رہیگا۔ گوڑ۔ شکر۔ شہد۔ کھانڈ۔ چاول۔ نمک کا نرخ گراں۔ سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ پیتل وغیرہ کا نرخ بھی بدستور ماہ سابقہ تیزی پر ہوگا۔ سرخ رنگ کی تمام اشیاء کپڑہ سرخ۔ لاکھ۔ مجیٹھ۔ چندن۔ لال مرچ مسور وغیرہ گراں بکیں گے۔ تل۔ تیل۔ السی۔ سرسوں۔ توریہ۔ تارامیرا۔ اور ارنڈی وغیرہ کا نرخ کچھ تیز ہوگا۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ پھوٹ ریشمی و سوتی کپڑا اور چوپائے جانور گراں رہیں گے۔ عطاروں اور پنساریوں کا سامال ہینگ۔ ہلدی۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ بھوسہ۔ تونڑی تمباکو۔ پھل۔ پھول۔ گراں ہونگے۔

موسم صحت کے لئے یہ ماہ بھی اچھا نہیں۔ خونی امراض کا زور ہے۔ چوپائے جانوروں میں روگ کی بڑھتی۔ لوگوں کو فکر و تشویش۔ وبائی امراض سے لوگ تنگ ہونگے۔

کرۂ فلک

بدھ و شکر کا ملاپ ہوگا۔ اور چندرماں اپنی چھتر پر ہے۔ اس ماہ بادل بہت آئینگے۔ اور بارش بھی بعض بعض جگہ خوب ہوگی۔ ۱۶-۱۷-۱۹-۲۰ اگست کو آسمان ابر آلود۔ بارش۔ ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ اگست کو آسمان پر بادل چھائے رہیں اور بعض بعض جگہ بارش بھی ہو۔ ۳۰-۳۱ اگست کو آسمان ابر آلود ہوا سرد چلے۔ ستمبر ۳-۵ و ۶ ستمبر کو ہوا سرد۔ بادل خفیف بارش اور ۹-۱۰-۱۳-۱۵ ستمبر کو بادل ابر آلود

۱۵ اگست

[illegible]

روز	ستمبر ۱۹۳۶ عیسوی	[illegible] ۱۳۵۵ ہجری	[illegible]	[illegible]	[illegible]	تتھ	گھڑی پل	نچھتر	گھڑی پل	یوگ	گھڑی پل	چندرما راس	گھڑی پل	بھدرا ابتدا گھڑی پل	بھدرا انتہا گھڑی پل	دن مان گھڑی پل	طلوع آفتاب	غروب آفتاب	جدول [illegible]	کیفیت تہوار و طلوع و غروب سیارگان
منگلوار	۱	۱۴	۹	۲۹	۱۷	پورنماشی	۲۹ ۳۲	شتبھکھا	۳۹ ۱۸	سوکرما	۳۷ ۵۴				۱ ۳۰	۳۱ ۵۴	۵ ۳۵	۶ ۲۳	○	پورنماشی ۔ برت چترمکش
بدھوار	۲	۱۵	۱۰	[illegible]	۱۸	پڑوا	۲۳ ۳۸	پوربابھادرپد	۴۲ ۳	دھرت	۳۱ ۷	مین	۳۱ ۵۴			۳۱ ۴۹	۵ ۳۸	۶ ۲۲		
ویروار	۳	۱۶	۱۱	۲	۱۹	دوج	۱۹ ۱۳	اترابھادرپد	۱۴ ۱۲	شول	۳۳ ۵۱			۳۶ ۳۱		۳۱ ۴۳	۵ ۳۹	۶ ۲۱		
شکروار	۴	۱۷	۱۲	۳	۲۰	تیج	۱۴ ۸	ریوتی	۳۸ ۱۰	گنڈ	۱۶ ۱۶	میکھ	۳۸ ۱۰		۱۴ ۸	۳۱ ۳۹	۵ ۴۰	۶ ۲۰		پنچک ختم ۳۸ — ۱۰ گنیش چوتھ
سنیچروار	۵	۱۸	۱۳	۴	۲۱	چوتھ	۷ ۸	اشونی	۳۳ ۵۴	بردھ	۹ ۳۴					۳۱ ۳۵	۵ ۴۱	۶ ۱۹		
اتوار	۶	۱۹	۱۴	۵	۲۲	پنچمی چھٹ	۴۹ -- ۵۸ - ۵۰	بھرنی	۲۹ ۳۴	دھرو ویاگھات	۱۴ -- ۵۲ - ۵۷	برکھ	۴۳ ۵۰	۵۳ ۵۷		۳۱ ۳۰	۵ ۴۲	۶ ۱۸		کپلا چھٹ
سوموار	۷	۲۰	۱۵	۶	۲۳	ستمی	۲۹ ۳۱	کرتکا	۲۵ ۵۹	ہرکھن	۴۶ ۵				۲۲ ۱۴	۳۱ ۲۵	۵ ۴۳	۶ ۱۷		
منگلوار	۸	۲۱	۱۶	۷	۲۴	اشٹمی	۴۳ ۲۵	روہنی	۲۳ ۴۱	بجر	۳۹ ۲۱	متھن	۵۰ ۲۲			۳۱ ۲۰	۵ ۴۴	۶ ۱۶	◒	مہالکشمی اشٹمی برت
بدھوار	۹	۲۲	۱۷	۸	۲۵	نومی	۳۰ ۱۹	مرگشر	۲۰ ۳	سدھی	۳۳ ۱۵					۳۱ ۱۵	۵ ۴۵	۶ ۱۵		
ویروار	۱۰	۲۳	۱۸	۹	۲۶	دسمی	۳۷ ۱	اردرا	۱۸ ۱۷	بیتی پات	۲۷ ۵۱			۸ ۴۰	۳۷ ۱	۳۱ ۱۰	۵ ۴۶	۶ ۱۳		
شکروار	۱۱	۲۴	۱۹	۱۰	۲۷	ایکادشی	۳۴ ۵۰	پنربس	۱۶ ۳۲	وریان	۲۳ ۱۸	کرک	۳۰ ۱۴			۳۱ ۵	۵ ۴۷	۶ ۱۳		بدھ مارگی ۵ — ۱۴ [illegible] ایکادشی
سنیچروار	۱۲	۲۵	۲۰	۱۱	۲۸	دوادشی	۳۳ ۵۱	پکھ	۱۴ ۵۴	پریگھ	۲۰ ۳۰					۳۱ ۰	۵ ۴۸	۶ ۱۲		
اتوار	۱۳	۲۶	۲۱	۱۲	۲۹	تردوشی	۳۴ ۱۱	اشلیکھا	۱۹ ۳۷	شیو	۱۸ ۴۰	سنگھ	۱۹ ۳۷	۳۴ ۱۱		۳۰ ۵۵	۵ ۴۹	۶ ۱۱		بدھ مغرب میں غروب ۱۹ — ۴۹
سوموار	۱۴	۲۷	۲۲	۱۳	۳۰	چودس	۳۵ ۵۶	مگھا	۲۲ ۳۲	سدھ	۱۶ ۲۱				۴ ۵۹	۳۰ ۵۰	۵ ۵۰	۶ ۱۰		
منگلوار	۱۵	۲۸	۲۳	۱۴	۳۱	اماوس	۳۸ ۳۸	پوربا پھاگن	۲۶ ۳۰	سادھ	۱۵ ۳۴	کنیا	۴۲ ۲۸			۳۰ ۴۵	۵ ۵۱	۶ ۹	●	منگل سنگھ میں ۵۹ — ۲۷ پر آیا [illegible] شرادھ ختم
بدھوار	۱۶	۲۹	۲۴	۱۵	[illegible]	پڑوا	۴۲ ۲۵	اترا پھاگن	۳۱ ۳۵	شبھ	۱۵ ۴۷					۳۰ ۴۰	۵ ۵۳	۶ ۸		سورج کنیا میں ۳۵ — ۱۲ پر آیا
ویروار	۱۷	۳۰	۲۵	۱۶	۲	دوج	۴۷ ۲۳	ہست	۳۷ ۳۳	شکل	۱۶ ۳۶					۳۰ ۳۵	۵ ۵۳	۶ ۷	☾	چاند نظر آئیگا ۔
شکروار	۱۸	[illegible]	۲۶	۱۷	۳	تیج	۵۲ ۱۳	چترا	۴۳ ۹	برہم	۱۷ ۵۹	تلا	۱۰ ۵۶			۳۰ ۳۰	۵ ۵۴	۶ ۶		
سنیچروار	۱۹	۲	۲۷	۱۸	۴	چوتھ	۵۷ ۱۴	سواتی	۵۰ ۳۸	ایندر	۱۹ ۲۶			۲۴ ۴۴	۵۷ ۱۴	۳۰ ۲۵	۵ ۵۵	۶ ۵		
اتوار	۲۰	۳	۲۸	۱۹	۵	پنچمی	۶۰ ۰	وشاکھا	۵۶ ۲۵	بیدھرت	۳۰ ۴۸	برچھک	۳۰ ۱۴			۳۰ ۲۰	۵ ۵۶	۶ ۴		قمر در عقرب ۳۰ — ۱۴
سوموار	۲۱	۴	۲۹	۲۰	۶	پنچمی	۳ ۱۴	انرادھا	۶۰ ۰	بشکنبھ	۳۲ ۴۷					۳۰ ۱۵	۵ ۵۷	۶ ۳		
منگلوار	۲۲	۵	۳۰	۲۱	۷	چھٹ	۶ ۱	انرادھا	۲ ۱۱	پریت	۳۳ ۳					۳۰ ۱۰	۵ ۵۸	۶ ۲		شکر تلا میں ۳۶ — ۳۵ پر آیا
بدھوار	۲۳	۶	۳۱	۲۲	۸	ستمی	۹ ۷	جیشٹھا	۶ ۳۷	آیوشمان	۳۲ ۲۷	دھن	۶ ۳۷	۹ ۲	۳۹ ۵۵	۳۰ ۵	۵ ۵۹	۶ ۱	◓	
ویروار	۲۴	۷	[illegible]	۲۳	۹	اشٹمی	۱۰ ۳۸	مولا	۵ ۵۶	سوبھاگ	۲۱ ۳۰					۳۰ ۰	۶ ۰	۶ ۰		
شکروار	۲۵	۸	۲	۲۴	۱۰	نومی	۱۱ ۱۵	پورباکھاڑ	۱۱ ۵۸	شوبھن	۱۸ ۴۳	مکر	۲۴ ۱۰			۲۹ ۵۵	۶ ۰	۵ ۵۹		
سنیچروار	۲۶	۹	۳	۲۵	۱۱	دسمی	۱۰ ۴۲	اتراکھاڑ	۱۲ ۲۵	اتیگنڈ	۱۵ ۵				۳۹ ۲۵	۲۹ ۵۰	۶ ۲	۵ ۵۸		
اتوار	۲۷	۱۰	۴	۲۶	۱۲	ایکادشی	۸ ۳۳	شرون	۱۲ ۲۱	سوکرما	۱۰ ۳۵	کنبھ	۴۱ ۳۶		۸ ۳۲	۲۹ ۴۵	۶ ۳	۵ ۵۷		پنچک شروع ۴۱ — ۳۶
سوموار	۲۸	۱۱	۵	۲۷	۱۳	دوادشی	۵ ۱۷	دھنشٹھا	۱۰ ۵	دھرت شول	۱۴ -- ۵ ۱۳ - ۵۹					۲۹ ۴۰	۶ ۴	۵ ۵۶		
منگلوار	۲۹	۱۲	۶	۲۸	۱۴	تردوشی چودس	۱ -- ۱۴ [illegible]	شتبھکھا	۸ ۳۴	گنڈ	۵۲ ۳۳	مین	۵۱ ۱۳	۵۶ ۳۲		۲۹ ۳۵	۶ ۵	۵ ۵۵		بدھ مشرق میں طلوع ۵۲ — ۴۹
بدھوار	۳۰	۱۳	۷	۲۹	۱۵	پورنماشی	۵ ۲۰	پوربابھادرپد	۵ ۳۴	وردھ	۳۰ ۱۵				۲۳ ۲۳	۲۹ ۳۰	۶ ۶	۵ ۵۴	○	پورنماشی برت

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم ستمبر کو آسمان پر گھنگور گھٹا دکھائی دیوے ۔ تو غلہ بہت جلد گراں ہو جاوے گا ۔ اگر ۲ ستمبر کو بادل ہوئے تو بارش جلد آنے والی جاننا ۔ اگر ۸ ستمبر کو بارش ہوئی تو غلہ ارزاں رہے ۔ اگر ۱۰ ستمبر کو بادل ہوئے ۔ تو بارش جلد آوے ۔ اگر ۱۹ ستمبر کو بوقت طلوع آفتاب بادل ہوں ۔ تو بارش جلد آنے کی علامت ہے اگر ۲۳ ستمبر کو بارش ہوئی ۔ تو ارزانی غلہ کی علامت ہوگی ۔ اگر ۲۴ ستمبر کو رعد و برق کی مہیب آواز سنائی دی ۔ تو آئندہ غلہ گراں ہو جاوے گا ۔ اگر ۳۰ ستمبر کو مطلع صاف رہا ۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہو ۔ اگر بادل ہوئے تو جلد نرخ غلہ گراں ہو جاوے ۔

دھرم جنتری جگولان جنتری [illegible]



پرش کال ۲۵-۳۶ سے ۴۱-۳۲ تک

پیشگوئی بابت ماہ اسوج

ابتدا سے ۱۶ ستمبر لغایت ۱۵ اکتوبر



کرۂ ارض



اس ماہ کی شنکرانت [illegible] ہوگی جو کہ ۲۵ مہورتی سے [illegible] میں پرویش ہوگی [illegible] اس سے غلہ گندم و نخود کا نرخ اوسطاً ماہ گزشتہ کی طرح ہی رہیگا ۔ غلہ خورد [illegible] موٹھ ۔ ماش ۔ جوار ۔ باجرہ مکی کا نرخ کچھ [illegible] اشیاء رہیگا ۔ روئی ۔ کپاس [illegible] کچھ گراں سوتی کپڑا کا نرخ [illegible] ۔ دودھ ۔ [illegible] کا نرخ تیزی پر ہوگا ۔ گھی کا بھاؤ [illegible] اشیاء سرخ رنگ ۔ لاکھ [illegible] چندن [illegible] ۔ تیل ۔ السی ۔ سرسوں ۔ [illegible] سیاہ رنگ کا بھاؤ [illegible] اور [illegible] سے تیز بھاؤ میں [illegible] بھاؤ گراں ۔ چاندی ۔ قلعی ۔ کانسی کا نرخ [illegible] ۔ لکڑی ۔ کوئلہ ۔ لوہا ۔ گھاس ۔ [illegible] کا نرخ گراں ہوگا ۔ [illegible] امراض پھوڑا ۔ پھنسی ۔ بخار ملیریا اور [illegible] زلزلہ و زکام سے لوگ تکلیف پاویں گے ۔ لوگوں کے دلوں میں [illegible] حسد کا مادہ [illegible] بڑھ جاوے [illegible] ہو ۔

کرۂ فلک

اس ماہ میں ہوا زیادہ چلیگی ۔ بارش کم ہوگی ۔ ۱۶ و ۱۷ ستمبر کو ہوا تیز ۔ آسمان پر بادل رہیں ۔ ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ ستمبر کو آسمان ابر آلود ۲۹ و ۳۰ ستمبر کو بادل اور بعض بعض جگہ بارش ہو ۔ ۳ اکتوبر کو بادل ہو اور خفیف بارش ۔ ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ اکتوبر کو آسمان پر بادل چکر لگاویں گے ۔ اور کچھ بوندا باندی ہوگی ۔

[illegible]



تقویم سیارگان

۱ [illegible] (۳) ۲۴-۵۵
۲ [illegible] (۲) ۴۴-۱۷ [illegible] (۲) ۲۵-۱۸
۳
۴
۵ [illegible] (۳) ۲۲-۹ [illegible] ۲۳
۶ [illegible] (۳) ۹-۳۰
۷ [illegible] (۳) ۹-۹ [illegible]
۸ [illegible] (۷) ۵۵-۳۲
۹ [illegible] (۳) ۳۳-۵۸
۱۰ [illegible] (۴) ۳۲-۵۵
۱۱ [illegible] (۳) ۳۹
۱۲
۱۳ [illegible] (۱) ۱۰-۴۰
۱۴ [illegible] (۴) ۱۱-۱۸
۱۵ [illegible] (۱) ۵۹-۲۶
۱۶ [illegible] (۲) ۷۸-۳۷ [illegible] (۱) ۵۳
۱۷
۱۸
۱۹ [illegible] (۲) ۵۰-۵۵ [illegible]
۲۰ [illegible] (۲) ۵۹-۳۴ [illegible]
۲۱ [illegible] (۲) ۵-۱۸
۲۲ [illegible] (۳) ۳۶-۱۵
۲۳
۲۴ [illegible] (۴) ۱۳-۲۴
۲۵ [illegible] [illegible]
۲۶
۲۷ [illegible] [illegible]
۲۸
۲۹ [illegible] (۴) [illegible]
۳۰ [illegible] (۵) ۱-۱۸ [illegible]

[illegible]

ویروار	۱	۱۴	۸	[illegible]	۱۶	پنچک ختم ۵۷ - ۴۵
شکروار	۲	۱۵	۹	۲	۱۷	
سنیچروار	۳	۱۶	۱۰	۳	۱۸	پنچک ۲۳-۲۰ ۸ بجہ دن [illegible]
اتوار	۴	۱۷	۱۱	۴	۱۹	
سوموار	۵	۱۸	۱۲	۵	۲۰	
منگلوار	۶	۱۹	۱۳	۶	۲۱	
بدھوار	۷	۲۰	۱۴	۷	۲۲	
ویروار	۸	۲۱	۱۵	۸	۲۳	
شکروار	۹	۲۲	۱۶	۹	۲۴	
سنیچروار	۱۰	۲۳	۱۷	۱۰	۲۵	
اتوار	۱۱	۲۴	۱۸	۱۱	۲۶	
سوموار	۱۲	۲۵	۱۹	۱۲	۲۷	
منگلوار	۱۳	۲۶	۲۰	۱۳	۲۸	شنیچر [illegible]
بدھوار	۱۴	۲۷	۲۱	۱۴	۲۹	
ویروار	۱۵	۲۸	۲۲	۱۵	۳۰	
شکروار	۱۶	۲۹	۲۳	۱۶	[illegible]	سورج تلا میں ۵۰-۵ [illegible]
سنیچروار	۱۷	۳۰	۲۴	۱۷	۲	
اتوار	۱۸	[illegible]	۲۵	۱۸	۳	
سوموار	۱۹	۲	۲۶	۱۹	۴	
منگلوار	۲۰	۳	۲۷	۲۰	۵	
بدھوار	۲۱	۴	۲۸	۲۱	۶	
ویروار	۲۲	۵	۲۹	۲۲	۷	[illegible]
شکروار	۲۳	۶	۳۰	۲۳	۸	درگا اشٹمی [illegible]
سنیچروار	۲۴	۷	[illegible]	۲۴	۹	برہسپت [illegible] میں ۲۸-۳۰ پر آیا
اتوار	۲۵	۸	۲	۲۵	۱۰	[illegible] ۱-۹ [illegible] دسہرہ
سوموار	۲۶	۹	۳	۲۶	۱۱	پاپانکشی ایکادشی
منگلوار	۲۷	۱۰	۴	۲۷	۱۲	
بدھوار	۲۸	۱۱	۵	۲۸	۱۳	بدھ تلا میں ۲۸-۵ پر آیا
ویروار	۲۹	۱۲	۶	۲۹	۱۴	پنچک ختم ۱۷-۴۳ پورنماشی برت
شکروار	۳۰	۱۳	۷	۳۰	۱۵	سرد پورنماشی آکاش دیپا
سنیچروار	۳۱	۱۴	۸	[illegible]	۱۶	شب برات کاتکی اشنان شروع

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم اکتوبر کو بادل ہوں۔ تو بارش جلد آنے والی جاننا۔ اگر ۸ اکتوبر کو بارش ہوگی۔ تو غلہ ارزاں۔ اور بادل ہوں تو بارش جلد آنے کی علامت ہے۔ اگر ۱۰ اکتوبر کو آسمان ابر محیط رہا۔ تو بارش خوب ہونے کی علامت ہے۔ اگر ۱۵ اکتوبر کو صبح کے وقت بادل ہوں۔ تو بارش جلد آوے۔ اگر ۲۰ اکتوبر کو بارش ہوئی۔ تو [illegible] غلہ کی تبدیلی ہے۔ اگر ۲۷ اکتوبر کو بادل کی گرج ہوئی۔ تو غلہ گراں ہو جاوے گا۔ اگر ۳۰ اکتوبر کو مطلع صاف رہا۔ تو غلہ ارزاں ہو جاوے گا۔

ورود سیارگان برج عقرب

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت [illegible]

پنچک کال ۲ سے لگے روز صبح سے دوپہر تک

پیشینگوئی بابت ماہ کاتک

ابتدائے ۱۶ اکتوبر لغایت ۱۴ نومبر

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز شکروار سواتی نچھتر میں پردیش کریگی جو کہ ۱۵ مہورتی ہے۔ اس لئے غلہ گندم ۔ نخود کا بھاؤ تیزی پر رہیگا۔ اناج خورد کی ۔ موٹھ ۔ مونگ ۔ ماش ۔ جوار ۔ باجرہ وغیرہ کا نرخ کچھ ارزاں ہوگا۔ اڑد ۔ رائی کا نرخ مندہ ۔ گڑ ۔ شکر ۔ شہد ۔ لال مرچ ۔ لاکھ ۔ کیسر ۔ چندن ۔ وغیرہ کا نرخ گراں رہیگا ۔ گھی کا بھاؤ تیز ۔ تل ۔ تیل ۔ السی ۔ سرسوں ۔ توریہ ۔ تارا میرا ۔ ناریل کا نرخ ارزانی پر ہے ۔ سب طرح کی دھاتیں گراں ۔ چاندی ۔ تانبا ۔ کانسی ۔ چاول ۔ کھانڈ ۔ نمک کا نرخ ارزاں رہیگا ۔ سواری کے جانور گھوڑے ۔ اونٹ ۔ ہاتھی وغیرہ ارزاں بکینگے ۔ روئی ۔ کپاس ۔ سن ۔ سوت ۔ سوتی کپڑا کا بھاؤ ارزاں ۔ اونی ۔ ریشمی کپڑا کا بھاؤ گراں چلا جاویگا ۔ لکڑی ۔ کوئلہ ۔ چارہ ۔ بھوسہ ۔ تمباکو کا نرخ گراں اور پنساری کا سودا کا بھاؤ مدہم رہیگا ۔

موسم ۔ خسرہ ۔ چیچک ۔ موسمی بخار و نزلہ و زکام سے بہت لوگ بیمار رہینگے ۔ چھوٹے بچوں میں اموات زیادہ ہونگی ۔ بوڑھے لوگ بھی تکلیف پاوینگے ۔ لوگوں کی طبیعتیں منتشر رہینگی ۔

کرۂ فلک

ہوا اس ماہ میں بھی زیادہ چلیگی ۔ آسمان سے ستارے زیادہ ٹوٹیں گے ۔ دھوپ کی رنگت زردی مائل رہیگی ۔ ۱۶-۱۷ اکتوبر کو آسمان [illegible] ہوا تیز ۲۲-۲۳-۲۵-۲۸ اکتوبر کو بادل [illegible] ۲ و ۶ نومبر کو بادل ہوا سرد ۳ و ۱۳ نومبر کو [illegible] تک بارش اور ژالہ باری ۷-۹-۱۱-۱۲-۱۳ نومبر کو بادل ہوا تیز چلیگی ۔

تقویم سیارگان

تاریخ	ورود سیارگان
۱	منگل [illegible] کے (۳) ۵۵ - ۲۲
۲	
۳	سورج سواتی کے (۳) ۲ - ۲۰ شکر سواتی کے (۳) ۴۶ - ۱۳
۴	
۵	
۶	شکر سواتی کے (۳) ۲ - ۳
۷	سورج سواتی کے (۲) ۳۶ - ۳۸
۸	منگل [illegible] کے (۱) ۱۱ - ۳ شکر [illegible] کے (۱) ۳۳ - ۵۹
۹	
۱۰	سورج [illegible] کے (۲) ۱۰ - ۵۰ شکر [illegible] کے (۲) ۳۴ - ۱۰
۱۱	
۱۲	بدھ [illegible] کے (۱) ۵۲ - ۲۹ [illegible]
۱۳	سورج [illegible] کے (۳) ۲۹ - ۸ منگل [illegible]
۱۴	
۱۵	
۱۶	سورج [illegible] کے (۳) [illegible]
۱۷	
۱۸	منگل [illegible] کے (۳) ۳۴ - ۱۷
۱۹	بدھ [illegible] کے (۳) ۱۵ - ۳۸
۲۰	سورج [illegible] کے (۴) ۱۱ - ۲۵ شکر [illegible] کے (۱) ۲ - ۵۹
۲۱	
۲۲	بدھ [illegible] کے (۲) ۲۳ - ۱۳
۲۳	سورج سواتی کے (۱) [illegible]
۲۴	منگل [illegible]
۲۵	شکر [illegible] کے (۳) ۴۷ - ۱۰
۲۶	سورج سواتی کے (۳) ۵۲ - ۲۳ بدھ [illegible] کے (۲) ۹ - ۱
۲۷	شکر [illegible] کے (۳) ۳۷ - ۵۵
۲۸	بدھ [illegible] کے (۴) ۲۸ - ۵
۲۹	منگل [illegible] کے (۱) ۳۳ - ۲
۳۰	سورج سواتی کے (۳) ۱۱ - ۲۳ بدھ [illegible]
۳۱	

[illegible]



اتوار	۱	۱۵	۹	۲	۱۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۲۲	۶ ۳۸	۲۶ ۵۰	
سوموار	۲	۱۶	۱۰	۳	۱۸	چوتھ	[illegible]	[illegible]	۵ ۲۱	۶ ۳۹	۲۶ ۴۵	[illegible]
منگلوار	۳	۱۷	۱۱	۴	۱۹	پنچمی	آردرا	[illegible]	۵ ۲۰	۶ ۴۰	۲۶ ۴۰	
بدھوار	۴	۱۸	۱۲	۵	۲۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۹	۶ ۴۱	۲۶ ۳۵	
ویروار	۵	۱۹	۱۳	۶	۲۱	سپتمی	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۸	۶ ۴۲	۲۶ ۳۰	منگل کنیا میں ۱۴-۸-۳۳ پر آیا
شکروار	۶	۲۰	۱۴	۷	۲۲	اشٹمی	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۷	۶ ۴۳	۲۶ ۲۵	آہوئی اشٹمی
سنیچروار	۷	۲۱	۱۵	۸	۲۳	نومی	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۶	۶ ۴۴	۲۶ ۲۰	
اتوار	۸	۲۲	۱۶	۹	۲۴	دسمی	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۵	۶ ۴۵	۲۶ ۱۵	
سوموار	۹	۲۳	۱۷	۱۰	۲۵	ایکادشی	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۴	۶ ۴۶	۲۶ ۱۰	دہان ایکادشی
منگلوار	۱۰	۲۴	۱۸	۱۱	۲۶	دوادشی	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۳	۶ ۴۷	۲۶ ۵	
بدھوار	۱۱	۲۵	۱۹	۱۲	۲۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۲	۶ ۴۸	۲۶ ۰	شکر دھنو میں ۱۳-۰-۱۳ پر آیا [illegible]
ویروار	۱۲	۲۶	۲۰	۱۳	۲۸	چودش	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۱	۶ ۴۹	۲۵ ۵۵	نرک چودش
شکروار	۱۳	۲۷	۲۱	۱۴	۲۹	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۱۰	۶ ۵۰	۲۵ ۵۰	دیپ مالا
سنیچروار	۱۴	۲۸	۲۲	۱۵	۳۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۹	۶ ۵۱	۲۵ ۴۵	[illegible]
اتوار	۱۵	۲۹	۲۳	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۸	۶ ۵۲	۲۵ ۴۰	[illegible]
سوموار	۱۶	رمضان	۲۴	۱۷	۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۷	۶ ۵۳	۲۵ ۳۷	[illegible] روزہ شروع
منگلوار	۱۷	۲	۲۵	۱۸	۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۶	۶ ۵۴	۲۵ ۳۲	
بدھوار	۱۸	۳	۲۶	۱۹	۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۶	۶ ۵۴	۲۵ ۲۸	
ویروار	۱۹	۴	۲۷	۲۰	۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۵	۶ ۵۵	۲۵ ۲۴	[illegible]
شکروار	۲۰	۵	۲۸	۲۱	۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۴	۶ ۵۶	۲۵ ۲۰	[illegible] ۷-۳-۵۹
سنیچروار	۲۱	۶	۲۹	۲۲	۷	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۴	۶ ۵۶	۲۵ ۱۷	پنچک شروع ۱۵-۲۹
اتوار	۲۲	۷	۳۰	۲۳	۸	اشٹمی	[illegible]	[illegible]	۵ ۳	۶ ۵۷	۲۵ ۱۳	گوپال اشٹمی
سوموار	۲۳	۸	[illegible]	۲۴	۹	نومی	[illegible]	[illegible]	۵ ۳	۶ ۵۷	۲۵ ۱۲	[illegible] نومی
منگلوار	۲۴	۹	۲	۲۵	۱۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۲	۶ ۵۸	۲۵ ۱۰	
بدھوار	۲۵	۱۰	۳	۲۶	۱۱	ایکادشی	[illegible]	[illegible]	۵ ۲	۶ ۵۸	۲۵ ۹	پنچک ختم ۱۰-۳۷ [illegible]
ویروار	۲۶	۱۱	۴	۲۷	۱۲	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۲	۶ ۵۸	۲۵ ۸	
شکروار	۲۷	۱۲	۵	۲۸	۱۳	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۲	۶ ۵۸	۲۵ ۷	بیکنٹھ چتردشی
سنیچروار	۲۸	۱۳	۶	۲۹	۱۴	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۱	۶ ۵۹	۲۵ ۶	[illegible]
اتوار	۲۹	۱۴	۷	[illegible]	۱۵	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۱	۶ ۵۹	۲۵ ۵	[illegible]
سوموار	۳۰	۱۵	۸	۲	۱۶	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵ ۱	۶ ۵۹	۲۵ ۳	

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر یکم نومبر کو بارش ہوئی۔ تو آئندہ بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۸ نومبر کو بارش ہوئی۔ تو گھی کا نرخ گراں ہوگا۔ اگر ۹ نومبر کو بارش ہوگئی۔ تو آئندہ ہاڑ میں بارش خوب ہوگی۔ اگر ۱۰ نومبر رات کو بادل کی گرج و بارش ہوگئی تو ماہ ساون میں لوگ بارش کو ترسیں گے۔ اگر ۱۴ نومبر کو انکاپات ہوا تو لوگوں کو سخت تکالیف کا سامنا ہوگا۔ اگر ۱۵ نومبر کو سورج کے گرد ہالہ پڑا۔ تو تل و تیل گراں ہونگے۔ اگر ۱۷ نومبر کو بارش ہوگئی۔ تو فصل کے لئے مفید ہوگی۔ اگر ۲۰ نومبر کو بارش ہوئی۔ تو آئندہ بارش اچھی ہوگی۔ اگر ۲۵ نومبر کو مطلع صاف رہا۔ تو فصل کے لئے ناقص علامت ہے۔ اگر ۲۶ نومبر کو مطلع صاف رہا۔ تو آئندہ بارش کی قلت ہوگی۔ اگر ۲۹ نومبر کو گرج و چمک ہوئی۔ تو نرخ غلہ ارزاں ہوگا۔

زائچہ تحویل آفتاب یعنی سنکرانت برچھک ۱۵ بوقت ۲۳



پن کال۔ اگلے روز ۶ بجے سے دوپہر تک

پیشینگوئی بابت ماہ مگھر

ابتداء ۱۵ نومبر لغایت ۱۴ دسمبر

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز اتوار جیشٹا نچھتر میں پرویش کرے گی۔ چونکہ ۵ اشوتی ہے۔ ۱۱ دش اور ششی بھی دونوں سنیچروار کو ہیں۔ اس لئے غلہ گندم و نخود کا نرخ بدستور گراں پڑا رہیگا۔ انکے خرید کا بھاؤ گرا ہے ارزاں اور گلاب سے گراں ہوتا ہے۔ روئی۔ کپاس۔ سن۔ سوت کا نرخ کچھ گراں۔ سوتی کپڑا ارزاں گرم کپڑا گراں ہوگا۔ چاول۔ نمک۔ کافور۔ دودھ۔ دہی۔ گھی کا نرخ تیزی پر چلا جاوے گا۔ تل۔ تیل۔ السی سرسوں۔ توریہ۔ تارامیرا کا نرخ کم و بیش ہوتا رہے گا۔ گڑ۔ شکر۔ شہد۔ لال مرچ۔ لال کپڑا۔ لاکھ۔ مجیٹھ۔ چندن۔ سونا اور سرخ رنگ کے چوپائے گراں رہیں گے۔ مکینوں اور پنساریوں کا کام خوب چلیگا۔ ہر قسم کی دھاتیں نرم بھاؤ رہیگی۔ لکڑی۔ کوئلہ۔ چارہ۔ بھوسہ گراں رہیگا۔ موسم سرما [illegible] ہوگا [illegible] ہے جو کہ لوگوں کی صحت پر برا اثر ڈالیں گے مغربی علاقہ میں کچھ بے چینی رہیگی۔ لوگوں میں باہمی تنازعات ترقی کریں گے۔

کرۂ فلک

حشرات الارض کی پیدائش زیادہ رہے گی فصل کو نقصان پہنچے۔ بارش کم ہوگی۔ ۱۵ و ۱۶ نومبر کو ہوا سرد بادل۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱ نومبر کو گرج چمک بارش و ژالہ باری ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰ نومبر کو بادل ہوا سرد اور خفیف بارش یکم۔ ۳۔ ۵۔ ۶ دسمبر کو ہوا سرد خفیف بارش۔ ۹ و ۱۰ دسمبر کو آسمان ابر محیط ۱۳ و ۱۴ دسمبر کو بادل و بارش ہوگی۔



تقویم سیارگان

۱	بدھ سواتی کے (۱) ۳۶-۵۰
۲	سورج سواتی کے (۳) ۳۰-۵۱ شکر جیشٹا کے (۲) ۲-۳۵
۳	بدھ سواتی کے (۳) ۲۱-۱۳
۴	
۵	سورج بشاکھا کے (۱) [illegible] منگل [illegible]
۶	[illegible]
۷	بدھ سواتی کے (۴) ۵۳-۱۱
۸	شکر جیشٹا کے (۳) ۳۰-۱۹
۹	سورج بشاکھا کے (۲) ۴-۵۰
۱۰	[illegible]
۱۱	بدھ بشاکھا کے (۱) [illegible] شکر [illegible]
۱۲	سورج بشاکھا کے (۳) ۲۴-۵۵
۱۳	بدھ بشاکھا کے (۲) ۲۴-۴۵ شکر مول کے (۲) ۲۵-۳۵
۱۴	
۱۵	سورج بشاکھا کے (۴) [illegible] منگل [illegible]
۱۶	شکر مول کے (۳) ۲۰-۱۳
۱۷	بدھ انرادھا کے (۱) ۱۲-۱۵
۱۸	شکر مول کے (۴) ۲۹-۴۱
۱۹	سورج انرادھا کے (۱) [illegible] ۵۷ بدھ انرادھا کے (۲) [illegible]
۲۰	منگل ہست کے (۱) ۴۷-۴۹
۲۱	بدھ انرادھا کے (۳) ۷-۳۲ شکر پورواکھاشاڑھ کے (۱) ۱۲-۱۳
۲۲	سورج انرادھا کے (۲) ۱۹-۲۸ [illegible] ۵۹
۲۳	
۲۴	بدھ جیشٹا کے (۱) ۵۷-۷ شکر پورواکھاشاڑھ کے (۲) ۳۶-۲۳
۲۵	سورج انرادھا کے (۳) ۳۳-۵۶ [illegible] ۱۸-۵۱
۲۶	[illegible]
۲۷	
۲۸	سورج انرادھا کے (۴) ۵-۳۳ بدھ جیشٹا کے (۳) ۱۶-۱۰
۲۹	شکر پورواکھاشاڑھ کے (۳) ۲۷-۵
۳۰	بدھ جیشٹا کے (۴) ۴۸-۲۹



ایام	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	[illegible]	گھڑی پل	ابتدا گھڑی پل	انتہا گھڑی پل	گھڑی پل	[illegible]	[illegible]	[illegible]
منگلوار	۱	۱۶	۹	۳	۱۷	تیج	۲۳/۳۴	آردرا	۱۳/۱۹	شبھ	۱۸/۳۴	کرک	۵۸/۳۳		۲۳/۲۲	۲۵/۳	۶/۵۹	۵/۱	گنیش چوتھ
بدھوار	۲	۱۷	۱۰	۴	۱۸	چوتھ	۳۰/۴۷	پنربس	۱۳/۵۱	شکل	۱۳/۵					۲۵/۲	۶/۵۹	۵/۱	
ویروار	۳	۱۸	۱۱	۵	۱۹	پنچمی	۱۸/۳۳	پکھ	۱۳/۳۲	برہم	۸/۲۳					۲۵/۱	۷/۰	۵/۰	بدھ دھن میں ۲۶-۴-۵۳
شکروار	۴	۱۹	۱۲	۶	۲۰	چھٹ	۱۶/۵۴	اشلیکھا	۱۲/۳۲	اَیندر	۳/۳۸	سنگھ	۱۳/۳۲	۱۴/۵۲	۳۸/۱۵	۲۵/۰	۷/۰	۵/۰	
سنیچروار	۵	۲۰	۱۳	۷	۲۱	ستمی	۱۸/۱۳	مگھا	۱۶/۵	ویدھرت	۱/۵۹					۲۴/۵۸	۷/۰	۵/۰	شکر مکر میں ۱۳-۱۷ پر آیا
اتوار	۶	۲۱	۱۴	۸	۲۲	اشٹمی	۳۰/۳۷	پوروا پھالگنی	۲۱/۲۲	وشکنبھ پریت	۱۲-۰ [illegible]	کنیا	۳۶/۱۳			۲۴/۵۶	۷/۰	۵/۰	بھیرو اشٹمی
سوموار	۷	۲۲	۱۵	۹	۲۳	نومی	۲۳/۲۹	اترا پھالگنی	۲۳/۴۵	آیوشمان	۵۹/۲۵			۵۵/۵۲		۲۳/۵۶	۷/۱	۴/۵۹	
منگلوار	۸	۲۳	۱۶	۱۰	۲۴	دسمی	۲۶/۵۵	ہست	۲۹/۱۰	سوبھاگ	۲۰/۰				۲۴/۵۵	۲۳/۵۵	۷/۱	۴/۵۹	
بدھوار	۹	۲۴	۱۷	۱۱	۲۵	ایکادشی	۳۳/۲	چترا	۳۰/۱۳	شوبھن	۰/۹	تلا	۳/۴۲			۲۳/۵۴	۷/۱	۴/۵۹	اتپنا ایکادشی
ویروار	۱۰	۲۵	۱۸	۱۲	۲۶	دوادشی	۳۸/۸	سواتی	۳۱/۳۴	[illegible]	۱/۱۸					۲۳/۵۳	۷/۱	۴/۵۹	بدھ مغرب میں طلوع ۲۹ [illegible] شب قدر
شکروار	۱۱	۲۶	۱۹	۱۳	۲۷	تریودشی	۳۳/۳	وشاکھا	۴۸/۹	[illegible]	۲/۳۰	برچھک	۳۱/۱۵	۴۳/۳۳		۲۳/۵۲	۷/۱	۴/۵۹	جمعۃ الوداع۔ قمر عقرب میں لگا
سنیچروار	۱۲	۲۷	۲۰	۱۴	۲۸	چودش	۳۸/۳۳	انورادھا	۵۴/۷	[illegible]	۳/۵۲				۱۵/۱۹	۲۳/۵۱	۷/۱	۴/۵۹	
اتوار	۱۳	۲۸	۲۱	۱۵	۲۹	اماوس	۵۲/۳۹	جیشٹھا	۴۹/۳۱	دھرت	۳/۳۹	دھن	۵۹/۳۸			۲۳/۵۰	۷/۲	۴/۵۸	برہسپت مغرب میں غروب ہوا
سوموار	۱۴	۲۹	۲۲	۱۶	۳۰	[illegible]	۵۵/۳۴	مول	۶۰/۰	شول	۳/۵۹					۲۳/۴۹	۷/۲	۴/۵۸	
منگلوار	۱۵	۳۰	۲۳	۱۷	[illegible]	دوج	۵۴/۳۳	مول	۳/۸	گنڈ	۳/۵۳					۲۳/۴۸	۷/۲	۴/۵۸	سورج دھن میں ۱۲-۱۰ چاند نظر آئیگا
بدھوار	۱۶	شوال	۲۴	۱۸	۲	تیج	۵۸/۹	پورواکھاڑھ	۳/۳۲	بردھ دھرو	[illegible]	مکر	۳۱/۵۸			۲۳/۴۷	۷/۲	۴/۵۸	عید الفطر
ویروار	۱۷	۲	۲۵	۱۹	۳	چوتھ	۵۶/۲۵	اتراکھاڑھ	۸/۱۷	بیاگھات	۵۵/۱			۲۸/۳۴	۵۴/۲۵	۲۳/۴۶	۷/۲	۴/۵۸	
شکروار	۱۸	۳	۲۶	۲۰	۴	پنچمی	۵۵/۲۵	شرون	۸/۳۲	ہرکھن	۵۱/۱۹	کمبھ	۳۸/۲۵			۲۳/۴۵	۷/۳	۴/۵۷	پنچک شروع ۲۵-۳۸
سنیچروار	۱۹	۴	۲۷	۲۱	۵	چھٹ	۵۲/۲۵	دھنشٹا	۸/۶	بجر	۴۵/۹					۲۳/۴۴	۷/۳	۴/۵۷	
اتوار	۲۰	۵	۲۸	۲۲	۶	ستمی	۴۸/۲۳	شت بھکھا	۹/۱۳	[illegible]	۳۹/۲۸	مین	۴۹/۲۸	۳۸/۴۳		۲۳/۴۳	۷/۳	۴/۵۷	
سوموار	۲۱	۶	۲۹	۲۳	۷	اشٹمی	۴۳/۳۳	پوروا بھادرپد	۳/۵۰	بیتی پات	۳۲/۲۸				۱۴/۱۳	۲۳/۴۲	۷/۳	۴/۵۷	
منگلوار	۲۲	۷	[illegible]	۲۴	۸	نومی	۳۸/۱۲	اترا بھادرپد ریوتی	[illegible]	وریان	۲۵/۲۳	میکھ	۵۶/۵۰			۲۳/۴۱	۷/۳	۴/۵۷	پنچک ختم ۵۶-۵۰
بدھوار	۲۳	۸	۲	۲۵	۹	دسمی	۳۲/۳۱	اشونی	۵۲/۲۵	پرگھ	۱۶/۴۷			۵۹/۴۱		۲۳/۴۰	۷/۳	۴/۵۶	
ویروار	۲۴	۹	۳	۲۶	۱۰	ایکادشی	۲۹/۰	بھرنی	۳۸/۳۳	شیو	۹/۵۶				۳۶/۳۰	۲۳/۳۹	۷/۳	۴/۵۶	موکشدا ایکادشی
شکروار	۲۵	۱۰	۴	۲۷	۱۱	دوادشی	۳۰/۵۹	کرتکا	۳۲/۲۸	سدھ سادھیہ	[illegible]	برکھ	۵/۳			۲۳/۳۸	۷/۳	۴/۵۶	منگل تلا میں ۲۶-۲۲ پر آیا
سنیچروار	۲۶	۱۱	۵	۲۸	۱۲	تریودشی	۱۸/۹	روہنی	۳۰/۳۷	شبھ	۴۹/۳۳					۲۳/۳۷	۷/۳	۴/۵۶	بدھ مکر میں ۱۰-۳۰ پر آیا
اتوار	۲۷	۱۲	۶	۲۹	۱۳	چودش	۳۷/۴۷	مرگشر	۳۹/۴۸	شکل	۳۹/۴۸	متھن	۹/۳	۱۰/۱	۳۸/۲۹	۲۳/۳۵	۷/۳	۴/۵۷	پورنماشی برت
سوموار	۲۸	۱۳	۷	۳۰	۱۴	پورنماشی	۵/۱۴	آردرا	۳۳/۵۲	برہم	۳۳/۶					۲۳/۳۴	۷/۳	۴/۵۸	
منگلوار	۲۹	۱۴	۸	[illegible]	۱۵	دوج	۳۰/۵۹	پنربس	۳۱/۱۰	اَیندر	۲۴/۲۱	کرک	۱۲/۱۵			۲۳/۳۳	۷/۳	۴/۵۸	
بدھوار	۳۰	۱۵	۹	۲	۱۶	تیج	۳۷/۵۱	پکھ	۳۲/۳۸	بیدھرت	۴۲/۳۱			۲۸/۹	۴۹/۵۱	۲۳/۵۱	۷/۳	۴/۵۸	شکر کمبھ میں ۳۰-۲۵ پر آیا
ویروار	۳۱	۱۶	۱۰	۳	۱۷	چوتھ	۳۶/۱۴	اشلیکھا	۳۰/۵۸	وشکنبھ	۱۸/۳۳	سنگھ	۳۲/۵۸			۲۳/۵۳	۷/۳	۴/۵۸	گنیش چوتھ

آسمانی علامات اور آئندہ کے واقعات

اگر ۳ دسمبر کو بادل ہوئے۔ تو آئندہ بارش خوب ہوگی۔ اگر ۵ دسمبر کو آسمان ابر محیط رہے تو ماہ بیساکھ میں بارش کم غلہ کا نرخ گراں ہوجاوے۔ اگر ۸ دسمبر کو رات کے وقت بادل گرجا تو ساون بھادوں بارش سے خالی جاوینگے۔ اگر ۱۳ دسمبر کو بادل رہے۔ تو گھاس اور چارہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۲ دسمبر کو شمال کونے میں بادل ہوئے۔ تو بارش کی قلت ہوگی۔ اگر ۲۳ دسمبر کو بارش ہوگی۔ تو آئندہ نرخ غلہ ارزاں ہوگا۔ اگر ۲۸ دسمبر کو آسمان پر بادل ہوں۔ تو ماہ چیت میں غلہ گراں ہوگا۔ اگر ۲۹ دسمبر کو بادل رہا۔ تو ماہ اساڑھ میں بارش اچھی ہوگی۔



بن کال ۱۲–۰ سے ۱۰–۲۸ تک

پیشینگوئی بابت ماہ پوہ

ابتدائے ۱۵ دسمبر لغایت ۱۲ جنوری سنہ ۱۹۳۷

کرۂ ارض

اس ماہ کی سنکرانت بروز منگلوار پاربا کھا نچھتر میں پرویش ہوتی ہے جو کہ [illegible] ہوتی ہے۔ اور [illegible] سورج و برہسپت کا [illegible] یوگ ہے۔ اس سے غلہ گندم و نخود کے نرخ میں ارزانی کی کوئی امید نہیں ہے۔ نرخ بدستور گراں رہیگا۔ غلہ خورد کا نرخ بھی تیزی ہی ہوگا۔ دودھ دہی کی قلت بھی گراں رہیگا۔ روئی، کپاس، سن، سوت، اونی [illegible] تل، تیل، السی، سرسوں، توریہ، تارامیرا کا بھاؤ بھی تیزی پر ہوگا۔ گڑ، شکر، شہد، لال مرچ، مسور، [illegible] جیٹھ، چندن کے بھاؤ میں گرانی رہیگی۔ چاول، نمک، چاندی، [illegible] کانسی وغیرہ کا بھاؤ بھی تیزی پر رہیگا۔ سیاہ رنگ کی چیزیں [illegible] سیاہ [illegible] کے [illegible] بلاسٹ، لوہا، [illegible] کوئلہ کا نرخ گراں ہوگا۔

موسم۔ سردی بڑھی پڑیگی۔ [illegible] [illegible] چیچک وغیرہ کی وارداتیں بہت ہونگی۔ چوپایوں [illegible] کا ناش ہوگا۔

کرۂ فلک

آسمان ابر آلود رہیگا۔ ہوا سرد زیادہ چلیگی۔ اور بعض بعض جگہ بارش بھی ہوگی۔ پہاڑی مقامات پر برف باری ہوگی۔ ۱۵ و ۱۶ دسمبر کو آسمان ابر آلود اور بارش۔ ۲۵ لغایت ۲۸ دسمبر کو بادل ہوا سرد اور بارش ۳۰–۳۱ دسمبر کو بعض بعض جگہ بوندا باندی۔ یکم و ۲ جنوری سنہ ۱۹۳۷ کو بادل ہوا سرد۔ ۵–۶–۷ جنوری کو بادل اور بوندا باندی اور ۱۱ و ۱۲ جنوری کو بادل ہوا سرد اور بارش ہوگی۔

تقویم سیارگان

۱	منگل بسنت لگے (۲) ۸–۱۲
۲	سورج جیٹھا لگے (۱) [illegible]
۳	بدھ مولا لگے (۱) ۵۲
۴	
۵	سورج جیٹھا لگے (۲) ۲۲–۵۰ [illegible]
۶	
۷	منگل بسنت لگے (۳) ۲۹–۱۲ [illegible]
۸	سورج جیٹھا لگے (۳) ۱۰–۵۶
۹	برہسپت مولا لگے (۴) ۵۳–۱۹
۱۰	بدھ مولا لگے (۳) [illegible] ۲۸
۱۱	سورج جیٹھا لگے (۴) ۵۳–۱۰ [illegible] ۲۳
۱۲	
۱۳	منگل [illegible] لگے (۲) [illegible]
۱۴	
۱۵	سورج مولا لگے (۱) ۱۲–۱۰
۱۶	بدھ پورباکھا لگے (۱) ۱۹–۱۸ [illegible] ۳۳–۱۰
۱۷	
۱۸	سورج مولا لگے (۲) ۴۷–۳۴
۱۹	بدھ پورباکھا لگے (۲) ۱۰–۲۳ [illegible] ۴۰–۱۰
۲۰	منگل [illegible] لگے (۱) ۲۲–۵۶
۲۱	سورج مولا لگے (۳) ۲۲–۵۹
۲۲	شکر شروَن لگے (۳) ۲۴–۲
۲۳	بدھ اتراکھا لگے (۱) ۱۰–۵۵
۲۴	سورج مولا لگے (۴) ۵۰–۲۰ [illegible]
۲۵	منگل [illegible] لگے (۳) ۲۲–۹ [illegible]
۲۶	بدھ اتراکھا لگے (۲) ۳۰–۱
۲۷	شکر دھنشٹا لگے (۲) ۲۷–۱۸
۲۸	سورج پورباکھا لگے (۱) ۱۳–۱۵
۲۹	
۳۰	شکر دھنشٹا لگے (۲) ۳۰–۲۵
۳۱	سورج پورباکھا لگے (۲) ۳۹–۳۶ [illegible] ۱۵

مہورت

شبھ کاموں کے ابتدا کرنے کے لئے نیک وقت یعنی مہورت ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جو صاحب مندرجہ ذیل اصول کے بموجب کوئی شبھ کام شروع کریں گے وہ کام سرانجام ہوگا۔

مہورت	تتھ	یوم	نچھتر سبھ	کیفیت
نئے مکان میں پرویش کرنا	دوتیہ - نومی پورنماشی اماوسشی نہ ہو	اتوار منگلوار نہ ہو	مرگشر - ریوتی - چترا - انرادہا - اترا پھاگنی - اترا کھاڈ - اترا بھادرپد - روہنی -	جیٹھ - ماگھ - پھاگن - بیساکھ کا مہینہ ہو سورج اترائن ہو - لگن ستھر ہو - گرہ پرویش کے وقت سورج نچھتر سے ۵ خراب ۸ عمدہ ۸ خراب پھر ۵ عمدہ ہوسکتے ہیں -
ملازمت کیلئے		برہسپت شکر بدھ	اشونی - پکھ - مرگشر - ریوتی - چترا - انرادھا - ابھجیت - ہست	سورج یا منگل لگن کنڈلی دسویں یا گیارھویں ہونا چاہئے
گھر میں اناج لانا		سنیچر منگل اتوار نہ ہو	اترا پھاگنی - اترا کھاڈ - اترا بھادرپد - پکھ - جیشٹھا - سواتی - شرون - روہنی - دھنشٹا - ست بکھا	کرک و برچھک لگن نہ ہونا چاہئے -
بیمار کو غسل کرنا	چوتھ - نومی چودش نہ ہو	شکروار نہ ہونا چاہئے	مندرجہ ذیل نچھتروں کے علاوہ اور سب ٹھیک ہیں - ریوتی - اترا پھاگنی - اترا بھادرپد - پنربس - اترا کھاڈ - روہنی - سواتی - اشلیکھا -	لگن چر نہ ہو -
مکلاوہ لانے کیلئے		سوا منگل برہسپت کے سب دن ٹھیک ہیں	ہست - اشنی - روہنی - پکھ - اترا پھاگنی - سواتی - پنربس - شرون - دھنشٹا - مولا - مرگشر - ریوتی - چترا - انرادہا - اترا کھاڈ - اترا بھادرپد	بیاہ کے برس سے طاق برس میں مکلاوہ ہو - میکھ - برچھک - کمبھ کا سورج ہو -
بچہ کا نام رکھنا	۴-۹-۱۴ نہ ہوں		مرگشر - روہنی - پکھ - ریوتی - ہست - چترا - سواتی - انرادہا - شرون - اشنی - ست بکھا - تینوں اترا	پربھ نہ ہو - جنم سے گیارھویں یا بارھویں دن ہو
بیل یا درخت لگانا			بشاکھا - مولا - مرگشر - ریوتی - چترا - انرادہا - ست بکھا - اشنی - پکھ - تینوں اترا اچھے ہیں	
خرید مویشی	۴-۹-۱۴-۳۰ نہیں	اتوار نہ ہو	اترا کھاڈ - اترا بھادرپد - پوربا کھاڈ - بشاکھا - ریوتی - پنربس - پکھ - اترا پھاگنی	لگن ستھر ہو -
فروخت مویشی			پوربا پھاگنی - پوربا بھادرپد - پوربا کھاڈ - بشاکھا - کرتکا - اشلیکھا	لگن کمبھ ہو -
دوکان کھولنا	۴-۹-۱۴ نہ ہو		ریوتی - مرگشر - انرادہا - چترا - روہنی - ہست - اشنی - تینوں اترا -	لگن سے دوسرے - دسویں - گیارھویں گھر میں چندرما شبھ گرہ ہوں - لگن کمبھ ہو -
زمین جوتنا	۴-۶-۹-۱۴-۳۰-اماوش نہ ہو		مولا - بشاکھا - سواتی - مگھا - پنربس - شرون - دھنشٹا - ست بکھا - روہنی - مرگشر - چترا - انرادہا - ہست - اشنی - پکھ - تینوں اترا	سورج نچھتر ۳ خراب ۸ عمدہ ۵ خراب ۸ عمدہ -
بیج بونا	۶ - ۱۲ ۴ - ۱۴ نہ ہو	منگل سنیچر نہ ہو	مولا - مگھا - سواتی - دھنشٹا - اترا پھاگنی - اترا کھاڈ - اترا بھادرپد - ریوتی - مرگشر - روہنی - چترا - انرادہا - ہست - اشنی -	راہو نچھتر سے ۳ خراب ۵ عمدہ پھر ایک خراب پھر ۳ عمدہ پھر ۳ خراب پھر ۳ عمدہ پھر ۳ نچھتر بیج بونے کے خراب ہیں -
فصل کاٹنا	۴ - ۹ ۱۴ نہ ہو		مولا - جیشٹا - آردرا - اشلیکھا - کرتکا - ہست - شرون - دھنشٹا - مرگشر - سواتی - چترا - پکھ - مگھا - تینوں اترا - پوربا بھادرپد -	برکھ - سنگھ - دھن - برچھک لگن ہو
مونڈن کرنا	۳۰ - اماوش نہ ہو	منگل سنیچر اتوار نہ ہو	اشنی - جیشٹا - ریوتی - پکھ - شرون - دھنشٹا - پنربس - سواتی - مرگشر - چترا - ہست - ست بکھا	جنم سے ۳-۵-۷ سال جائز ہیں -
کان چھیدنا		منگل سنیچر اتوار نہ ہو	انرادہا - پنربس - پکھ - دھنشٹا - ریوتی - ہست - شرون - اترا بھادرپد - اترا کھاڈ	
نئی بہی	۱-۴-۹-۱۴	منگل سنیچر نہ ہو	چترا - سواتی - ریوتی - پکھ - شرون - دھنشٹا - اشنی - مرگشر - ہست - پوربا کھاڈ - پوربا پھاگنی	سورج اترائن ہو لگن - برکھ کمبھ میں ہو
بچہ کو مکتب بٹھانا	۳-۵-۹-۱۱-۱۲	منگل سنیچر نہ ہو	ریوتی - اشنی - مرگشر - آردرا - پنربس - پکھ - شرون - دھنشٹا - چترا - مولا - سواتی - اشلیکھا	جنم سے پانچویں برس شبھ ہے -
کنواں یا تالاب بنانا	۲ - ۵ - ۱۳ اماوش نہ ہو	اتوار منگل نہ ہو	پوربا کھاڈ - پنربس - پکھ - روہنی - مرگشر - شرون - دھنشٹا - ست بکھا - اترا پھاگنی ہست - چترا - مولا - سواتی - ریوتی - انرادہا - اشنی	سورج نچھتر سے ۵-۷-۹-۱۲-۱۷-۲۶ نچھتر ان نچھتروں میں سواتی ہو
علاج بیمار	۸ - ۹ اماوش نہ ہو	اتوار منگل سنیچر نہ ہو	ریوتی - ہست - چترا - اشنی - پنربس - شرون - دھنشٹا - ست بکھا - اترا پھاگنی ہست - چترا - مولا - سواتی - ریوتی - انرادہا - اشنی	چندرماں پاپ راشی کا نہ ہو -
سواری کا مہورت	۴-۹-۱۴ شبھ ہیں	سوموار بدھ برہسپت وار	شرون - انرادہا - تینوں اترا - روہنی - مرگشر - پنربس - پکھ - ہست - چترا - سواتی - اشنی -	
زیور بنانے کا مہورت	۲-۳-۵-۱۰-۱۱-۱۲ شبھ ہیں	اتوار برہسپت شکروار بدھ وار	تینوں اترا - ریوتی - اشنی - شرون - دھنشٹا - ست بکھا - مرگشر - پکھ - ہست - چترا - سواتی - روہنی -	
[illegible]	۲-۱۰-۱۲-۱۳-۱۴ شبھ ہیں	اتوار سوموار بدھ برہسپت وار	روہنی - مرگشر - ہست - چترا - سواتی - ست بکھا - انرادہا - ریوتی - اشنی - شرون - دھنشٹا - ست بکھا - پنربس - پکھ - تینوں اترا -	
حاکم کی ملاقات کرنا	۲-۳-۵-۷-۱۳ شبھ ہیں	منگل سنیچر نہ ہو	تینوں اترا - شرون - دھنشٹا - مرگشر - پکھ - انرادہا - ریوتی - اشنی - چترا - ہست -	
اناج بھرنا	۱-۲-۳-۵-۱۳ شبھ ہیں	بدھوار اتوار شکروار شبھ ہیں	پنربس - مرگشر - ریوتی - انرادہا - شرون - دھنشٹا - ست بکھا - چترا - سواتی - اشنی - پکھ - روہنی - تینوں اترا -	

چند عجیب دوائیاں جن کی مثال کہیں دوسری جگہ نہ ملیگی!

پاس رکھکر مشہوری حاصل کرو

[illegible]

پھل لڑکا ہی پیدا ہوگا ورنہ قیمت واپس

یہ ایک عجیب الخاصیت پھل ہے جو حمل کے بعد تیسرے ماہ کے شروع میں ایک ماہ دودھ سے کھلائی جاتی ہے جس سے لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ عجیب بات جان کر کوئی شک کرتے ہیں سو اس کا اقرار ساتھ ہے کہ لڑکی پیدا ہو تو قیمت واپس [illegible] ایسی ہزاروں اسناد موجود ہیں۔

عرق بخار

موسمی بخار ملیریا ہو [illegible] اس کی ایک شیشی [illegible] میری تعریف کرو [illegible]

مکمل فہرست ادویات کارڈ لکھ کر مفت منگوا سکتے ہیں۔

پھولو پھلو

یہ سوکھیا مسان کی دوائی ہے۔ بچہ جب سوکھنا جاتا ہے۔ اس دوائی کو اس کی کمر پر ملا جاتا ہے۔ کمر سے ایک کیڑے نکلتے ہیں۔ بچہ تروتازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قیمت [illegible] ایسی دوائی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ اول روز ہی استعمال کئے جانے پر [illegible]

درد شکن

اس دوائی کی ایک ہی پڑیہ کھانے سے پانچ منٹ کے اندر ہی کسی قسم کا درد ہو [illegible]

مکمل فہرست ادویات کارڈ لکھ کر مفت منگوا سکتے ہیں!

گولی امرت

یہ گولیاں قبض، بدہضمی، [illegible]

ایسی آئی

[illegible]

امرت دھارا کے برابر دنیا میں کوئی عجیب دوائی نہیں ہے ایک ہی دوائی تقریباً کل امراض کو اکسیر ہے [illegible] لاکھوں انسان استعمال کر کے فائدہ اٹھا چکے ہیں قیمت فی شیشی [illegible] نصف [illegible] نمونہ [illegible]

ایک ضروری اطلاع

[illegible]

خط و کتابت یا تار کیواسطے پتہ:- امرت دھارا ۵۶ لاہور

لانبے لانبے گھنگریاں تے وچ سونے دی تار

امرت دھارا

آزمائش کا زمانہ گذر چکا۔ کوئی سمجھدار انسان اب ایسا نہیں جو یہ نہ مانتا ہو کہ امرت دھارا کا ہر وقت ہر گھر بلکہ ہر جیب میں رہنا ضروری ہے۔ ایک شیشی بذات خود ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے۔ تمام درد اندرونی و بیرونی تمام زہروں کے اثرات اور ہیضہ انفلوانزا جیسی زہریلی امراض تقریباً تمام جسمانی امراض پر معجزہ نما اثر رکھتی ہے جس نے ایک بار آزمایا ہمیشہ کے واسطے یار بنایا اور بہت سے خرچ تکلیف اور تشویش سے اپنے آپکو بچایا۔ باقی چھیوں اکسیروں میں امرت دھارا شامل ہے۔ اور سب امرت دھارا لاہور سے مل سکتی ہیں!

قیمت فی شیشی دو روپے آٹھ آنہ (عہ/۲)
نصف شیشی ایک روپیہ چار آنے (عہ/۱)
نمونہ کی شیشی آٹھ آنہ (۸/)

امرت دھارا مرہم

[illegible] امرت دھارا مرہم [illegible] خارش [illegible] استعمال [illegible]

قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ

امرت دھارا لوزنجز

بازاری مٹھائی بچوں کو نقصان دہ ہے۔ امرت دھارا کی میٹھی گولیاں بچے مٹھائی کی طرح کھاتے ہیں اور امرت دھارا کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔

[illegible] تحفہ ہے۔ ناک [illegible] یا مرد [illegible] امرت دھارا کا فائدہ حاصل [illegible] کی امراض کو نافع۔ قیمت صرف ۴ر فی ڈبیہ [illegible]

امرت دھارا صابن

بازار میں [illegible] کے صابن ملتے ہیں [illegible] امرت دھارا [illegible] امرت دھارا شامل ہے۔ قیمت [illegible] فی ٹکیہ

امرت دھارا بام

امرت دھارا ملنے سے تمام دردوں کو آرام پہنچاتی ہے۔ اس کو دوسرے نافع درد تیلوں میں شامل کر کے امرت دھارا بام بنا دیا ہے جس سے ملنے میں سہولت ہو گئی ہے اور آزادی سے استعمال ہو سکتی ہے۔

قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ (عہ)

امرت دھارا پھلیل

جو کبھی خوشبو انسانوں کے واسطے نہایت صحت بخش دافع [illegible] اور دماغ کو طاقت دینے والی بھی [illegible] بدبو دور ہوتی ہے۔ امرت دھارا ایسے نفیس اور خوشبودار خاص تیل ملا کر ایک امرت دھارا پھلیل بنایا گیا ہے [illegible] اس تیل کو لگا کر سونے سے آپ کو خوشبو کا لطف [illegible] مگر [illegible] دور ہو جائیں گے۔ [illegible]

قیمت فی شیشی آٹھ آنہ (۸/)

امرت دھارا لوشن

لاکھوں روپیہ کے غرارے کرنے یا ناک میں چڑھانے والے لوشن دوسرے ممالک سے ہندوستان میں آتے ہیں ہم غریب کے دلدادہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے گھر میں ان سے بہتر ایک چیز موجود ہے۔ ناک حلق کی امراض کو دور کرنے۔ زکام نزلہ کو ہٹانے کے واسطے بہترین لوشن ہے۔ اعلیٰ لوشنوں کی طرح یہ سب کام بھی دے گا۔

قیمت فی شیشی ایک روپیہ

کرن جوانی

اس کے کھانے سے ہی دل و دماغ معدہ جگر گردہ مثانہ طحال آنت اور باہ پر اچھا اثر ہونے لگتا ہے۔ جگر صاف ہو کر رنگ خوبصورت و سرخ ہونے لگتا ہے۔ زکام نزلہ کھانسی دور ہوتی ہیں۔ بھوک بڑھتی ہے جریان احتلام رقت وغیرہ دور ہو کر باہ بڑھنے لگتی ہے پیشاب کے کل نقائص دور ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں جوانی کی امنگیں اٹھنے لگتی ہیں۔ جوانوں کو اصل جوانی حاصل ہوتی ہے۔ نئی جوانی حاصل کرنے یا جوانی کے قائم رکھنے کے لئے بے نظیر ثابت ہوئی ہے۔ جوانی میں بال سفید ہوں، تو سیاہ ہو جاتے ہیں۔ قیمت ۲۴ گولی ایک روپیہ (عہ)، ۱۰۰ گولی چار روپے (للعہ)، خوراک ۲ گولی صبح ۲ گولی شام ہے ٭

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ:۔ امرت دھارا (۵۶) لاہور

المشتہر
مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ، امرت دھارا بھون، امرت دھارا روڈ، امرت دھارا پوسٹ آفس لاہور

خط و تار کے لئے پتہ:۔ امرت دھارا (۵۶) لاہور

پنڈت جی کی تیار کردہ بیخطا ادویات جن سے ہزاروں مرد عورت فائدہ اٹھا چکے ہیں

ہر ایک دوائی کا نمونہ بھی دیا جاتا ہے جو چاہیں اوّل نمونہ منگوا کر یقین کر لیں!

اکسیر ۳۲ الف یہ دوائی جریان کے واسطے اکسیر ہے۔ خواہ کسی وجہ سے ہو۔ نیز بدخوابی کو بھی نافع ہے۔ قیمت ۳۲ گولی دو روپیہ (عہ) نمونہ ۸ر

اکسیر ۴۰ یہ دوائی بدخوابی کے واسطے ہے۔ غیر شادی شدہ طالب علموں کی حفاظت کرتی ہے۔ قیمت ایک روپیہ (عہ) نمونہ چار آنے (۴ر)

اکسیر ۲۴ جوبن جوش تعریف نام سے ہی ظاہر ہے۔ تیسرے پہر کو ایک گولی کھائیں سب کمیاں دور ہوں گی قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

طلاء ۱ جس نے اپنے پاؤں آپ کلہاڑا مارا ہے۔ ان کے واسطے یہ عام طلاء ہے قیمت پانچ روپے (صہ) نمونہ ایک روپیہ چار آنے (۱؍۴)

ابلاراحم (رجسٹرڈ) کثرت حیض کی بیماری کسی قسم کی اور کسی سبب سے ہو اس سے آرام آتا ہے کوئی بے قاعدگی نہیں رہتی۔ قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

سوماوتی رجسٹرڈ عورتوں کے سفید پانی جریان لیکوریا سیلان الرحم کی اکسیر دوائی قیمت [illegible] نمونہ ۱ر

بال سکھ (رجسٹرڈ) بچوں کی امراض ہرے پیلے دست۔ کھانسی بخار وغیرہ کے واسطے بے نظیر دوائی ہے قیمت ایک روپیہ (عہ) نمونہ ۴ر

سارسا رشٹ مرکب پرانا آتشک جب خون خراب کرے۔ یہ دوائی خون صاف کر کے جسم کو کندن کرتی ہے قیمت دو روپے۔ نمونہ ۶ر

سوزوشاف (رجسٹرڈ) سوزاک کی بے نظیر دوائی جلن سوزش وغیرہ اول ہی دن موقوف چند دن میں بالکل آرام آتا ہے قیمت ایک روپیہ۔ نمونہ ۴ر

دوائی بواسیر ۳ خونی و بادی ہر قسم کی بواسیر کے واسطے بے نظیر ہے سالوں کی بیماری دنوں میں دور۔ قیمت دو روپے۔ نمونہ ۴ر

دوائی تلی ۲ تاپ تلی کے واسطے بے نظیر دوائی ہے۔ ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے قیمت فی شیشی دو روپے (عہ) نمونہ چار آنے (۴ر)

آرام جان رجسٹرڈ جن کو قبض دائمی رہتی ہے۔ وہ اس کو کھایا کریں۔ آہستہ آہستہ بیماری دور ہو جاوے گی قیمت ۳۲ گولی ایک روپیہ۔ ۱۶ گولی ۸ر

بلادور۔ ان گولیوں سے افیون چھوٹ جاتی ہے سینکڑوں چھوڑ چکے ہیں قیمت فی شیشی ایک روپیہ آٹھ آنہ

انکھ روشن آنکھوں کی عام امراض دھند۔ جالا۔ پانی۔ خارش۔ سرخی وغیرہ کے واسطے مفید ہے قیمت ۱۲ر نمونہ ۱ر

کرن تیل کان کی امراض۔ درد۔ پیپ۔ زخم۔ سائیں سائیں کم سماعت کے واسطے بہت اعلیٰ تیل ہے قیمت ایک روپیہ نمونہ ۴ر

دنت لسو (رجسٹرڈ) لسوڑا لینے سے یا چھینک آنے سے درد سر، آدھا سیسی، داڑھ درد، کان درد، نزلہ، زکام وغیرہ دور ہوتے ہیں قیمت فی تولہ ایک روپیہ نمونہ ۴ر

گیبرس ناک کی لاثانی دوائی۔ نزلہ جلن [illegible] اور چند دن میں بیماری دور۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ) نمونہ چار آنے (۴ر)

گولی کھانسی سینہ میں بلغم رک کر جسے چوسنے سے کھانسی خشک ہو یا تر دور ہو جاتی ہے قیمت ۶۰ گولی صرف ایک روپیہ (عہ) نمونہ ۴ر

ملیریا ناش یہ سستی دوائی اس واسطے تیار کی ہے کہ ملیریا کے دنوں میں غریب لوگ بھی فائدہ اٹھا دیں۔ اور کونین کی ضرورت نہ رہے امیر لوگ منگوا کر مفت بانٹیں۔ قیمت ۲ تولہ ۸ر

اُبٹن اچھت موہنی (رجسٹرڈ) چہرے کے بدنما داغ کیل چھائیاں وغیرہ دور ہو کر چہرہ صاف ہوتا ہے۔ جھریاں نہیں پڑتیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ (عہ) نمونہ صرف ۴ر

دل سندری رجسٹرڈ (حسن افزا) یہ تیل ہے چہرہ کو چمکیلا بناتا ہے داغ کیل وغیرہ کو دور کرتا ہے قیمت فی شیشی ایک روپیہ نمونہ ۴ر

بال اڑانے کی بے نظیر دوائی اس دوائی کو پانی میں گھول کر لگانے سے ایک ہی منٹ کے اندر بغیر تکلیف اور زحمت کے ہر جگہ کے بال صفائی کمال درجہ سے دور ہوتے ہیں قیمت فی ڈبیہ ۶ر نمونہ ۱ر

منجن ۱ دانتوں کی امراض مثلاً خون جانا، درد دانداں و بو آنے وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ قیمت چار آنے ۴ر نمونہ ۱ر

منجن ۲ خوشبودار دانتوں کی صفائی کے واسطے بنایا گیا ہے اس کے ملنے سے دانت موتیوں کی طرح ہو جاتے ہیں قیمت ۴ر نمونہ ۱ر

باغ پھول تیل رجسٹرڈ بالوں پر تمام تیلوں کا سرتاج ہے۔ بالوں کو نرم و ملائم کرتا ہے۔ بڑھاتا ہے سر کو ٹھنڈا رکھتا ہے بینائی کو قائم رکھتا۔ صرف خوشبو ہی نہیں مفید بھی ہے۔ قیمت فی شیشی بارہ آنے ۱۲ر

کو ملپری (رجسٹرڈ) پاؤں کی بوائی پھٹی ہو یا ہاتھ پھٹ گئے ہوں اس کے استعمال سے بہت جلد آرام آتا ہے قیمت فی ڈبیہ ایک روپیہ (عہ)

پران سکھ (رجسٹرڈ) بچوں کو [illegible] حالت پیدا [illegible] قیمت [illegible] نمونہ ایک روپیہ

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ:- امرت دھارا ۵۶ لاہور

المشتہر

مینجر امرت دھارا اوشدھالیہ، امرت دھارا بھون، امرت دھارا روڈ، امرت دھارا پوسٹ آفس۔ لاہور

خط و کتابت کے واسطے پتہ۔ امرت دھارا ۵۶ لاہور

طبی کتب

[illegible] کی بیماری کے متعلق پہلی واقفیت [illegible] مندرجہ ذیل کتابیں [illegible] سے طلب کریں [illegible] ہندی [illegible]

ویرج کے متعلق علمی و طبی تحقیقات

[illegible] جسم انسانی [illegible] کے متعلق [illegible] قیمت [illegible] ہندی ۱۰

کیا ہم لڑکا یا لڑکی اپنی مرضی پر پیدا کر سکتے ہیں؟

خواہش پیدا کرنے کے متعلق [illegible] ڈاکٹری تحقیقات کا مفصل بیان۔ قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible] تیسرا ایڈیشن

رسالہ وضع حمل

یہ رسالہ ہر گھر میں [illegible] ہر عورت کا [illegible] واقف ہونا ضروری ہے۔ اس میں ۳۳ باتصویر نقشے ہیں۔ قیمت فی جلد اردو [illegible] ہندی ۱۰

علاج الاطفال

[illegible] پیدائش سے لیکر [illegible] بچوں کو جو امراض ہوتی ہیں ان کا مکمل بیان [illegible] ہر قسم کے ڈاکٹری یونانی و ویدک علاج درج ہیں [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

رسالہ قبض

قبض امراض کی ماں ہے [illegible] علاج میں [illegible] غلطیاں ہوتی ہیں [illegible] رسالہ کے اندر [illegible] کی تشریح [illegible] ہر خاص و عام [illegible] حکیم صاحبان یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قیمت فی جلد اردو ۱۰ ہندی ۱۲

رسالہ برہمچی

جس میں برہمچریہ کا مکمل بیان ہے اور اسکے استعمال کے بے شمار [illegible] طریقے لکھے گئے ہیں۔ قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

رسالہ سرعت.....

کل بیماریوں [illegible] فیصدی [illegible] اس رسالہ میں اس کی مکمل تشریح کی گئی ہے اور [illegible] مفصل علاج [illegible] قیمت فی جلد اردو [illegible] ہندی ۶

رسالہ طبی نیند و فلسفہ خواب

اپنی طرز کا پہلا رسالہ ہے [illegible] ہندوستان میں نہیں لکھا گیا [illegible] قیمت فی جلد اردو ۱۲ ہندی ایک روپیہ چار آنہ

رسالہ زہروں کا علاج نمبر اول

جس میں زہروں کے علاج کے مختلف [illegible] یونانی ویدک [illegible] انگریزی [illegible] سانپ وغیرہ [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

رسالہ زہروں کا علاج نمبر دوم

جس میں [illegible] شراب [illegible] کا زہر [illegible] علاج [illegible] قیمت فی جلد ایک روپیہ ہندی ایک روپیہ چھ آنے

رسالہ زہروں کا علاج نمبر سوم

[illegible] بچھو بھڑ [illegible] چھپکلی [illegible] زہریلے جانوروں اور حشرات الارض کا مفصل بیان اور [illegible] علاج مندرج ہے [illegible] قیمت ایک روپیہ چار آنہ

رسالہ درد سر

درد سر کی اقسام کا اندرونی ویدک یونانی اور ڈاکٹری [illegible] مفصل حالات و علاج درج ہیں۔ قیمت فی جلد اردو [illegible] ہندی ایک روپیہ چار آنہ

رسالہ آتشک یا [illegible]

[illegible] ویدک یونانی و ڈاکٹری [illegible] کی کل تشریح [illegible] اسباب [illegible] علاج [illegible] ایڈیشن [illegible] قیمت فی جلد اردو [illegible] ہندی [illegible]

رسالہ سوزاک

[illegible] ویدک یونانی اور ڈاکٹری کی کل تحقیقات [illegible] مکمل رسالہ ہے جس میں ۱۰۰ سے زیادہ ہر قسم کے نسخہ جات دیئے گئے ہیں۔ قیمت فی جلد اردو ۸ ہندی ۱۲

[illegible] علم الاخلاق

[illegible] قیمت فی جلد اردو ۱۲ ہندی [illegible] دوسرا ایڈیشن ۱۲

اصطلاحات یونانی

[illegible] قیمت فی جلد ۱۰

اصطلاحات ویدک

[illegible] قیمت ۹

شودھن ودھی

[illegible] قیمت [illegible] ہندی [illegible]

علم و عمل کشتہ جات

[illegible] کشتہ جات [illegible] قیمت فی جلد [illegible]

رسالہ چیچک

[illegible] مفصل بیان [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

سشرت کا ترجمہ حصہ اول

[illegible]

سشرت کا ترجمہ حصہ دوم

[illegible] قیمت فی جلد ۶

فزیالوجی یا علم افعال الاعضاء

[illegible] جسم انسانی کے [illegible] قیمت فی جلد ۱

شناخت نبض

نبض کی پہچان ہر ایک حکیم [illegible] ڈاکٹر کے واسطے [illegible] قیمت فی جلد پانچ آنے

ویدک کے مشہور مرکبات حصہ اول

[illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

گنج مجربات

[illegible] قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ

علاج المفردات

[illegible] قیمت صرف ۱۲

لغات الادویہ

[illegible] قیمت چار روپیہ

گوشوارہ تشخیص الامراض

[illegible] قیمت فی جلد [illegible]

ادویات حصہ اول

[illegible] قیمت [illegible]

ادویات حصہ دوم

[illegible] قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنے

خط و کتابت و تار کے لئے پتہ: — امرت دھارا ۵۶ لاہور

المشتہر: مینیجر امرت دھارا اوشدھالیہ۔ امرت دھارا بھون۔ امرت دھارا روڈ۔ امرت دھارا پوسٹ آفس۔ لاہور

راس اور نچھتر معلوم کرنے کا نقشہ

ناظرین! دنیا کی تمام موجودات کو جوتشیوں نے اس نقشہ پر تقسیم کر دیا ہے۔ پس اپنی راس معلوم کرنے والے کو چاہیئے۔ کہ اپنے نام کا اول حرف اس نقشہ میں دیکھے۔ پس اس حروف کے اوپر جو راس لکھی ہے۔ وہی اس شخص کی راس ہوگی۔ اور جو نچھتر اس کے جانب دست لکھا ہے۔ وہی اس کا نچھتر ہوگا۔ مثلاً نام رام چند ہے۔ حروف اول جو ر ہے۔ تلا راس کے جانب راست نچھتر چترا کا ۳ چرن لکھا ہے۔ پس رام چند کی راس تلا اور نچھتر چترا ہے۔

میکھ		برکھ		متھن		کرک		سنگھ		کنیا		تلا		برچھک		دھن		مکر		کنبھ		مین	
نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف	نچھتر چرن	حروف
اشونی ۱	چو चू	کرتکا ۲	ای ई	مرگشر ۳	کا का	پنربس ۴	ہی ही	مگھا ۱	ما मा	اترا پھالگن ۲	ٹو टो	چترا ۳	را रा	بشاکھا ۴	تو तो	مول ۱	یے ये	اترا کھاڑا ۲	بھو भो	دھنشٹا ۳	گو गू	پوربا بھادوں ۴	دی दी
۲	چے चे	۳	او उ	۴	کی की	پکھ ۱	ہو हू	۲	می मी	۳	پا पा	۴	ری री	انورادھا ۱	نا ना	۲	یو यो	۳	جا जा	۴	گے गे	اترا بھادوں ۱	دو दू
۳	چو चो	۴	اے ए	آردرا ۱	کو कु	۲	ہے हे	۳	مو मू	۴	پی पी	سواتی ۱	رو रू	۲	نی नी	۳	بھا भा	۴ ابھجت ۱	جی जी جو जू	شت بھکھا ۱	گو गो	۲	تھا थ
۴	لا ला	روہنی ۱	او ओ	۲	گھ घ	۳	ہو हो	۴	مے मे	ہست ۱	پو पू	۲	رے रे	۳	نو नू	۴	بھی भी	۲ ۳	جے जे جو जो	۲	سا सा	۳	جھ झ
بھرنی ۱	لی ली	۲	وا वा	۳	انگ ङ	۴	ڈا डा	پوربا پھالگن ۱	مو मो	۲	کش ष	۳	رو रो	۴	نے ने	پوربا کھاڑا ۱	بھو भू	۴	کھا खा	۳	سی सी	۴	اَن ञ
۲	لو लू	۳	وی वी	۴	چھ छ	اشلیکھا ۱	ڈی डी	۲	ٹا टा	۳	ناں ण	۴	تا ता	جیشٹھا ۱	نو नो	۲	دھا धा	شرون ۱	کھی खी	۴	سو सू	ریوتی ۱	دے दे
۳	لے ले	۴	وو वू	پنربس ۱	کے के	۲	ڈو डू	۳	ٹی टी	۴	ٹھا ठ	بشاکھا ۱	تی ती	۲	یا या	۳	پھا फा	۲	کھو खू	پوربا بھادوں ۱	سے से	۲	دو दो
۴	لو लो	مرگشر ۱	وے वे	۲	کو को	۳	ڈے डे	۴	ٹو टू	چترا ۱	پے पे	۲	تو तू	۳	یی यी	۴	ڈھا ढा	۳	کھے खे	۲	سو सो	۳	چا चा
کرتکا ۱	آ अ	۲	وو वो	۳	ہا हा	۴	ڈو डो	اترا پھالگن ۱	ٹے टे	۲	پو पो	۳	تے ते	۴	یو यू	اترا کھاڑا ۱	بھے भे	۴ دھنشٹا ۱ ۲	کھو खो گا गा گی गी	۳	دا दा	۴	چی ची

بارہ راشیوں کے ماہواری حالات

اکثر معتقدان علم جوتش اس علم کے جاننے والوں سے اپنے نیک و بد حالات دریافت کیا کرتے ہیں۔ اس لئے مشہور عالم جنتری میں ہر سال بلحاظ گردش کواکب بارہ راشیوں کے مختصر حالات بمعہ کنڈلی گرہ درج کئے جاتے ہیں۔ نہایت آسان ترکیب سے درج کئے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر ہر ایک شخص اپنی راس کی گرہ چال اور اس کے نیک و بد پھل بغیر کسی جوتشی سے دریافت کئے معلوم کرسکتا ہے۔ اور ان نام نہاد جوتشیوں کے پھندوں سے بچ جاتا ہے۔ جو خواہ مخواہ اپنی مطلب براری کے لئے لوگوں کے سروں پر سنیچر و منگل کا بھوت سوار کرکے ان کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ مشہور عالم جنتری میں با چھتیس سال سے جاری ہے۔ جس کو پبلک نے بہت پسند کیا ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں۔ کہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی نام نہ ہو۔ ماہران علم جوتش نے گردش فلک کے بارہ حصے کرکے ہر ایک حصہ کی ہر ایک راشی مقرر کر دی ہے۔ اور تمام مخلوقات عالم کو ان بارہ راشیوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ ہر ایک چیز کے نام کا پہلا حرف اس کی راشی پر دلالت کرتا ہے۔ جو کہ نقشہ بالا سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ جو صاحب اپنے حالات دیکھنا چاہیں۔ ان کو چاہیئے۔ کہ نقشہ مندرجہ بالا میں سے اپنے نام کے پہلے حرف سے اپنی راشی معلوم کرلیں۔ پھر اگلے صفحوں میں وہ مہینہ نکال کر اپنی گرہ چال اور نیک و بد حالات دیکھ لیں۔ ملحوظ رہے۔ کہ یہ حالات شنکرانتی مہینہ کے حساب سے لکھے گئے ہیں۔ اور جس تاریخ میں درج ہیں۔ وہ بھی شنکرانتی مہینہ کی ہیں۔

لابھ و خرچ سنہ ۱۹۳۶ء

یہ ایک مجمل طریقہ آمدن و خرچ دیکھنے کے لئے ہے۔ اس نقشہ سے سوائے اس کے کہ اس سال میں آمدن و خرچ کیسا رہیگا۔ اور کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ ناظرین کی دلچسپی کے لئے نقشہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

بارہ راشیوں کے مرد و عورت کا لابھ و خرچ کا نقشہ بابت سمت ۱۹۹۳ بکرم

نام راس	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیا	تلا	برچھک	دھن	مکر	کنبھ	مین	کیفیت
لابھ	۲	۱۱	۲	۱۱	۱۴	۲	۱۱	۲	۱۴	۸	۸	۱۴	مردوں کیلئے
خرچ	۱۴	۵	۵	۵	۱۱	۵	۵	۱۴	۲	۵	۵	۲	
لابھ	۸	۲	۵	۱۴	۲	۵	۲	۸	۱۱	۱۴	۱۴	۱۱	عورتوں کیلئے
خرچ	۱۴	۸	۵	۲	۱۴	۵	۸	۱۴	۵	۱۴	۱۴	۵	

طریقہ۔ اپنی راس کے اعداد لابھ و خرچ کو جمع کرکے ایک کم کر دو۔ اور باقی کو ۶ پر تقسیم کرو۔ اگر باقی ۱ یا ۲ یا ۳ رہیں۔ تو آمدنی زیادہ۔ اگر ۴ یا ۵ رہیں۔ تو خرچ زیادہ۔ اگر پوری تقسیم ہو۔ تو وہ سال آمدنی کے لئے نہایت منحوس خیال کرنا چاہیئے۔

بارہ راشیوں میں بعض کیلئے سمت ۱۹۹۳ بکرم میں گرہوں کی نحس تاثیر

سمت ۱۹۹۳ بکرم میں سنیچر کنبھ راشی میں ہی رہیگا۔ اس لئے مکر کنبھ و مین راشی والوں کو نقصان ہے۔ بیسمت خراب۔ دھن کی مالی فکر و تشویش ہوگی۔ راہو دھن میں کیتو متھن راشی میں رہیگا۔ اس لئے راہو۔ مکر۔ برکھ۔ کنیا اور کیتو میں کرک برچھک راشی کو ناقص پھل کریگا۔ کاروبار میں نقصان۔ خبر بیماری اور دل کو بے چینی رہیگی۔

گرہوں کی نحوست

اکثر لوگ گرہوں کی نحوست کو پوجن وغیرہ سے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ غلطی کرتے ہیں۔ کیونکہ گرہ اپنی مقررہ میعاد سے پیشتر اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ اور اپنا پھل ضرور کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دان سے تسکین ہوتی ہے۔ اس لئے ایسے وقت میں غریبوں اور محتاجوں کو دان دو۔ تاکہ ان کی دعا سے خیریت تمہاری مشکل آسان ہو۔

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات مع گرہ پر اسائے ثابت ماگھ سمت ۱۹۹۲ بکرم

میکھ



کیت
سورج بدھ
راہ
شکر برہسپت
چندرمان

کاروبار میں کشا کش - دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان - عزت مرتبہ بلند - نقل و حرکت زیادہ کرنی پڑے - بھائیوں سے لابھ صحت خراب اور بات میں دھن کا خرچ - دھرم کے کاموں میں ہانی ہو - اس ماہ کی ۱۶-۱۸-۲۲-۲۴-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

برکھ



کیت
منگل شنیچر
سورج بدھ
شکر برہسپت
راہ
چندرمان

کاروبار مدہم - آمدن کم خرچ زیادہ ہے۔ راج دربار میں ترقی مرتبہ - عورت سے محبت زیادہ اولاد سے سکھ ملے - کسی بات میں امید میں کامیابی صحت عیالی اچھی ہے - کوئی خوشی کی خبر ملے - اس ماہ کی ۲-۵-۸-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کیت
چندرمان
راہ
منگل
سورج بدھ
شکر برہسپت

کاروبار میں نقصان - دھن کی ہانی ہو۔ سفر میں جانے سے جھگڑا اور صحت خراب ہو جاتی ہے - دشمنوں سے تکلیف پہنچے - عورت سے جھگڑا کریں درد دل کا فکر تشویش لگی رہے - رنج پہنچے - اس ماہ کی ۴-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے۔

کرک



کیت
چندرمان
سورج بدھ
شکر برہسپت
منگل شنیچر
راہ

کاروبار میں کشا کش - دھن کا لابھ ہوگا - مگر خرچ بھی بہت ہو جاوے گا - سفر پیش آئے - عورت بیمار - اولاد کی طرف سے شکوے - پیٹ میں تکلیف - دشمن [illegible] کسی جگہ سے ہانی ہو - اس ماہ کی ۴ و ۷ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ



چندرمان
کیت
شکر برہسپت
منگل شنیچر
راہ
سورج بدھ

کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ ہو - دشمن ناش - کوئی خوشی کی خبر ملے - عورت بیمار اور اس سے جھگڑا ہو جاتا ہے - بیماری میں دھن کا خرچ - اولاد کی طرف سے فکر والدین کو کشٹ ہو - دل کو خوف لگا ہے - اس ماہ کی ۹-۱۱-۱۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



شکر برہسپت
چندرمان
کیت
راہ
سورج بدھ
منگل شنیچر

کاروبار میں دھن کا لابھ - علم و عقل کی ترقی - بھائیوں سے محبت اور ان سے فائدہ پہنچے - دشمن ناش - سفر میں جانے سے رنج پہنچے - اولاد کو کشٹ - درد سر سے تکلیف - یار میں امید میں کامیابی - اس ماہ کی ۳-۱۲-۲۱-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

تلا



چندرمان
شکر برہسپت
راہ
سورج بدھ
منگل شنیچر
کیت

کاروبار میں رکاوٹ - دھن کی ہانی ہو - والدین سے رنجش - سفر میں جانے سے مایوسی - آنکھوں میں روگ - کوئی کام بگڑ جاوے نقصان ہو - اولاد کو کشٹ - بھائیوں کی امداد ملے - صحت خراب رہے - اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۳-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

برچھک



راہ
چندرمان
سورج بدھ
شکر برہسپت
منگل شنیچر
کیت

کاروبار میں ترقی - دھن لابھ - آمدن ذریعہ مال ہو - دشمن ناش - دلی امید میں کامیابی - راج دربار کے کاموں میں کامیابی - عورت سے محبت - صحت اچھی رہے - والدین کو کشٹ ہو - اس ماہ کی ۱۶-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

دھن



سورج بدھ
شکر برہسپت
منگل شنیچر
راہ
چندرمان
کیت

کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ اچھا ہوگا - لیکن خرچ بھی بہت ہو جاوے گا - آنکھوں میں روگ - بھائیوں سے جھگڑا - عورت سے رنجش - دشمنوں سے نقصان پہنچے - دل کو خوف لگا رہے - اس ماہ کی ۱۵-۱۶-۱۸-۲۱ تاریخ خراب ہے۔

مکر



شکر برہسپت
راہ
منگل شنیچر
سورج بدھ
چندرمان
کیت

کاروبار میں ہانی - دھن کا لابھ نہ ہو - سفر میں جانے سے بیماری ہو جاتی ہے - عورت کی صحت خراب ہے - راج دربار میں عزت پاوے مراد پوری ہو - دشمنوں کا فکر لگا رہے - درد سر سے تکلیف ہو - اس ماہ کی ۷-۲۰-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے

کنبھ



سورج بدھ
منگل شنیچر
راہ
شکر برہسپت
کیت
چندرمان

کاروبار مدہم - دھن لابھ تھوڑا ہوگا - کچھ بیماری ہو جاتی ہے - اولاد کی طرف سے فکر - دشمنوں کا خوف لگا رہے - نزلہ زکام سے سر میں درد ہو - اور بات میں دھن کا خرچ زیادہ رہے - اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

مین



منگل شنیچر
سورج بدھ
کیت
راہ
چندرمان
شکر برہسپت

کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ - خرید و فروخت کے کاموں میں فائدہ ہو - دشمن مغلوب - دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ لگا رہے - سفر میں جانے سے رنج و بیماری ہو جاوے - عورت سے سکھ ملے - اس ماہ کی ۱۰-۱۲-۱۴-۲۰-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

پیارے ناظرین! مشہور عالم جنتری میں ہر سال اہل الرائے کے نئے نئے مضامین کا اندراج ہوتا چلا آتا ہے - یہ فالنامہ جو ان کالموں میں درج ہوتا چلا آتا ہے نہایت مفید اور عجیب تجربہ ہے - جس کے بدون امداد دیگرے ہر ایک شخص خود بخود اپنے مطلب اور امورات خیر و شر کو دیکھ سکتا ہے - جس کا نتیجہ بالکل درست نکلتا ہے - اس لئے اس فالنامہ کا ہمیشہ کے لئے مشہور عالم جنتری میں درج ہونا ضروری ہے - یہ فالنامہ علماء و متقدمین علم نجوم نے ایسے طریق پر استخراج کیا ہے - کہ جس سے ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے - اور وہ نام نہاد جوتشیوں کے ڈھکوسلوں سے بچ نکلتا ہے - اس لئے اس کا اندراج شائقین کی فرمائش سے ہر سال کیا جاتا ہے - اور ساتھ ہی اس کے یہ بتلا دینا ضروری ہے - کہ ہم نے اس فالنامہ کو کتاب کی صورت میں علیحدہ بھی چھاپ دیا ہے - جو معمولی قیمت پر کارخانہ سے درخواست کرنے پر مل سکتا ہے -

فالنامہ دیکھنے کا طریقہ

یہ قرعہ ہفت دھات کا شرف آفتاب یا زہرہ یا مشتری کی ساعت بروز جمعہ یعنی شکروار قمر تا بدر النور میں اس طرح سے بنوالیں - کہ اس کے تین خانے کے چاروں طرف حرف (ا ب ج د) کندہ کرالیں اور پھر تینوں دانوں کو ایک آہنی تار میں اس طرح پرو دیں کہ وہ گردش بھی کر سکیں جن کی صورت حسب ذیل ہے -



پس جب کبھی امر نیک و بد کے نتیجہ کو دیکھنا ہو - تو بصدق دل یکسوئی قلب سے اس کو ہاتھ میں لیکر اپنے مطلب کو پیش نظر رکھ کر اس کو گردش دے کر کسی تختی یا ہموار جگہ پر ڈال دیں - اور دیکھیں کہ اس کے اوپر کون کونسا حرف آیا ہے - جو حروف آئے ہوں - انکو بالترتیب جنتری کے ان کالموں میں دیکھیں وہ ردیف مل جائیگی پس ان حرفوں کے زیر جو شرح لکھا ہے اس کو دیکھ لیں

رفع تکلیف

مشہور عالم جنتری کے ناظرین کو قرعہ تیار کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی ہے - پس جن احباب کو خود بخود بنوانا مشکل معلوم ہو - ان کی رفع تکلیف کیلئے یہ قرعہ تیار کرائے گئے ہیں جن کی قیمت ۸ روپے اور محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے - پس درخواست بھیجکر پتہ ذیل سے منگالیں -

ملنے کا پتہ

منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسیہائے بابت ماہ پھاگن سمت ۱۹۹۲ بکرم

میکھ



کاروبار میں دھن کا لابھ ہوگا - راج دربار میں مان - مرتبہ بلند - بھائیوں سے فائدہ پہنچے - نقل و حرکت زیادہ کرنی پڑے - دشمن مغلوب - بلغمی امراض سے تکلیف پہنچے - دل رنجیدہ رہے - اس ماہ کی ۱۶-۱۷-۱۹-۲۰-۲۵ تاریخ ہے -

برکھ



کاروبار میں کشائش - دھن کا لابھ ہو مگر خرچ بہ نسبت آمدن کے بڑھ جائے - راج دربار سے مان اور ادب سے سکھ ملے - عورت سے محبت بڑھے - دھرم کے کاموں میں ہانی ہو - پیٹ میں تکلیف ہو - اس ماہ کی ۲۶-۲۷-۳ تاریخ خراب ہے

متھن



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ کم ہو - دشمنوں سے تکلیف پہنچے - سفر میں جانے سے جھگڑا - دھن کی ہانی اور صحت خراب ہو جائے - عورت سے کلیش - پیٹ میں روگ ہو - اس ماہ کی ۳-۱۱-۱۲-۳۰-۱۰ تاریخ خراب ہے -

کرک



کاروبار میں کشائش - دھن کا لابھ ہو - اولاد کی طرف سے سکھ ملے - دشمنوں سے تکلیف - دل کو فکر لگا رہے - عورت سے سلوک - مو کسی ایسی امیدیں کامیابی ہونے سے دل کو خوشی ہو - اس ماہ کی ۵-۲۴ و ۲۵ و ۲۶ تاریخ خراب ہے -

سنگھ



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ معمولی ہو - دشمنوں کی طرف سے دل کو خوف لگا ہے - عورت سخت بیمار رہے - اور بابت میں دھن کا خرچ اولاد کا فکر پڑے - پیٹ میں روگ ہو - اس ماہ کی ۷-۹-۱۰-۲۰ تاریخ خراب ہے

کنیا



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ ہوگا - دشمن ناش - راج دربار میں کامیابی - عورت سے سکھ ملے - اولاد کی طرف سے خوشی حاصل ہو - رنجش صحت اچھی رہے - سفر میں جانے سے رنج پہنچے - اس ماہ کی ۱۰-۲۰-۲۱-۲۴ تاریخ خراب ہے -

تلا



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ کم ہوگا - بدی چین رہے - کوئی بنا بنایا کام بگڑ جائے - عورت سے سکھ ملے - بھائیوں سے اور اولاد کو کشٹ اور فکر لگا رہے - آنکھوں میں درد کی شکایت - اس ماہ کی ۷-۸-۱۱-۱۵ تاریخ خراب ہے -

برچھک



کاروبار مدہم - دھن کا لابھ نہ ہو - خرچ بہ نسبت آمدن کے بڑھا رہے - والدین سے رنجش - دشمن پیدا ہو جاویں - جھگڑے سے کامیابی - نزلہ و زکام سے کچھ تکلیف ہو - اس ماہ کی ۵-۱۲-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے

دھن



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ - درد دل سے دشمن ناش - دل کو خوشی حاصل ہو - کچھ جھگڑا اور رنج پہنچے - عورت سے جھگڑا - راج دربار میں مان بڑھے - کسی دوست کا ملاپ ہو - اس ماہ کی ۱۲-۱۵-۱۷-۱۸ تاریخ خراب ہے -

مکر



کاروبار میں نقصان - دھن کی ہانی - آمدن کم - خرچ زیادہ رہے - کسی جگہ سے تہمت لگا کر بے عزتی ہو - آنکھوں میں روگ - دشمنوں کا خوف - دل کو رنج پہنچے - اس ماہ کی ۱۸-۲۵-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے -

کنبھ



کاروبار میں رکاوٹ - دھن کی ہانی - سفر میں جانے سے زیرباری - اولاد کی طرف سے رنج - پیٹ بڑے - پیشی سے تکلیف - دشمنوں سے دہشت ہو - اچانک مصیبت پیش آوے - اس ماہ کی ۷-۸-۱۲ تاریخ خراب ہے

مین



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ ہو - راج دربار میں مان - مرتبہ بلند - دلی امیدوں میں کامیابی - دشمن سے آزار ملے - سفر میں جانے سے رنج - زیرباری ہو - عورت سے سکھ ملے - اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۱۷-۲۲ تاریخ خراب ہے -

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

قرعۂ اشکال حروفی قرعہ

ا ا ا

خوش قسمتی کا ایک نشان ہے - روزگار میں ترقی اور مایوس امیدوں میں کامیابی ہوگی - اگر یقین نہ ہو تو دیکھو تمہارے داہنے پاؤں پر تل کا نشان ہے -

ا ب ا

جس چیز کی یاد میں حیران ہو - وہ جلد ملیگی - اور خواہش تمہاری جلد پوری ہوگی - فکر مت کرو - اس کی صداقت کے لئے تمہاری داہنی آنکھ کے اوپر کی طرف ایک نشان ہے -

ا ج ا

تمہارا کام آسان ہوگا - دشمنوں کی تکلیف دور ہوگی - یہ سال تمہاری امیدوں کی بہتری کے لئے مبارک ہے - کسی عورت سے تم کو محبت ہوگی اور گئی ہوئی چیز مل جائیگی - یقین نہ ہو - تو دیکھ لو تم کو استقلال نہیں -

ا د ا

کاروبار میں ترقی - آمدن اچھی ہوگی - تجارت میں فائدہ ہوگا - جسم کی تکلیف دور ہوگی - دشمن دور ہونگے - یقین جان لو کہ ایک ماہ کے بعد تم کو فائدہ ہوگا - تصدیق یہ ہے - کہ تمہاری عورت سے محبت نہیں ہے -

ب ا ا

کارج سدھ ہوگا - سفر سے فائدہ ہوگا - دل کا فکر کچھ روز کے بعد دور ہوگا - کسی عزیز سے ملاقات ہونے والی ہے - بیوپار سے لابھ ہوگا - نشان یہ ہے - کہ تمہاری عورت تم کو تکلیف دیتی ہے -

ب ب ا

تم ایک سال سے حیرانی و پریشانی میں ہو - اور سخت تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں - اب وقت بہتری کا آگیا ہے - اس لئے تمہارا فکر دور ہوگا نشان یہ ہے - کہ تم دس سال کی عمر میں پانی میں ڈوب گئے تھے -

ب ج ا

تم کو تکلیف ہے - جس سے نیکی کرتے ہو اس کا بدلہ بدی ملتا ہے - عورت کی طرف تمہارا خیال بہت رہتا ہے - چند یوم میں تمہارا مطلب پورا ہوگا - نشان دیکھو - تمہارے سر میں اکثر درد کی شکایت رہتی ہے -

ب د ا

تم کو کسی جگہ سے لابھ کی امید ہے - وہ ایسے کام ہونا مشکل ہے - مگر ایک دوست کی مدد سے کچھ صورت بہتری کی ہوگی - یقین

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حال امسال گرہ سہائے بابت ماہ چیت سمت ۱۹۹۲ بکرم

میکھ



کاروبار میں دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں عزت بڑھے۔ عہدہ کی ترقی بھائیوں سے فائدہ پہنچے۔ امراض بلغمی سے تکلیف۔ دل کو فکر، اولاد میں خرچ زیادہ ہو۔ رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۴-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

برکھ



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ دشمن مغلوب۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ عورت سے محبت زیادہ صحت میں فتور۔ پراسیر سے تکلیف بیماری میں دھن کا خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۲۲-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ راج دربار سے مان۔ دھرم کے کاموں میں توجہ زیادہ رہے۔ عورت سے محبت۔ نقل و حرکت زیادہ کرنی پڑے صحت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۶-۹-۱۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

کرک



کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ دشمنوں کا خوف لگا ہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ پیٹ میں روگ۔ دل کو رنج بیماری میں دھن کی ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۴-۱۰-۲۲-۲۴-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ



کاروبار میں کشاکش لیکن دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ والدین سے محبت سفر میں جانے سے صحت خراب اور جھگڑا پیش آئے۔ عورت سے سکھ ملے۔ اولاد کا فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۳-۷-۸-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



کاروبار مدہم۔ دھن لابھ کم۔ خرچ زیادہ رہے۔ عورت کی صحت خراب۔ دشمنوں سے آزار۔ اور دل کو خوف لگا رہے۔ سفر میں رنج درد کمر سے تکلیف۔ پیٹ میں پیڑا ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۵-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

تلا



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ مگر خرچ بھی بہت بڑھا ہے۔ دشمن غالب۔ اولاد کو کشٹ۔ بھائیوں سے دھن لابھ۔ دھرم کے کاموں میں دل نہ لگے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۳-۵-۸-۱۱ تاریخ خراب ہے۔

برچھک



کاروبار مدہم۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ دھن کی ہانی ہو۔ امیدوں میں ناکامی۔ کوئی کام بگڑ جائے۔ عورت سے سکھ اولاد سے رنج و فکر۔ والدین کو کشٹ یعنی بادی روگ سے صحت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۵-۱۶ تاریخ خراب ہے۔

دھن



کاروبار معمولی۔ آمدن خرچ برابر رہے والدین سے رنجش۔ آنکھوں میں روگ دشمن پیدا ہو جاویں۔ سفر میں جانے سے نقصان۔ دھن ہانی۔ عورت سے جھگڑا بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے۔

مکر



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن ناش۔ بھائیوں سے کچھ رنجش ہے کسی امید میں کامیابی۔ دل کو خوشی ہو صحت کچھ خراب رہے۔ بیماری میں دھن کا خرچ زیادہ۔ [illegible] ہو۔ اس ماہ کی ۱۶-۲۲-۲۳ تاریخ [illegible] ہے۔

کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ زر و مال کی آمد ہو لیکن خرچ بھی بہت ہو جاوے۔ اولاد کی طرف سے فکر و اندیشہ کسی جگہ سے بے عزتی ہو۔ دھن ہانی۔ بیماری پر خرچ زیادہ تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۴-۵-۱۳-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

مین



کاروبار میں دھن کی ہانی۔ لابھ کم ہو۔ سفر میں جانے سے نقصان پہنچے۔ پھوڑا۔ پھنسی۔ فساد خون سے تکلیف۔ آنکھوں میں روگ۔ خوف۔ دشمن سے آزار ملے۔ عورت بیمار رہے۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۷-۲۱ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

رہو۔ تو دیکھو۔ تمہاری داہنی آنکھ پر تل ہے۔

ج ا ا

وقت تو اچھا آگیا ہے۔ زمین کا لابھ ہوگا۔ سفر کا خیال ہو۔ تو جاؤ فائدہ ہوگا۔ مگر اولاد کا فکر ہے کیونکہ عورت کی طرف جو چنتا کرتے ہو۔ وہ دور ہوگی۔ کیونکہ تمہاری استری بہت ہوشیار ہے۔

ج ب ا

اے صاحب فال! تیرا زمانہ بہت ناقص ہے۔ جس کام کو تو کرتا ہے۔ نقصان اٹھاتا ہے۔ مگر دیکھو۔ پانچ ماہ کے بعد تیری بہتری کی سبیل نکل آئیگی۔ اگر یقین نہ ہو۔ تو دیکھ لے۔ تیری طبیعت اداس ہے۔

ج ج ا

دو سال سے تیرے اوپر نحوست آئی ہوئی ہے اور کاروبار میں خلل ہوتا ہے۔ اور جو ارادہ کرتا ہے۔ وہ درمیان میں ہی خراب ہو جاتا ہے مگر یہ چنتا تیری جلد دور ہوگی۔ دیکھ تمہارے داہنے ہاتھ کی پشت پر کوئی نشان ہے۔

ج د ا

چند روز سے عجیب معاملات تمہارے در پیش آئے ہیں۔ جو کام کرتے ہو ادھورا رہتا ہے اس وقت تم کو ایک جیو کی چنتا ہے۔ جو ایک ماہ کے بعد دور ہو جائیگی۔ یقین نہ ہو۔ تو دیکھو۔ تمہارے کندھے پر زخم کا نشان ہے۔

د ا ا

گھر میں ہر طرح تکلیف اور دل کو فکر رہتا ہے بلکہ تم کو بھرم آئین رہتا ہے۔ یہ وقت منحوس ہے۔ دھن کی ہانی اور چنتا دل کو لگی ہے اس کا دور ہونا مشکل ہے۔ یقین نہ ہو تو دیکھو۔ تمہارے داہنے بازو پر تل ہے۔

د ب ا

تم کو ایک جیو سے دھن کی پراپتی کا خیال لگا ہوا ہے۔ ایک ماہ تک صبر کرو۔ تمہارے بگڑے ہوئے کام درست ہونگے۔ عورت سے لابھ ہوگا۔ دیکھو تمہارے عضو تناسل پر تل ہے۔

د ج ا

تمہارے دل میں جس شخص سے مدد لینے کا خیال ہے وہ تم کو لیت و لعل میں ٹال دیگا۔ اور تم کو رنج پہنچیگا۔ چند روز صبر کرو۔ امداد پہنچے گی تمہارا کام سدھ ہوگا اور کارج سدھ ہوگا۔ مگر یاد رکھو۔ کہ تمہاری استری درد مند ہے۔

د د ا

گم گشتہ ہوئی چیز کا ملنا مشکل ہے۔ دھن کی ہانی

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ راسہائے بابت ماہ بیساکھ سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ	برکھ	متھن
		
کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ تھوڑا۔ سفر میں جانے سے زیر باری۔ دشمنوں کا خوف لگا ہے۔ آنکھوں میں روگ۔ راج دربار سے مان۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۹ تاریخ خراب ہے۔	کاروبار میں ہانی۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ ادویات میں دھن کا خرچ۔ زیر باری۔ دل رنجیدہ رہے۔ دشمنوں سے خوف۔ والدین سے رنجش ہو۔ اس ماہ کی ۱۷-۲۱-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔	کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ تجارتی کاموں میں فائدہ۔ دل کو خوشی ہو۔ عورت سے سکھ ملے۔ دلی مراد بر آئے۔ صحت کچھ خراب رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ اس ماہ کی ۲-۴-۷-۲۵-۲۷ تاریخ خراب ہے۔
کرک	**سنگھ**	**کنیا**
		
کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ نزلہ زکام سے تکلیف۔ راج دربار سے مان مرتبہ بلند۔ نقل حرکت زیادہ کرنی پڑے۔ پیٹ میں اور کمر میں درد کی تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۹-۲۰-۲۷ تاریخ خراب ہے۔	کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو گا۔ عورت بیمار۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ گرانی فکر کسی مایوس امید میں بہتری ہو۔ دشمنوں کا فکر لگا ہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۵-۱۱-۲۹ تاریخ خراب ہے۔	کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ سفر میں جانے سے جھگڑے پیش آئے۔ صحت خراب رہے۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش ہوں۔ راج دربار میں کامیابی۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۱۶ تاریخ خراب ہے۔
تلا	**برچھک**	**دھن**
		
کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ کم ہو گا۔ عورت بیمار رہیگی۔ دل کو فکر لگا ہے۔ اولاد کی طرف سے تشویش۔ بھائیوں سے امداد ملے۔ سفر جانا پڑے۔ دشمنوں سے نقصان۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۷-۲۹-۳۰ تاریخ ہے۔	کاروبار میں رکاوٹ۔ آمدن کم خرچ زیادہ۔ کسی جگہ سے اچانک کچھ فائدہ ہو جائے۔ اولاد کی طرف سے خوشی۔ والدین سے بگاڑ۔ دشمن ناش ہوں۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۲-۱۳ تاریخ خراب ہے۔	کاروبار کم۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ کوئی بنا بنایا کام بگڑ جاوے۔ عورت سے سکھ ملے۔ والدین کو تکلیف۔ سوچ بچار میں وقت زیادہ گذرے۔ بھائیوں سے رنجش۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۱ تاریخ خراب ہے۔
مکر	**کنبھ**	**مین**
		
کاروبار میں نقصان۔ دھن ہانی ہو گی۔ سفر میں جانے سے مایوسی۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ بیماری میں دھن خرچ۔ والدین کو تکلیف۔ بھائیوں سے لابھ۔ آنکھوں میں روگ ہو۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۸-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔	کاروبار میں ترقی۔ دھن لابھ۔ دشمن ناش ہوں۔ جھگڑے میں کامیابی۔ اولاد سے رنج۔ دلی مرادوں میں کامیابی۔ عورت کی صحت خراب۔ اپنے جسم میں بھی تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۱۰-۲۳-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔	کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ۔ راج دربار سے مان مرتبہ بلند۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش۔ سفر میں جانے سے رنج پہنچے۔ کسی جگہ سے کچھ دھن پراپت ہو گا۔ اس ماہ کی ۴-۷-۱۰-۱۸ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فال نامہ

کے لئے بیوپار سے لابھ ہو گا۔ دشمن بہت تکلیف دینگے۔ اگر تم بزرگوں کی خدمت کیا کرو۔ اور فقیروں کو روٹی کھلایا کرو۔ تمہارا کارج سدھ ہو گا۔ نشانی دیکھو۔ تم کو چریان کی تکلیف ہے۔

ا ا ب

آپ کا سیارہ گردش میں ہے۔ جو کام کرتے ہو اس میں تکلیف اٹھاتے ہو۔ ان دنوں تو مدعا ہونا محال ہے۔ صبر کرو۔ پردیس میں جانے سے بھی فائدہ نہیں ہو گا۔ دیکھو تمہارے جسم میں کچھ روگ ہے۔

ا ج ب

اے صاحب فال۔ جس کام کی نسبت تو دریافت کرتا ہے۔ وہ کام تیرا دو ماہ کے بعد سر انجام ہو گا اور یاد رکھ۔ کہ ایک خوبصورت عورت سے وصل ہو گا۔ اور مشرق کے سفر سے کچھ لابھ ہو گا۔ دیکھو تمہاری بغل کے نیچے ایک نشان ہے۔

ا د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم بزرگی کے خواہشمند ہو۔ اور کسی بیوی کی چنتا تم کو لگی رہتی ہے۔ لیکن تمہارا مطلب سدھ ہو گا۔ اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا۔ دیکھو۔ تم کو کسی شخص پر اعتبار نہیں ہے۔

ب ا ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم حصول زر اور ترقی کاروبار کے لئے پردیس جانے کا ارادہ کرتے ہو بیشک جاؤ۔ تمہارا مطلب سدھ ہو گا۔ اور وہاں سے تم کو دھن بہت ملیگا۔ دیکھو۔ تمہارے دل میں کسی دوست سے ملنے کا خیال ہے۔

ب ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ دشمن درپے آزار رہیں۔ اور ان سے تم کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ قرض خواہوں سے وحشت ہوتی ہے۔ جس کام کا تم کو خیال ہے۔ ابھی اس میں توقف ہے۔ دیکھو۔ کہ تمہاری ران پر دنبل کا نشان ہے

ب ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارا طالع نحوست میں ہے۔ اور بہت دنوں سے تم کو نقصان ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک شخص سے لڑائی جھگڑے میں تم کو تکلیف ہوئی۔ تم کارج سدھ ہونے کے لئے جو دریافت کرتے ہو۔ وہ کام پورا نہیں ہو گا۔ دیکھو تمہارا دل اداس ہے۔

ا ب ب

ہمت کرو معاونت کا وقت آگیا ہے عنقریب تمہارا کارج سدھ ہو گا۔ اور تم کو کسی دوست سے امداد ملیگی۔ اور سفر با منفعت پیش آنے والا

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ راسہائے بابت ماہ جیٹھ سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ



کاروبار مدہم۔ دھن کا نقصان ہوگا۔ چور رد گئی سے بیٹھے ہو۔ راج دربار میں ان آنکھوں میں تکلیف۔ عورت بیمار۔ بھائیوں سے لابھ۔ دشمن ناش۔ گلے میں تکلیف رہے۔ اس ماہ کی ۳-۷-۸-۱۶-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

برکھ



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا خرچ زیادہ ہوگا۔ عورت بیمار رہیگی۔ دل کو فکر لگا رہے۔ فساد و فتور اور درد سر سے تکلیف پہنچے۔ اولاد سے رنج۔ معدہ میں روگ۔ کام چنتا بڑھے۔ اس ماہ کی ۲-۱۸-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کاروبار میں رکاوٹ۔ دل پسند چیزوں کی خرید و فروخت سے کچھ فائدہ پہنچے۔ خویش و اقارب سے جھگڑا۔ عورت سے سکھ ملے۔ راج دربار میں مان بلند ہو۔ پت و بلغم کے روگ سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۴-۲۱-۳۰-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

کرک



کاروبار و تجارت میں لابھ۔ دھن و دھن کی ترقی ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں مان۔ جو چاہے پا سکے۔ دوستوں سے ملاپ۔ ست سنگ۔ صحت اچھی ہے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۵-۱۶-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ



کاروبار کشادہ۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار میں عزت بڑھے۔ اولاد سے سکھ ملے۔ عورت کو تکلیف۔ دشمنوں سے نقصان۔ کوئی چیز چوری جائے۔ بلغمی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۵-۲۵-۲۸-۲۹-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہے۔ دشمن ناش۔ اولاد کی طرف سے خوشی۔ عورت سے جھگڑا۔ سفر میں جانے سے رنج۔ بدھی ملین ہے۔ بھائیوں سے لابھ ہو۔ اس ماہ کی یکم-۱۰-۱۱-۱۲-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

تلا



تجارتی کاروبار میں کچھ کشائش رہے۔ دھن لابھ تھوڑا ہو۔ بھائیوں سے کلیش۔ بواسیر کا روگ۔ اولاد کی طرف سے فکر و تشویش۔ راج دربار سے بھے جیسی تکلیف۔ سفر میں جھگڑا ہو۔ اس ماہ کی ۴-۲۵-۲۶-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

برچھک



کاروبار تجارت میں فائدہ۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ عورت بیمار رہے۔ آنکھوں میں درد۔ دوستوں سے امداد ملے۔ دشمنوں سے نقصان پہنچے۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۴-۹-۱۰-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

دھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ بھائیوں اور دوستوں سے بگاڑ۔ اولاد کا سکھ ملے۔ عورت بیمار رہے۔ خویش و اقارب سے آزار ملے۔ دشمن ناش ہوں۔ امید دل میں کامیابی ہو۔ اس ماہ کی ۳-۵-۶-۸-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

مکر



کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن زیر ہیں۔ عورت و اولاد کو تکلیف۔ دل کو کلفت۔ دوستوں سے بگاڑ۔ دھن کا خرچ زیادہ رہے۔ نزلہ و زکام سے تکلیف۔ زیر باری کا ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۳-۱۶-۱۷ تاریخ خراب ہے۔

کمبھ



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی۔ خویش و اقارب سے جھگڑا۔ عورت کا سکھ ملے۔ دشمنوں سے تکلیف۔ مرض درد۔ آنکھوں میں تکلیف۔ سفر میں جانے سے زیر باری۔ بدھی ملین رہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۷-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

مین



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ شہرت ملے۔ راج دربار سے مان سمان ملے۔ سیر باغ کا شوق ہو۔ عورت سے سکھ۔ بھائیوں سے تکرار۔ صحت کچھ خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۳-۴-۱۵-۱۸-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

تقدیری تصویر کا فالنامہ

ہے۔ دیکھو تم اپنی عورت کی محبت میں سرشار رہتے ہو۔

ب د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ زمانہ گذشتہ میں تم نے بے پرواہی سے خیال میں دھن کا نقصان کیا اور تمہارے کاروبار میں خلل ہو گیا۔ مگر وقت اچھا آ گیا ہے۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارے دائیں کندھے پر تل کا نشان ہے۔

ج ا ب

اے صاحب فال! تمہاری موجودہ حالت عجیب قسم کی ہو گئی ہے۔ تمہارے خیالات گاہے چنیں گاہے چناں ہوتے ہیں۔ اور جس شخص سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ وہ مشکل ہے۔ ہاں چند روز کے بعد کوئی دیگر صورت ظہور میں آئیگی۔ دیکھو۔ اس وقت تمہارے خیالات پراگندہ ہیں۔

ج ب ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو کسی گئے ہوئے جیو کی چنتا رہتی ہے۔ اور کسی خبر و خط کے ہر وقت انتظار میں رہتے ہو۔ بلکہ تم کسی چیز کی خرید و فروخت کا جو خیال کرتے ہو۔ وہ اس وقت نہیں ہوگی۔ دیکھو۔ تمہارے سر پر ایک داغ کا نشان ہے۔

ج ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم حصول زر اور کشائش کاروبار کے لئے بڑی جستجو کرتے ہو۔ مگر گردش ایام تمہاری تم کو فائدہ نہیں ہونے دیتی۔ اور جس شخص کو ملنے کی خواہش کرتے ہو۔ وہ عنقریب تم کو ملیگا۔ مگر یاد رکھو۔ کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو۔ اس وقت تمہاری توجہ اس شخص کی طرف لگی ہوئی ہے۔

ج د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک جیو کی چنتا ہے۔ اور کشائش روزگار کی طرف تمہارا خیال لگا رہتا ہے۔ یہ دن اچھے ہیں۔ کارج سدھ ہوگا۔ کسی دوست کے ملنے سے خوشی ہوگی۔ دیکھو۔ تمہاری اندری پر تل ہے۔

د ا ب

یہ شکل دلالت کرتے ہیں۔ کہ تم کو زن و فرزند کی چنتا ہے اور تمہارے پاس دھن تھوڑا ہے۔ ست سنگ میں دل لگاتے ہو۔ مگر چنتا تم کو کچھ نہیں کرنے دیتی۔ دو ماہ تک صبر کرو۔ پھر دن اچھے آئیں گے۔ دیکھو۔ تمہارے پاؤں پر کوئی داغ ہے۔

د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے دل میں ایک گپت چنتا لگ رہی ہے۔ اور تم کسی دشمن کو زیر کرنے کا خیال بھی بہت کرتے ہو۔ مگر لابھ کیلئے جو فکر تم کو ہے

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسہائے بابت ماہ سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ



کاروبار میں ہانی آمدن کم۔ خرچ زیادہ۔ دشمن ناش ہوں۔ راج دربار سے لابھ۔ عورت بیمار۔ مایوس امیدوں میں کامیابی سفر میں مایوسی۔ آنکھوں میں روگ۔ اولاد سے رنج پہنچے۔ اس ماہ کی ۳-۷-۱۱-۲۴-۲۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

برکھ



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ خرید و فروخت کے کاموں میں کچھ ہانی ہوگی۔ چور و اگنی سے بچے۔ سواری کا کھٹکا ہے۔ عورت بیمار۔ دوستوں سے رنجش ہو۔ سفر میں نقصان۔ اس ماہ کی ۵-۱۳-۱۷-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہے۔ دل کو فکر۔ سفر میں بیماری۔ سفر میں دکھ۔ اولاد کو تکلیف۔ عورت سے کلیش ہو۔ بیماری میں دھن کا خرچ۔ صحت خراب۔ خویشوں سے جھگڑا۔ اس ماہ کی ۱۵-۱۶-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

کرک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کی بڑھتی ہوگی۔ عورت سے محبت۔ سیر دریا و باغ کا شوق۔ اولاد سے سکھ ملے۔ ست سنگ ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل لگے۔ مرتبہ میں ترقی۔ عورت کی صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۱-۱۲-۱۹-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ



تجارتی کاروبار سے منافع دھن کی بڑھتی۔ راج دربار سے لابھ مرتبہ بلند اور ہر بات سے کامیابی ہو۔ دشمن کی طرف سے فکر۔ عورت بیمار۔ اولاد سے رنجش۔ دوستوں سے تکلیف پہنچے۔ اس ماہ کی ۲۱-۲۲-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



کاروبار میں کشاکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ عورت سے محبت۔ کسی دوست کا ملاپ ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ دشمن ناش۔ جھگڑوں میں کامیابی۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ دلی مراد پوری ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۷-۲۴-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

تلا



کاروبار مدہم۔ دھن کا خرچ زیادہ رہے۔ دل بے چین۔ عورت سے جھگڑا۔ راج دربار سے ٹکے۔ چوری کا اندیشہ ہے۔ دل کو تکلیف۔ پیٹ میں روگ۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ اس ماہ کی ۲-۱۰-۲۱-۲۲-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

برچھک



کاروبار معمولی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ اولاد سے سکھ ملے۔ راج دربار میں مان۔ عورت بیمار۔ سفر پڑے۔ پیشی روگ سے کشٹ ہو۔ والدین کو تکلیف۔ اس ماہ کی ۴-۵-۲۱-۲۸-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

دھن



کاروبار مدہم۔ دھن ہانی۔ خرچ زیادہ۔ آنکھوں میں روگ۔ قرضہ بڑھے۔ عورت بیمار رہے۔ اولاد سے سکھ ملے۔ دشمن سے نقصان۔ دل کو فکر۔ جھگڑا ہو جائے۔ بیماری میں خرچ زیادہ۔ اس ماہ کی ۲-۳-۲۳-۲۴-۲۸-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

مکر



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ صحت خراب رہے۔ اولاد کو کشٹ۔ دشمن ناش ہوں۔ مرض جریان سے کچھ تکلیف پہنچے۔ کوئی کام بگڑے۔ چوپایہ کا سکھ۔ خویشوں سے رنجش۔ اس ماہ کی ۴-۵-۱۱-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

کنبھ



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار سے ترقی۔ خویشوں سے امداد ملے۔ سفر میں جانے سے نقصان ہو۔ دوستوں سے بگاڑ۔ عورت کی صحت خراب۔ چوپایہ کا سکھ ملے۔ اس ماہ کی ۲-۱۱-۲۱-۲۲-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

مین



کاروبار مدہم۔ آمدن خرچ برابر رہے۔ سفر میں جانے سے دھن ہانی۔ عورت سے محبت۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دشمن ناش۔ راج دربار سے لابھ۔ جھگڑے میں کامیابی۔ دشمنوں سے رنج۔ والدہ کو تکلیف۔ اس ماہ کی ۱۰-۲۲-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

وہ توقف سے رفع ہوگا۔ دیکھو تو بھلا تمہاری کمر پر کوئی نشان ہے۔

د ج ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ عنقریب تم کو کسی عزیز کا خط پہنچیگا۔ دشمنوں کی طرف سے جو چنتا تم کو لگی ہے۔ وہ جلد رفع ہو جائیگی۔ مگر شک جاتا ہے۔ کہ تمہاری عورت تم سے محبت نہیں رکھتی۔

د ب

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ کچھ دنوں سے تمہارا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے۔ اور تم روزگار کے لئے کوشش کرتے ہو۔ مگر بباعث گردش کام سر انجام نہیں ہوتا۔ لیکن اب کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو چنتا مت کرو۔

ا ا ج

یہ شکل کرتی ہے۔ کہ تم بلندی مرتبہ کے لئے اور مال و املاک کی بہتری کے واسطے ایک عرصہ سے کوشش کر رہے ہو۔ اس وقت تک طالع گردش میں ہے۔ چھ ماہ کے بعد کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ آج معلوم ہوئے۔ کہ تمہاری جیب سے کوئی چیز گر گئی ہے۔

ا ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارا دل کسی شخص کی محبت میں بیقرار ہے۔ اور وہ تمہاری طرف التفات نہیں رکھتا۔ اور تم اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ طالع گردش میں ہے۔ خیال چھوڑ دو۔ نقصان اٹھاؤ گے۔ دیکھو آج کئی روز سے تم کو قبضی کی شکایت بہت ہے۔

ا ج ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک چنتا ہے۔ اور تم اپنے دشمنوں کو دفع کرنے کیلئے کوشش کرتے ہو۔ کچھ دن ہوئے۔ تمہارا کچھ نقصان بھی ہو گیا تھا۔ اب دن اچھے آگئے ہیں۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو تم کو کھانسی کی تکلیف ہے۔

ا د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ کسی نے تمہاری مملوکہ چیز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور تم کو ہر وقت اس کی چنتا رہتی ہے۔ اور تم اپنی بہتری کی کوشش کرتے ہو۔ مگر بباعث گردش ایام کام نہیں ہوتا۔ ایک سال کے بعد امید بہتری رکھیں۔ دیکھو۔ تم کو بھوک کم لگتی ہے۔

ب ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم دنیاوی دھندوں میں عجب کشمکش میں پڑے ہو۔ اور بڑی کامیابی کے لئے کوشش کرتے ہو۔ اب دن اچھے آگئے

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات امور گرہ راس کے بابت ساون سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ



۱۲
۱۱ سنیچر
۲ چندرماں
۱
۱۰
۳ سورج شکر
۹ راہو
۷
۵
۶
۸

کاروبار مدھم۔ آمدنی و خرچ برابر رہے۔ طبیعت اداس۔ اولاد سے رنج۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ بدھی بلین۔ عورت سے سکھ ملے۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۰-۲۶-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

برکھ



۱
۳ منگل بدھ کیتو
۲ چندرماں
۱۲
۱۱ سنیچر
۵
۸ برہسپت
۱۰
۶
۷
۹ راہو

کاروبار میں نقصان۔ آمدن کم خرچ زیادہ ہے۔ راج دربار سے مان۔ دشمن ناش۔ عورت سے محبت بڑھے۔ آنکھوں میں روگ۔ رود بھائیوں سے بگاڑ۔ دوستوں سے رنج ہو۔ کھانسی سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۱-۲۵ تاریخ خراب ہے۔

متھن



۴ سورج شکر
۲ چندرماں
۳ منگل بدھ کیتو
۵
۱
۶
۱۲
۷
۹ راہو
۱۱ سنیچر
۸ برہسپت
۱۰

کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو لیکن خرچ بھی بہت زیادہ رہیگا۔ کسی جگہ سے تہمت لگے۔ کرم سے ترقی ہو۔ عورت بیمار۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ جھگڑے میں دھن کی ہانی۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

کرک



۵
۴ سورج شکر
۳ منگل بدھ کیتو
۲ چندرماں
۶
۷
۱
۸ برہسپت
۱۰
۱۲
۹ راہو
۱۱ سنیچر

کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ راج دربار میں ہانی۔ بیٹیوں سے جھگڑے۔ اولاد کا سکھ۔ راج دربار سے بھے۔ بیماری میں دھن خرچ۔ دل کو فکر۔ سفر ہے۔ خرید باری ہو۔ اس ماہ کی ۷-۸-۱۵-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ



۴ سورج شکر
۶
۷
۵
۳ منگل بدھ کیتو
۸ برہسپت
۲ چندرماں
۹ راہو
۱۱ سنیچر
۱
۱۰
۱۲

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں کامیابی۔ سنت ملن ہو۔ دشمن ناش۔ اولاد سے سکھ ملے۔ خویشوں سے جھگڑا۔ مال و املاک کی ترقی۔ آنکھوں میں درد۔ سفر میں خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۷-۱۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



۷
۵
۸ برہسپت
۶
۴ سورج شکر
۹ راہو
۳ منگل بدھ کیتو
۱۰
۱۲
۲ چندرماں
۱۱ سنیچر
۱

کاروبار میں دھن کا لابھ۔ تجارتی کاموں میں فائدہ پہنچے۔ عورت سے محبت۔ دشمن ناش۔ بھائیوں سے محبت۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ چوپائے کا سکھ۔ سیر و تفریح کا شوق ترقی پر۔ اس ماہ کی ۳-۴-۲۰-۲۲-۳۰-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

تلا



۸ برہسپت
۶
۵
۹ راہو
۷
۴ سورج شکر
۱۰
۳ منگل بدھ کیتو
۱۱ سنیچر
۱
۱۲
۲ چندرماں

کاروبار میں کشائش۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ دشمن ناش۔ خویشوں سے سکھ ملے۔ سفر میں آرام پہنچے۔ دھرم کے کاموں کی بڑھتی۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۳-۱۷-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

برشچک



۹ راہو
۷
۸ برہسپت
۱۰
۶
۱۱ سنیچر
۵
۲ چندرماں
۱۲
۴ سورج شکر
۳ منگل بدھ کیتو
۱

تجارتی کاموں میں فائدہ۔ دھن کا لابھ ہو۔ والدین کو کشٹ۔ عورت و اولاد سے سکھ ملے۔ بگاڑ خون پھوڑا پھنسی سے تکلیف۔ دھرم کے کاموں کی ہانی۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں کامیابی۔ اس ماہ کی یکم-۳-۱۵-۲۵-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

دھن



۸ برہسپت
۱۰
۹ راہو
۱۱ سنیچر
۷
۱۲
۶
۶
۳ منگل بدھ کیتو
۲ چندرماں
۵
۴ سورج شکر

کاروبار میں ترقی۔ تجارتی کاموں میں دھن لابھ۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ سفر میں جانے سے کشٹ۔ دھن ہانی۔ عورت بیمار رہے۔ دشمنوں سے آزار ملے۔ پلیتھی روگ سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۱۷-۲۴-۲۵-۲۷ تاریخ خراب ہے۔

مکر



۸ برہسپت
۹ راہو
۱۱ سنیچر
۱۲
۱۰
۷
۱
۶
۴ سورج شکر
۲ چندرماں
۵
۳ منگل بدھ کیتو

تجارت کی ترقی۔ دھن کی بڑھتی ہو۔ راج دربار سے مان۔ اولاد کا سکھ ملے۔ دشمن ناش ہوں۔ چوپایہ کا سکھ۔ عورت سے محبت۔ سر درد سے تکلیف رہے۔ سفر جانا پڑے۔ اس ماہ کی یکم-۷-۸-۲۶-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

کمبھ



۱۰
۱۱ سنیچر
۱۲
۹ راہو
۱
۸ برہسپت
۲ چندرماں
۷
۵
۳ منگل بدھ کیتو
۴ سورج شکر
۶

کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا رہے۔ کوئی کام بگڑ جاوے۔ خویش و اقارب سے رنج۔ سفر میں جھگڑا ہو جاوے۔ چوپایہ کا سکھ۔ راج دربار میں مان۔ اس ماہ کی ۵-۱۷-۱۸-۲۶-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

مین



۱۱ سنیچر
۱
۱۲
۲ چندرماں
۹ راہو
۱۰
۸ برہسپت
۳ منگل بدھ کیتو
۶
۴ سورج شکر
۷
۵

کاروبار میں ترقی۔ دھن لابھ۔ دوستوں سے بگاڑ۔ والدین کو کشٹ۔ بھائیوں سے محبت۔ عورت سے سکھ ملے۔ چوپایہ کا سکھ۔ اولاد کی طرف سے خوشی ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل لگے۔ ہر طرح کامیابی۔ اس ماہ کی ۶-۱۶-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ہیں۔ چند یوم میں کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ رات تم نے خواب میں ایک مہاتما کا درشن کیا ہے۔

ب ب ج

یہ شکل نحوست طالع پر دلالت کرتی ہے۔ جو کام تم نے بچارا ہے۔ اس کا پورا ہونا مشکل ہے۔ لین دین کے معاملہ میں بھی تم کو تکلیف ہوگی۔ دوستوں سے رنج پہونچیگا۔ دیکھو۔ رات خواب میں تم نے ایک روز خوف کھایا تھا۔

ب ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو فکر اور رنج رہتا ہے۔ جس میں اکثر تکلیف اور کسی بیماری کی طرف سے چنتا کرتے ہو۔ مگر خیال رکھو کہ ایام نحوست بہتری کی صورت میں نہیں ہونے دیتے۔ دیکھو۔ تم کو عورت کی طرف سے سکھ نہیں ملتا۔

ب د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ مایوس امیدوں میں کامیابی ہوگی۔ دشمن و فتح حاکم سے فائدہ۔ اور جس جیب کے ملنے کی خواہش ہے۔ وہ جلد ملیگا۔ بشرطیکہ تم منگلوار کو برت رکھا کرو۔ دیکھو۔ تمہاری اندری پر تل ہے۔

ج ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے جسم میں کشٹ رہتا ہے۔ کسی کام کا ہر وقت فکر رہتا ہے۔ طاقت مردمی کام دیو کی چنتا سے بہت کم ہو گئی ہے۔ علاج سے فائدہ نہیں۔ گردش کا باعث ہے۔ دیکھو۔ تمہارے دل میں ایک بھرم ہو رہا ہے۔

ج ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو کسی عورت کے ملنے کا شوق ہے۔ اور تم ہر وقت ترقی روزگار کے لئے بھی کوشش کرتے ہو۔ اور تمہارا دل ایک جگہ نہیں لگتا۔ رات کو خواب میں بھی بڑبڑاتے ہو۔ کسی شخص کی مدد سے تمہارا کارج سدھ ہوگی۔

ج ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ بہت دنوں سے کوئی شخص تم کو نقصان دیتا ہے جسکی چنتا تم کو لگی ہوئی ہے۔ اور روزگار بھی تمہارا اچھا نہیں۔ مگر اب وقت اچھا آگیا ہے۔ کارج سدھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا اپنا سوانس چل رہا ہے۔

ج د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تمہارے مکان میں دھن گڑا ہوا ہے۔ تم نے کئی مرتبہ اس کے لینے کی خواہش کی۔ مگر نہیں ملا۔ ہر وقت تم کو چنتا لگی رہتی ہے۔ لیکن وہ دھن تم کو نہیں ملیگا۔ چنتا چھوڑ دو۔ دیکھو۔ تمہارے مکان کا دروازہ پورب کو ہے۔

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسہائے بابت ماہ بھادوں سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ



کاروبار مدھم دھن کا لابھ تو ہو مگر خرچ بھی بہت ہو جائے۔ اولاد کو کشٹ والدین سے جھگڑا۔ دوستوں سے رنج۔ سفر میں جانے سے تکلیف پہنچے۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ چوپایہ کا سکھ ملے عورت بیمار ہے۔ اس ماہ کی ۳-۱۲-۲۱-۲۳-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

برکھ



کاروبار کی ترقی دھن کا لابھ ہو۔ دشمن مغلوب والدین کو کشٹ عورت سے سکھ ملے۔ راج دربار سے مان۔ سفر میں جانے سے کچھ جھگڑا فساد ہو جائے بھائیوں سے بگاڑ دل بے چین رہے۔ اس ماہ کی ۵-۶-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ لیکن خرچ بھی بہت ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار سے ترقی مرتبہ بلند عہدوں میں کامیابی۔ چور و اگنی سے نقصان ہونے کا خوف ہے اولاد عورت کو تکلیف دوستوں سے رنج ہو۔ اس ماہ کی ۲-۸-۱۷-۱۸-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

کرک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمنوں سے کچھ نقصان پہنچے۔ عورت کو تکلیف۔ خویشوں سے آرام ملے۔ راج دربار میں مان کوئی چیز گم ہو جائے۔ درد سر اور پھوڑے پھنسی سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۲-۷-۱۰-۱۸-۲۶-۳۱ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ راج دربار سے عزت۔ سفر میں جانے سے نیک پھل اور بے عزتی ہو۔ کوئی دوست ملے۔ درد سر نزلہ زکام وغیرہ سے جسم کو تکلیف دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



کاروبار مدھم۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو سفر میں جانے سے خرچ ہو۔ دشمنوں کا خوف دل کو لگا رہے گا وہ خود ذلیل ہوں۔ خویش و اقارب سے رنجش صحت خراب۔ آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۱۷-۲۵-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

تلا



کاروبار تجارت سے لابھ ہو۔ سفید چیزوں کی خرید و فروخت سے فائدہ ہو۔ دشمن ناش۔ دوستوں کا ملاپ۔ عورت سے محبت۔ چوپایہ کا سکھ بہت ملے۔ راج دربار سے عزت و مرتبہ میں ترقی دل کو خوشی ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۲-۱۳-۱۴ تاریخ خراب ہے۔

برچھک



کاروبار میں کشائش۔ زر و مال کا فائدہ راج دربار سے ترقی امید پوری۔ دشمن ناش۔ عورت سے محبت زیادہ۔ سفر میں جانے سے فائدہ اور آرام ملے۔ خویش و اقارب سے محبت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۷-۱۴-۲۳-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

دھن



کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ دل بے چین۔ دھن ہانی۔ دشمنوں کا خوف ہو سے جھگڑا۔ جسم کو بیماری وغیرہ سے تکلیف۔ اولاد سے سکھ۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۹-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

مکر



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ سفر میں جانا پڑے۔ عورت بیمار رہے۔ راج دربار سے ہانی۔ دل کو فکر لگی رہے بیماری کے رنگ سے کشٹ۔ دشمن مغلوب رہے۔ دھرم کے کاموں میں ہانی ہو۔ اس ماہ کی ۲-۳-۷-۲۰-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

کنبھ



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ۔ دشمن ناش۔ عورت و اولاد سے سکھ۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند۔ سفر میں جانے سے فائدہ۔ سر میں درد اور آنکھوں میں تکلیف رہے۔ دل کو فکر لگا ہے۔ اس ماہ کی ۱۱-۱۲-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

مین



کاروبار میں ہانی۔ دھن کا لابھ نہ ہو۔ دشمن پیدا ہو کر ناش ہو جاویں۔ اولاد کو کشٹ۔ راج دربار میں مان مرتبہ بلند کوئی کام بگڑ جائے۔ خویش و اقارب سے بگاڑ۔ بلغم کا زور اور [illegible] سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۱-۱۶-۱۸-۲۱ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

د ا ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو راج دربار سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور عورت کی چیشٹا بھی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ ناقص وقت گذر گیا۔ اب کا رنج دور ہوا چاہتا ہے۔ دل کی خواہش پوری ہوگی۔ مگر تمہارا سبھاؤ بہت چنچل ہے۔

د ب ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم تلاش روزگار اور ترقی کاروبار کے لئے کسی شخص کی امداد کے طلبگار ہو رہے ہو۔ مگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ عنقریب ایک معاون پیدا ہوگا۔ اور تمہارا کام درست ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارے سر میں درد ہے۔

د ج ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ان دنوں کچھ تکلیف ہے۔ اور ابھی تمہارے دن بہت خراب ہیں۔ سفر میں رنج ہوگا۔ دشمن سے دہشت ہوگی۔ ایشور کی یاد کرو۔ شاید تمہارا مطلب پورا ہو جائے۔ دیکھو۔ رات تم کو نیند بہت کم آتی ہے۔

د د ج

یہ شکل دلالت کرتی ہے کہ گذشتہ وقت میں تم نے دھن کا نقصان اٹھایا۔ مگر اب تمہاری تمام تکلیفیں دور ہونے والی ہیں۔ چند روز میں منگل چار ہوگا۔ اور عورت و اولاد کا سکھ ہوگا۔ دیکھو۔ تمہاری اندری پر تل ہے۔

ا ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ عنقریب ایک غیر معمولی ترقی اور عزت پاؤ گے۔ اور تمہارے اٹکے ہوئے کام سرانجام ہونگے۔ عورت اور اولاد کا سکھ بھی۔ دوست سے ملاقات ہو۔ دیکھو۔ تمہاری گردن پر تل ہے۔

ا ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو [illegible] کا بہت شوق ہے۔ [illegible] اور دل [illegible] بہت زیادہ ہوتا ہے جس دل [illegible] فکر و تشویش ہے۔ عنقریب یہاں سے [illegible] چند روز کے بعد تم کو ایک جگہ سے فائدہ پہنچیگا۔ دیکھو۔ تمہاری طاقت مردمی کمزور ہے۔

ا ج د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو ایک عورت کی طرف سے فکر اور اولاد کی طرف سے رنج اور کچھ تشویش کی چنتا رہتی ہے۔ بلکہ تم جانے کو تیار ہو رہے ہو۔ مگر ایام گردش ہیں۔ کام درست نہیں ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا دل بے قرار ہے۔

ا د د

اس شکل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ تم زمانہ کی گردش سے بہت کچھ [illegible] کوئی کام کرنے بیٹھتے ہو

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ راسہائے بابت ماہ اسوج سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ



کاروبار میں ترقی ہوگی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ اولاد کو تکلیف۔ دوستوں سے بگاڑ۔ دل کو فکر۔ محنت زیادہ ہے۔ ادویات میں دھن کا خرچ زیادہ۔ بیماری سے نقصان۔ بلغمی روگ کشٹ ہو۔ اس ماہ کی ۷-۱۴-۱۸-۲۸ تاریخ خراب ہے

برکھ



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ اولاد سے سکھ ملے۔ راج دربار سے عزت بڑھے۔ عورت سے محبت زیادہ۔ لیکن وہ بیمار رہے۔ والدین سے جھگڑا۔ سفر میں تکلیف۔ دشمن ہانی۔ چوپایہ کا سکھ ہے۔ اس ماہ کی ۲-۱۳-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ سفر میں جانے سے کسی سے جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ عورت سے رنجش۔ بھائیوں سے جھگڑا۔ دشمن سے کرودھ پہنچے۔ والدین کو کشٹ۔ بدھی ہین ہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۳-۱۷-۲۲ تاریخ خراب ہے

کرک



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہوگا۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ اولاد سے خوش۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ عورت بیمار۔ رنگ اور چوپایہ سے ہانی ہونے کا خطرہ ہے۔ اس ماہ کی ۴-۱۳-۲۰-۲۴-۲۵ تاریخ خراب ہے

سنگھ



کاروبار میں لابھ تھوڑا۔ دھن کی ہانی۔ راج دربار سے امید پوری ہو۔ خوش باش۔ افسر سے آرام ملے۔ عورت بیمار ہے۔ اولاد کی طرف سے فکر۔ دردسر اور نزلہ زکام سے تکلیف۔ کلیجہ میں تکلیف ہے۔ اس ماہ کی ۷-۹-۱۱-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



کاروبار کی ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ سفر میں جانے سے بیماری۔ نزلہ زکام سے تکلیف۔ اولاد نہیں۔ دھن کا خرچ کسی جگہ سے عزت ہو۔ کام چنتا کی بڑھتی۔ دشمن ناش۔ دل کو فکر لگا رہے۔ اس ماہ کی ۱۲-۲۲-۲۳ تاریخ خراب ہے۔

تلا



کاروبار مدھم۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ [illegible] دشمنوں سے خوف۔ راج دربار [illegible] کامیابی [illegible] اولاد سے کلیش [illegible] اس ماہ کی ۲-۹-۱۰-۱۳-۲۷ تاریخ خراب ہے

برچھک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہوگا۔ دشمن ناش۔ سواری کا سکھ ملے۔ عورت سے محبت زیادہ۔ دل خوش۔ [illegible] باغ کا شوق۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ صحت اچھی ہے۔ اس ماہ کی ۳-۱۶-۲۰-۲۱-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

دھن



کاروبار میں کشٹ۔ دھن کا لابھ ہو۔ امید ملنے میں کامیابی۔ دشمن ناش۔ عورت سے سکھ۔ دوستوں سے زیادہ ملاپ۔ سفر میں طبیعت خوش ہو۔ آرام ملے۔ مرتبہ میں بلندی۔ رشتہ داروں سے محبت زیادہ ہے۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۱۲-۱۸-۳۰ تاریخ خراب ہے

مکر



کاروبار معمولی۔ دھن کا لابھ ہو۔ عورت سے رنجش۔ دشمنوں کا فکر۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ بدھی ہین۔ راج دربار سے امید پوری ہو۔ جھگڑا۔ خون اور بیماری۔ پیچش سے طبیعت خراب ہے۔ اس ماہ کی ۱۴-۲۰-۲۶-۲۷ تاریخ خراب ہے

کمبھ



کاروبار مدھم۔ آمدن خرچ مساوی ہے۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ عورت بیمار۔ راج دربار سے ہانی۔ سفر میں جانے سے طبیعت خراب۔ دشمن ناش۔ اولاد سے اشٹ ملے۔ جنسی مرض سے تکلیف۔ اس ماہ کی ۹-۱۰-۱۷-۱۹ تاریخ خراب ہے

مین



تجارتی کاموں میں لابھ۔ دھن کی بڑھتی۔ سفر جانا پڑے۔ عورت بیمار۔ دشمن کا ناش۔ دھرم کے کاموں میں ہانی۔ راج دربار میں مان۔ پیٹ اور آنکھ روگ سے ہو۔ اس ماہ کی ۴-۱۳-۱۴-۲۰-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ہو۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں سے بھی تکلیف ہے۔ ابھی ایک سال اس طرح سے گذرے گا۔ دیکھو تمہاری ترقی [illegible] میں تندرستی زیادہ ہے

ب ا د

اے صاحب فال! دیکھ۔ زمانہ اس قابل نہیں کہ کسی کے بھروسہ پر کام کیا جائے۔ تیری سادہ دلی نے تجھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ رحم دلی نے مخالف پیدا کر دئے۔ مگر خیال رکھ۔ کہ تیرے دل کی چنتا اب دور ہوگی۔ دیکھ۔ تیرے سینہ میں کچھ روگ ہے

ب ب د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ تم کو عورت کی چنتا زیادہ رہتی ہے۔ سفر جانے میں تمہارا دل بہت چاہتا ہے۔ مگر کام دیری سے ہوگا۔ اور کسی دوست یا عزیز کا خط جلد ملا چاہتا ہے دیکھ۔ تیرے بائیں بازو کے نیچے تل ہے

ب د د

اے صاحب فال! تیرے ایام گردش کے ہیں جو کچھ دل میں بچارتا ہے۔ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اور تیرے جسم اور دھن کا نقصان ہوتا ہے۔ ابھی دو سال باقی ہیں۔ دیکھو۔ تھوڑے دن گذرے۔ کہ تم کو چوٹ لگی تھی۔

ج ا د

یہ شکل دلالت کرتی ہے۔ کہ جس امر کے لئے تم دریافت کرتے ہو۔ وہ بہت جلد سرانجام ہوگا۔ اور دشمن مغلوب اور دھن کی بڑھتی کا وقت آگیا ہے۔ دیکھو۔ چار یوم سے تمہارے دل کو گھبراہٹ ہے۔

ج ب د

اے صاحب فال! دیکھ۔ تیری مصیبت اور تکلیف کے دن دور ہوگئے ہیں۔ اور اب وہ وقت آگیا ہے۔ کہ تجھ کو بیوپار سے لابھ۔ حاکم سے فائدہ۔ اور کسی دوست سے مدد ملے گی۔ دیکھو۔ تمہارے جسم میں کچھ تکلیف ہے۔

ج ج د

یہ شکل بتلاتی ہے۔ کہ تم کو گمی ہوئی چیز کا خیال ہے۔ اور تم کو اقبال کے کام کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہو۔ مگر دن اچھے نہیں۔ اس لئے جلد کام نہیں ہوگا۔ دیکھو۔ چند یوم ہوئے تم نے بھوگ کیا تھا۔

ب ج د

یہ شکل بتلاتی ہے۔ کہ دریافت کنندہ کے خیالات منتشر ہیں۔ اور کسی چیز کی چنتا میں صبح و شام رہتا ہے۔ اور حصول ملک و مال کی زیادتی کی خواہش کرتا ہے۔ مگر دیر سے کام سرانجام ہوگا۔ دیکھو۔ تمہارا دل تیرتھ یاترا چاہتا ہے۔

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات مع گرہ راسہا بابت ماہ کاتک سمت ۱۹۹۳ بکرمی

میکھ



کاروبار تجارت میں دھن کا لابھ - راج دربار سے مان - سفر میں جانے سے فائدہ - عورت سے سکھ - اولاد کو تکلیف رہے - خویشوں سے رنج - کوئی کام بگڑے - بیماری میں دھن خرچ اس ماہ کی یکم - ۱۵ - ۱۶ - ۲۳ - ۳۰ تاریخ خراب ہے

برکھ



کاروبار میں نقصان - دھن کی ہانی ہو - دشمن سے گزند پہنچے - راج دربار سے مان - عورت سے محبت زیادہ اولاد کو کشٹ - خویشوں سے رنج پہنچے سفر میں فائدہ کوئی خوشی کی خبر ملے - اس ماہ کی ۹ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ تاریخ خراب ہے -

متھن



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ ہو - راج دربار میں مان عزت بڑھے - دشمن پیچھے آزار رہیں - بھائیوں سے جھگڑا - عورت سے رنجش - چوپایہ کا سکھ - اولاد کو کشٹ عورت کی صحت خراب ہے - اس ماہ کی ۳ - ۴ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۸ - ۲۹ تاریخ خراب ہے

کرک



کاروبار میں رکاوٹ - آمدن کم خرچ زیادہ رہے - اولاد کی طرف سے سکھ ملے - عورت سے جھگڑا - دشمن مغلوب دوستوں سے رنج - سفر میں جھگڑا - کوئی چیز گم ہو جاوے - پیٹ میں تکلیف ہے - اس ماہ کی ۳ - ۵ - ۲۳ - ۲۴ تاریخ خراب ہے

سنگھ



کاروبار میں ترقی دھن کا لابھ ہو - دشمن مغلوب راج دربار میں مان مرتبہ بلند دوستوں سے رنج دور ہونے کاموں میں خیال زیادہ - عورت کو تکلیف بھائیوں سے جھگڑا - شادی ہونے سے صحت خراب ہے - اس ماہ کی ۲ - ۶ - ۸ - ۹ - ۲۷ تاریخ خراب ہے -

کنیا



کاروبار میں ستائش لیکن دھن کا لابھ تھوڑا ہو - دشمن اشانت - راج دربار کے کاموں میں ہانی بے عزتی - بھائی بہنوں کی رو سے عورت سے سکھ ملے - چوپایہ سے نقصان - جھگڑے میں ناکامیابی ہو - اس ماہ کی ۷ - ۹ - ۱۹ - ۲۰ کی تاریخ خراب ہے -

تلا



کاروبار بدرجہ اوسط دھن کا لابھ کم ہو سفر میں جانے سے بیماری - صحت کچھ خراب - اولاد پر دھن کا خرچ اولاد کی طرف سے فکر و تشویش پیدا ہو نزلہ سے طبیعت خراب رہے - دل کو فکر ہو - اس ماہ کی ۶ - ۷ - ۱۰ - ۲۲ تاریخ خراب ہے

برچھک



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ ہو - عورت سے محبت - دشمنوں کی طرف سے تکرار والدین کو کشٹ - خویشوں سے جھگڑا ہو سفر میں [illegible] - اور لڑائی کا سامنا ہو [illegible] صحت خراب ہے - اس ماہ کی ۱۳ - ۱۶ - ۱۹ - ۲۳ تاریخ خراب ہے -

دھن



کاروبار میں ترقی - دھن کا لابھ ہو - دشمن ناش ہو - چوپایہ کا سکھ - عورت سے رنج دوستوں سے غالب - راج دربار میں مرتبہ بلند - امیدوں میں اقبال - دل خوش رہے [illegible] زیادہ ہو - اس ماہ کی ۱۲ - ۱۳ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۵ تاریخ خراب ہے -

مکر



خوش کاروبار دھن کا لابھ - دشمن مغلوب - راج دربار میں مرتبہ بلند امید میں کامیابی دوستوں سے غالب سفر میں آرام و خوشی - خویشوں سے آرام ملے - [illegible] اس ماہ کی ۱۰ - ۲۰ - ۲۲ تاریخ خراب ہے

کنبھ



کاروبار میں کم - دھن کا لابھ معمولی ہو - عورت بیمار [illegible] اولاد کی سے تکرار - راج دربار سے لابھ والے [illegible] اس ماہ کی ۲ - ۳ - ۱۵ تاریخ خراب ہے -

مین



کاروبار میں رکاوٹ دھن کا لابھ کم [illegible] اس ماہ کی ۱۱ - ۱۲ - ۲۲ - ۲۳ تاریخ خراب ہے -

تقدیر کی تصویر کا فالنامہ

ج د و

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم کو دادوستد کے معاملات میں نقصان اور رنج دشمن کی طرف زیادہ خیال رہے - اور حصول مدعا کے لئے ایک مرد بزرگ سے مدد ملیگی - دیکھو ایک ہفتہ ہوا تمہارے شکم میں درد تھی -

د ا و

اس شکل کی کیفیت یہ ہے - کہ تمہارا دل کسی جیو کی چنتا میں پڑا ہوا ہے - اور تم پردیس میں جانا چاہتے ہو - صبح و شام اسی خیال میں تم مشغول رہتے ہو - مگر کامیابی مشکل ہے دیکھو - تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے -

د ب و

یہ شکل دلالت کرتی ہے - اے صاحب فال! تیرے دشمن دور ہوں گے - دھن کا لابھ ہوگا - کسی جیو سے ملاقات ہوگی - اور کسی جگہ سے تم کو فائدہ پہنچیگا - دیکھو اس وقت تمہاری جیب بالکل خالی ہے -

د ج و

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ تم کو عورت اور اولاد کی چنتا رہتی ہے - اور دھن کی پراپتی کے واسطے تم سفر کیا چاہتے ہو - مگر دشمن ایسا ہے - اس لئے کامیابی مشکل ہے - ایک سال کے اندر تم کو تکلیف ہوگی - دیکھو تم ایک جیو پر مفتون ہو -

د د د

یہ شکل دلالت کرتی ہے - کہ جو کام تم نے دل میں چاہا ہے - وہ جلد پورا ہوگا - مگر ایک جیو سے تم کو دشمنی پیدا ہوگی اور بیوپار سے لابھ ہوگا - دشمن زیر ہونگے عورت کا سکھ ہوگا - دیکھو تمہارا دل ایک عورت پر [illegible] گرنا -

قرعہ حروفی
بنا بنایا منگالو
قیمت معہ محصولڈاک ایک روپیہ
پتہ ذیل سے مل سکتا ہے:-
مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات گرہ سے راسہائے بابت ماہ مگھر سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ



تجارتی کاروبار میں دھن کا لابھ۔ دشمن ناش۔ عورت سے محبت۔ اولاد سے سکھ ملے۔ بھائیوں سے بگاڑ۔ دھرم کے کاموں میں اقبال۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ بہت دیکھنے کو۔ رنگ سے کشٹ۔ خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

برکھ



تجارت میں فائدہ۔ دھن کا لابھ ہو۔ شوہر کی طرف سے فکر و تشویش۔ کوئی کام بگڑ جائے۔ عورت کی صحت خراب۔ اولاد کو کشٹ۔ سفر میں جانا پڑے۔ سر درد۔ آنکھ میں تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۴-۳۰-۲۳-۲۴ تاریخ خراب ہے۔

متھن



کاروبار میں ترقی۔ خرید و فروخت سے دھن کا لابھ ہو۔ دشمن ناش۔ راج دربار میں ترقی۔ عورت سے محبت۔ لیکن اس کی صحت کچھ خراب رہے۔ اور اولاد سے سکھ ہو۔ والدین سے جھگڑا۔ چند دن سفر کی ایذا کی ۸-۹-۱۳-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

کرک



کاروبار میں فائدہ بدرجہ اوسط ہے۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ راج دربار میں مان۔ دشمن پیدا ہو کر ناپید ہو جاویں۔ عورت سے سکھ۔ دوستوں سے امداد ملے۔ بھائیوں سے نقصان پہنچے۔ اولاد کو کشٹ۔ اس ماہ کی ۳-۱۳-۲۱-۲۲-۲۹ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ



کاروبار میں فائدہ اور کم خرچ زیادہ ہو۔ سفر میں جانے سے نقصان۔ عورت بیمار۔ جھگڑے سے کامیابی۔ طبیعت اداس رہے۔ والدین کو کشٹ۔ بھائی کے کو کچھ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۳-۵-۶-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

کنیا



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ ہو۔ دشمن مغلوب ہو۔ راج دربار میں مرتبہ بلند۔ امید میں کامیابی۔ عورت بیمار۔ والدین کو کشٹ۔ دھرم کے کاموں کی بڑھتی۔ رنجش۔ صحت اچھی رہے۔ اس ماہ کی ۳-۲-۱۶-۱۷-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

تلا



کاروبار میں دھن کی ہانی۔ دشمنوں سے نقصان۔ مال و دولت کی فکر۔ چور اور آگ کی شکایت ہو۔ بھائیوں سے رنجش۔ دوستوں سے تھوڑی صحت خراب۔ گلے میں درد۔ سے تکلیف۔ خرچ زیادہ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۴-۷-۸ تاریخ خراب ہے۔

برچھک



کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ سفر میں جانے سے بیماری ہو جائے۔ درد سر وغیرہ کاموں سے تکلیف۔ راج دربار سے فائدہ۔ دل لگی کے کاموں میں زیادہ لگے۔ دشمن ناش۔ عورت سے سکھ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۴-۱۵-۱۹ تاریخ خراب ہے۔

دھن



کاروبار بدرجہ اوسط۔ راج دربار میں کامیابی۔ بھائیوں و خویشوں سے نقصان۔ دوستوں سے ملاپ۔ آنکھوں میں تکلیف۔ عورت سے جھگڑا۔ دھن خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۱۰-۱۱-۱۳-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

مکر



کاروبار میں دھن کا لابھ۔ دشمن ناش۔ بھائیوں کا سکھ۔ دوستوں سے ملاپ۔ سیر باغ کا شوق زیادہ۔ سفر میں جانے سے دھن کا خرچ۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ۔ خویشوں سے رنجش۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۵-۱۵-۲۰-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

کمبھ



کاروبار میں کشمکش۔ دھن کا لابھ ہو۔ راج دربار میں مان۔ امید پوری۔ دشمن ناش ہو۔ سے رنجش۔ اولاد کو کشٹ۔ دوستوں سے ملاپ۔ صفراوی روگ سے کشٹ۔ کوئی ترقی کی خبر ملے۔ اس ماہ کی ۳-۴-۱۰-۱۲ تاریخ خراب ہے۔

مین



کاروبار بدرجہ اوسط۔ دھن کا لابھ معمولی ہو۔ دھرم کے کاموں میں دل نہ لگے۔ عورت بیمار۔ راج دربار سے امید پوری۔ سفر میں جانے سے کچھ فائدہ ہو۔ دل کو فکر و تشویش لگی رہے۔ اس ماہ کی ۸-۹-۲۰ تاریخ خراب ہے۔

منتر و دیا کے کرشمات

کسی کو محبت میں دیوانہ کرنا

جھنوے کے دونوں پر، طوطے کا گوشت اور اپنے کان کی میل ان تینوں چیزوں کو لیکر اور تھوڑا سا اپنی انامکا انگلی کا خون اس میں ملا کر خوب رگڑ کر اس کی گولی باندھ لیں اور بروز شنبہ وار اس گولی میں بقدر ایک رتی لیکر پان میں رکھ کر جس عورت کو کھلا دیوے گے وہ تم پر دل و جان سے فریفتہ ہو گی۔ اور جدائی ہرگز برداشت نہ کرے گی۔

حب کا کاجل

(۱) گدھے کی دونوں آنکھیں اور سیاہ اُلو کی دونوں آنکھیں لیکر ان کو روغن سرشف میں رگڑ کر حل کریں اور پھر اس روغن کو کھیتر میں چراغ گلی میں ڈال کر روئی کی بتی بنا کر اس میں رکھ کر اس کی سیاہی اتار لیں۔ اور پھر اس میں مکھن ملا کر کاجل تیار کر لیں۔ اس کاجل کو آنکھوں میں لگا کر جو شخص نزد محبوب جائیگا۔ وہ اس سے بدرجۂ کمال محبت سے پیش آئیگا۔ اور دیکھتے ہی اس پر موہت ہو جاوے گا۔

(۲) اُلو کی دونوں آنکھیں۔ بنس لوچن اور گھیکوار ان سب اشیاء کو خوب حل کر لیوے۔ اور روئی میں لپیٹ کر اس کی بتی بنا کر چراغ گلی میں بتی رکھ کر گائے کا گھی ڈال کر چراغ روشن کرے اور سیاہی اتارے۔ جب تک چراغ جلے اس کے سامنے بیٹھ کر یہ منتر پڑھتا رہے۔ (اوم۔ نمو بھا کچھی کے رام دشتی مان سواہا) پھر اس میں مکھن ملا کر آنکھ میں لگا دے۔ اور محبوب کے سامنے جاوے۔ تو وہ محبت میں فریفتہ اور دل و جان سے مطیع ہو۔

اپنی مرضی سے اولاد پیدا کرنا

(۱) کرشن پکش کے روز کی جڑ کا تعویز بنا کر جو عورت پوشیدہ طور پر کمر میں باندھ رکھے وہ حاملہ نہ ہو۔

(۲) سانپ کے دانت باندھ رکھے تو بھی حاملہ نہ ہو۔

(۳) مینڈک کی ہڈی کمر میں باندھے تو کبھی اسکو ہرگز حمل نہ ٹھیرے۔

(۴) ہاتھی کی لید لیکر سایہ میں خشک کر کے اسکی ایک چٹکی نیل ہمراہ شربت کھانا مانع حمل ہے۔

(نوٹ) اگر آپکو اس قسم کے سینکڑوں منتر لکھنے مطلوب (محبت پیدا کرنے۔ عداوت ڈالنے اور تاثیرات دکھانا بات کا مفصل بیان) دو طلب فرما کر سینکڑوں ہو۔ تو آپ رسالہ موہنی منتر منگوا کر ملاحظہ فرماویں قیمت صرف ۱۲ محصولڈاک ۴ کل ایک روپیہ

ملنے کا پتہ

مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

بارہ راشیوں کا ماہواری پھلادیش یعنی نیک و بد حالات معہ گرہ استھائے بابت ماہ پوہ سمت ۱۹۹۳ بکرم

میکھ


۱۲
۲
۱۱ سنیچر
۳ کیت
۱
۱۰ شکر
۴
۵
۷
۶ منگل
۸
۹ راہو برہسپت چندرماں

کاروبار درجہ اوسط لابھ کم ہو۔ دشمن مغلوب راج دربار سے مان مرتبہ بلند۔ سفر میں آرام دھرم کی ہانی۔ عورت سے جھگڑا۔ بری صحبت سے دلی امیدوں میں کامیابی۔ صحت اچھی ہے اس ماہ کی ۱۲-۱۳-۲۱-۲۲ تاریخ خراب ہے۔

برکھ


۳ کیت
۱
۴
۲
۱۲
۱۱ سنیچر
۵
۶ منگل
۸
۱۰ شکر
۷
۹ راہو برہسپت چندرماں

کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا اگر بھائیوں سے رنجش۔ راج دربار سے خوف اولاد کو تکلیف۔ دل کو فکر و تشویش۔ دھرم کے کاموں میں خیال زیادہ۔ دشمن ناش۔ مسافر جہاں سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۴-۲۳-۲۴-۳۰ تاریخ خراب ہے

متھن


۴
۳ کیت
۲
۵
۱
۶ منگل
۱۲
۷
۹ راہو برہسپت چندرماں
۱۰ شکر
۱۱ سنیچر
۸

تجارتی کاموں میں لابھ۔ تردد دل مٹے راج دربار میں ترقی۔ مرتبہ بلند۔ والدین کو کشٹ سفر میں تکلیف۔ دوستوں سے بگاڑ۔ عورت بیمار۔ بیٹے میں روگ۔ اولاد بابت میں دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ فکر لگا ہے۔ اس ماہ کی ۸-۹-۱۳-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

کرک


۵
۳ کیت
۶ منگل
۴
۲
۷
۱
۸
۱۰ شکر
۱۲
۹ راہو برہسپت چندرماں
۱۱ سنیچر

تجارت میں فائدہ۔ دھن لابھ ہوگا۔ دشمن پیدا ہوں۔ لیکن خود بخود ناش ہو جائیں۔ بھائیوں سے رنجش اولاد سے سکھ۔ عورت سے محبت زیادہ۔ راج دربار سے لابھ۔ سفر میں فائدہ ہو اس ماہ کی یکم-۳-۲۱-۲۲-۲۸ تاریخ خراب ہے۔

سنگھ


۶ منگل
۴
۷
۵
۳ کیت
۸
۲
۹ راہو برہسپت چندرماں
۱۱ سنیچر
۱
۱۰ شکر
۱۲

کاروبار درجہ اوسط۔ آمدن خرچ برابر ہے دشمنوں کی طرف فکر و اندیشہ لگا رہے اولاد کو تکلیف۔ عورت بیمار۔ اگنی دیوتا سے نقصان کا اندیشہ ہے۔ بیماری میں دھن کا خرچ ہو۔ اس ماہ کی ۳-۵-۷-۲۲-۳۰ تاریخ خراب ہے۔

کنیا


۷
۵
۸
۶ منگل
۴
۹ راہو برہسپت چندرماں
۳ کیت
۱۰ شکر
۱۲
۲
۱۱ سنیچر
۱

کاروبار میں ترقی نہ ہو۔ دھن کا خرچ زیادہ۔ والدین کو کشٹ۔ دشمن مغلوب دوستوں سے بگاڑ۔ سفر میں جانے سے جھگڑا و فساد ہو جاوے۔ چوپائے کا سکھ۔ عورت کی صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی ۲-۷-۱۲-۱۷-۱۸ تاریخ خراب

تلا


۸
۶ منگل
۹ راہو برہسپت چندرماں
۷
۵
۱۰ شکر
۴
۱۱ سنیچر
۱
۳ کیت
۱۲
۲

کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہو۔ دھن کا خرچ زیادہ ہو۔ راج دربار میں مان۔ جھگڑے میں کامیابی۔ امید پوری۔ دشمن ناش۔ والدین کو کشٹ۔ عورت سے سکھ۔ اولاد کی طرف سے فکر لگا ہے اس ماہ کی یکم-۳-۵-۱۳-۲۸-۲۹ تاریخ خراب

برچھک


۹ راہو برہسپت چندرماں
۷
۱۰ شکر
۸
۶ منگل
۱۱ سنیچر
۵
۱۲
۳
۴
۱
۳ کیت

کاروبار درجہ اوسط۔ دھن کا لابھ ہو لیکن کبھی دشمن کی کارستانی سے کچھ دھن کی ہانی ہوگی۔ پورو اگنی سے بھی خطرہ ہو جاوے۔ والدین سے بگاڑ۔ دوستوں سے امداد ملے۔ بھائیوں سے رنجش۔ دھن کی تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۸-۱۱-۱۲-۱۴ تاریخ خراب

دھن


۱۰ شکر
۹ راہو برہسپت چندرماں
۸
۱۱ سنیچر
۷
۶
۱۲
۶ منگل
۱
۳ کیت
۵
۲
۴

کاروبار میں کشٹ لیکن تجارتی کاروبار میں لابھ ہو۔ امیدوں میں کامیابی۔ دشمنوں کا ناش۔ عورت سے کلیش۔ سفر میں جانے سے تکلیف۔ وزیر بیماری ہو۔ دل کو فکر و تشویش لگی ہے۔ نزلہ و زکام سے تکلیف ہو۔ اس ماہ کی ۷-۸-۱۰-۲۰ تاریخ خراب

مکر


۹ راہو برہسپت چندرماں
۱۱ سنیچر
۱۰ شکر
۱۲
۸
۱
۷
۲
۴
۶ منگل
۳ کیت
۵

کاروبار مدہم۔ دھن کا لابھ تھوڑا ہوگا راج دربار میں ناکامیابی۔ دشمن پیدا ہو جاویں۔ سفر میں جانے سے مایوسی اور دھن ہانی ہو۔ خویشوں سے لڑائی جھگڑا۔ عورت سے محبت۔ صحت خراب رہے۔ اس ماہ کی یکم-۱۲-۱۸-۱۹-۲۶ تاریخ خراب ہے۔

کنبھ


۱۲
۱۱
۱۰ شکر
۱
۱۱ سنیچر
۹ راہو برہسپت چندرماں
۲
۸
۳ کیت
۵
۷
۴
۶ منگل

کاروبار میں رکاوٹ۔ دھن کی ہانی ہو۔ خرچ بہت زیادہ لگا رہے جس ذریعہ بار بار ہو جاتے۔ بیماری کا سایہ ملے۔ بواسیر سے تکلیف۔ اولاد سے بگاڑ فکر لگا رہے۔ عورت بیمار۔ نوکری کا توقف اگنی سے۔ اس ماہ کی یکم-۲-۵-۹-۲۸-۲۹ تاریخ خراب ہے

مین


۱
۱۱ سنیچر
۱۰ شکر
۲
۱۲
۳ کیت
۹ راہو برہسپت چندرماں
۴
۶ منگل
۸
۵
۷

کاروبار میں ترقی۔ دھن کا لابھ۔ راج دربار میں مان۔ دشمن ناش ہوں۔ کبھی دوست کا ملاپ۔ عورت کی صحت خراب۔ اولاد میں دھن کا خرچ زیادہ۔ امیدوں میں کامیابی ہو۔ سفر میں کشٹ ہو۔ اس ماہ کی ۲-۵-۱۵-۱۷ تاریخ خراب ہے

پیشنگوئی بذریعہ آسمانی علامات

بارہ مہینوں کا ثمرہ

سلسلہ کیلئے دیکھو مشہور عالم جنتری سال گذشتہ

ماہ ہاڑ بدی پکھ

اگر یکم کو پچھم سے بادل گرجے تو ساون میں بارش خوب ہو۔ اگر بروز اشٹمی چاند بادلوں میں چھپا رہے تو اس سال میں غلہ ارزاں اور بارش خوب ہو۔ اگر روہنی نچھتر دسمی کے روز ہو تو اس سال میں بارش کثرت سے ہو۔ اگر ایکادشی کو ہو تو فصل اچھا ہو۔ اگر ترودشی کے دن روہنی نچھتر ہو۔ تو آندھیاں کثرت سے آویں۔ طوفان باد سے بہت نقصان ہو۔ اگر چودش کو روہنی نچھتر ہو۔ تو اناج گراں۔ بارش کم۔ لوگوں کو تکلیف ہو۔ اگر اماوس بروز منگلوار ہو تو اس ماہ میں گھٹا چڑھے۔ بارش کم تر ہی ہو۔

ماہ ہاڑ سدی پکھ

اگر بروز دوتی پچھم کی ہوا چلے یا قوس قزح نظر آوے۔ تو غلہ ماہ کارتک میں گراں ہو۔ اگر چھٹ کے روز بجلی چمکے۔ تو اس سال میں فصل خوب ہو۔ اگر اشٹمی کو مطلع صاف رہے اور نومی کو بادل ہوں۔ تو ساون میں بارش خوب ہو۔ اگر نومی کے دن مطلع صاف رہے اور شام کو بادل ہوں۔ تو تمام ساون میں بارش بہت کثرت سے ہو۔

اگر پورنماشی کے دن بارش ہو تو غلہ گراں کرے۔

اگر پورنماشی کو پورب کی ہوا چلے۔ تو غلہ سستا ہو لے۔ چوپائے جانور بہت مریں۔ پچھم کی ہوا چلے تو لوگوں میں خوشی ہو۔ اگر دکھن کی ہوا چلے تو پھل پھول کا ناش کرے۔ اگر اتر کی ہوا چلے۔ تو بارش خوب ہو۔ غلہ ارزاں۔

اگر پورنماشی کو بادل گرجے۔ تو اس سال زراعت کی پیداوار خوب ہو۔ اگر رات کو آسمان صاف رہے۔ تو قحط سالی کی نشانی ہے۔

نوٹ

اگر آپ کو موسمی علامات کے ذریعہ غیب دانی سیکھنے کا شوق ہو۔ اور ہر قسم کے حالات کی نسبت آئندہ کی پیشنگوئیاں بلا امداد دیگرے کرنا چاہو۔ تو ہماری کتاب [illegible] آسمانی منگوا کر ملاحظہ کریں۔ قیمت فی جلد بارہ آنے محصول ڈاک چار آنے کل قیمت ایک روپیہ

ملنے کا پتہ

مینجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور

جوتش کے متعلق روزمرہ کی کارآمد باتیں

مہورت یاترا یعنی سفر

یہ نہایت ضروری اصول ہے۔ کہ سفر کے وقت دشا شول ھدرا جوگنی کال چکر کو ضرور دیکھ لینا چاہئے۔ تاکہ کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ کیونکہ اگر بوقت روانگی دشاشول یا جوگنی یا کال چکر سامنے یا دائیں ہوں۔ تو سخت نقصان اور موجب رنج ہوتے ہیں۔ اور چندرماں کا بوقت روانگی سامنے یا داہنے ہونا دلی مرادوں کو برلاتا ہے۔ اور سفر میں فائدہ ہوتا ہے۔ بشرطیکہ چندرماں کی پوشاک کا رنگ ناقص نہ ہو۔ لہذا سب کی جدولیں ذیل میں درج ہیں۔







نقشہ مقامات چھدرا

راس	میکھ، برکھ	کنیا، تلا	مکر، کمبھ
چندرماں	کرک، مکر	متھن، دھن	مین، برچھک
مقام	سورگ لوک	پاتال لوک	مرت لوک
نتیجہ	کامیابی	لابھ	حیرانی

نقشہ مقامات چندرماں

چندرماں در راس	میکھ، سنگھ، دھن	برکھ، کنیا، مکر	متھن، تلا، کمبھ	کرک، برچھک، مین
جائے سمت	پورب	دکھن	پچھم	اُتر
رنگ و پوشاک	سرخ	سفید	زرد	سیاہ
خواص	منافع اور حصول [illegible]	[illegible]	بیش قیمت [illegible]	[illegible]

سفر کے وقت نیک شگون

مندرجہ ذیل شگون سامنے سے آتے نیک ہوتے ہیں۔
گائے۔ گھوڑا۔ ہاتھی۔ سفید بیل۔ [illegible] برہمن۔ ناریل۔ دودھ۔ دہی۔ عورت بچوں کے ساتھ گود میں لئے ہو۔ پانی کا بھرا ہوا برتن۔ مچھلی۔ شراب۔ آئینہ۔ شہد۔ پالکی۔ باجہ۔ ذاکر وغیرہ۔

سفر کے وقت نحس شگون

مندرجہ ذیل شگون سامنے سے آتے نحس ہوتے ہیں۔
آگ جس سے دھواں نکلتا ہو۔ ہڈیاں۔ سانپ۔ تیل۔ بلی۔ گیروے کپڑے والا۔ لنگڑا۔ بیمار۔ برہنہ آدمی۔ دھوبی۔ غصہ ور آدمی۔ بیوہ عورت۔ حاملہ۔ حیض والی عورت۔

سفر کے لئے سعد نچھتر

جو نچھتر سفر کے لئے مندرجہ ذیل نچھتر سعد ہیں۔ اگر کوئی ضروری سفر ہو تو ان نچھتروں کو دیکھ کر کریں۔

سمت	نچھتر جو سمت کے لئے سعد ہیں	کیفیت
مشرق	اشونی۔ پشیہ۔ مرگ شرا۔ انورادھا۔ ہست۔ [illegible]	[illegible]
مغرب	[illegible] پوروا بھادرپد۔ [illegible]	[illegible]
شمال	[illegible] اترا بھادرپد۔ [illegible]	[illegible]
جنوب	[illegible] اترا پھالگنی۔ ہست۔ [illegible] سواتی [illegible]	[illegible]

چندرماں کی سواری دیکھنے کا طریقہ

معتقدان علم جوتش وقت سفر چندرماں کی سواری کا لحاظ بھی رکھتے ہیں جس کا کلیہ اصول ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

جس روز سفر کرنا ہو۔ اس روز دیکھو۔ کہ کون نچھتر ہے۔ پس اپنے جنم نچھتر سے یوم نچھتر تک شمار کرو۔ اور مجموعہ شمار کو ۹ پر تقسیم کر کے باقی کو نقشہ ذیل میں دیکھو۔ پس اس کے نیچے جو سواری لکھی ہے۔ اس روز وہی سواری چندرماں کی ہوگی۔ اور اس کا نیک و بد ثمرہ بھی اس کے زیریں لکھا ہے۔ دیکھ لو۔

تعداد اعداد	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
نام سواری	گدھا	گھوڑا	ہاتھی	بینڈھا	گیدڑ	شیر	کوا	مور	ہنس
نتیجہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

مثال۔ ایک شخص رام چندر کی تلا راس اور نچھتر سواتی ہے۔ اور بیکھا پربل کو ہست نچھتر میں وہ سفر کو جانا چاہتا ہے۔ اس روز کی سواری راس سے معلوم کرنی ہے پس سواتی نچھتر سے ہست ۲۷ نچھتر ہے۔ اس لئے ۲۶ کو ۹ پر تقسیم کیا۔ تو باقی آٹھ رہے۔ نقشہ مندرجہ بالا میں دیکھا۔ تو ۸ کے زیریں مور کی سواری درج ہے جو شبھ ہے پس اس روز سفر کرنے پر زر و مال کی ترقی اور طبیعت خوش رہے۔

سفر کے لئے سرابگ یوگ

جس وقت جانے کا ارادہ ہو۔ اس وقت کی تتھ و یوم و نچھتر اپنے نام کے حروف کو شمار کر کے جمع کرے یعنی تتھ کو پڑیوا سے۔ دن کو اتوار سے اور نچھتر کو اشونی سے شمار کرے اور اپنے نام اور یوم کے حروف گن کر سب کو جمع کر کے ۸ پر تقسیم کرے۔ اور باقی کچھ بچے تو جانے کہ نفع یوگ ہے اور پھر کل جمع کو ۳ سے ضرب دے کے ۷ پر تقسیم کرے۔ پھر یا سوم اسی مجموعہ کو ۲ سے ضرب کر کے ۳ پر تقسیم کرے اگر تینوں دفعہ کی تقسیم سے کچھ باقی بچتا ہے تو مبارک۔ اگر کچھ نہ بچے تو حیرانی و پریشانی۔ ارادہ ترک کرے۔

مہورت چوگھڑیا

دن کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

اگر کوئی مہورت سفر کے لئے نہ بنتا ہو۔ تو اس چوگھڑیا پر عمل کریں۔

یوم	اول	دوم	سوم	چہارم	پنجم	ششم	ہفتم	ہشتم
اتوار	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ
سوموار	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت
منگلوار	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ
بدھوار	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ
برہسپتوار	لابھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ
شکروار	چر	لابھ	امرت	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر
سنیچروار	کال	شبھ	روگ	ادیگ	چر	لابھ	امرت	کال

رات کی گھڑیوں کا چوگھڑیا

شب	اول	دوم	سوم	چہارم	پنجم	ششم	ہفتم	ہشتم
اتوار	شبھ	امرت	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ
سوموار	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر
منگلوار	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ	کال
بدھوار	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ
برہسپتوار	امرت	چر	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت
شکروار	روگ	کال	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ
سنیچروار	لابھ	ادیگ	شبھ	امرت	چر	روگ	کال	لابھ

شکر و برہسپت کے غروب ہونے پر ذیل کے کام کرنے ممنوع ہیں

باؤلی۔ چاہ و تالاب و باغ و مکان بنوانا۔ اور کاریہ آرمبھ اور عورتوں کا آنا جانا اور دان کلاں اور جگ۔ گئو دان کرنا۔ اور شادی۔ مونڈن۔ تیرتھ۔ یاترا۔ جنیو۔ بید خوانی۔ بچوں کا نام رکھنا۔ سنیاس کرم۔ ملاقات۔ ملوک۔ راج تلک۔ مسند نشینی۔ شادی وغیرہ وغیرہ کاریہ آرمبھ کرنے منع ہیں۔ اور ماہ لوند میں بھی یہ کام نہیں کرنے چاہئیں۔

شکر کے مقابل یعنی سنمکھ ہونے کے دوش

شکر تین طرح سے سنمکھ سمجھا جاتا ہے۔ اول جس طرف کا شکر طلوع ہوتا ہے۔ دوم جس راشی میں ہو۔ وہ راس جس جہات سے منسوب ہے۔ وہ طرف بھی سنمکھ سمجھی جاتی ہے۔ میکھ سنگھ۔ دھن پورب اور برکھ۔ کنیا و مکر دکھن۔ متھن۔ تلا۔ کمبھ۔ پچھم اور کرک۔ برچھک و مین اتر سے متعلق ہیں۔ سوم اگر سورج اترائن ہو۔ تو شکر اترائن اور دکھشائن ہو تو دکھشائن ہو جاتا ہے۔ پس مجموعاً ان تین طرح کے زیادہ تر جس طرف شکر ادوے ہو جاوے اس طرف جانا درست نہیں۔ بلکہ شاستر داں کہتے ہیں کہ جب شکر غروب اور بکری ہو اس کے وقت بھی سفر نہ کرنا چاہئے۔ مگر شکر ریوتی نچھتر سے کرتکا کے پہلے چرن تک اندھا رہتا ہے۔ اس وقت میں سنمکھ جانے کا کوئی دوش نہیں۔ خصوصاً عورتوں کے لئے شکر کا دوش ضروری ہے۔ پس عورتوں کو سنمکھ داہنے [illegible] یاترا ہرگز نہ کرنی چاہئے۔

پنچک نچھتروں کی خاصیت

پانچ نچھتر یعنی نصف آخر دھنشٹا۔ ست بھکا۔ پوربا بھادر پد۔ اترا بھادر پد۔ ریوتی پنچک کہلاتے ہیں۔ ان میں مردہ جلانا۔ مکان پر چھت ڈالنا وغیرہ وغیرہ ممنوع ہیں۔ مگر ہندی منجموں کا قول ہے۔ اگر [illegible] میں مولا نچھتر میں بھرنی۔ [illegible] میں [illegible] میں روہنی۔ [illegible] میں اشلیکھا نچھتر ہوں۔ جو لڑکا یا لڑکی ان میں پیدا ہو۔ جلد مر جاوے۔ اگر گاؤں آباد ہو۔ تو جلد ویران ہو جاوے۔ اگر بیاہ ہو۔ تو دلہن بیوہ ہو جاوے۔ بیمار شفا نہ پاوے۔ سفر سے مراد حاصل نہ ہو۔ ان نچھتروں کو جوالا مکھی کہتے ہیں۔

تتھوں کے اقسام

تتھوں کے اقسام پانچ ہیں۔ جن کے نام ذیل میں درج ہیں۔

اقسام	نندا	بھدرا	جیا	رکتا	پورنا
تتھ	ایکم چھٹھ ایکادشی	دوج ستمی دوادشی	ترتیہ اشٹمی ترودشی	چوتھ نومی چودس	پنچمی دسمی پورنماشی

شکل پکش کی نندا اور رکتا کی تتھیں [illegible] ناقص ہیں۔ بھدرا اور پورنا مدھم ہیں۔ اور جیا [illegible] ہیں۔ کرشن پکش کی [illegible] اور [illegible] بھدرا اور پورنا [illegible] ہر کام کے آرمبھ سے شروع کرتے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

ناقص یوگوں کا چکر

جس روز دن و نچھتر دونوں اس نقشہ کے مطابق ہوں اس روز کوئی شبھ کام نہ کرو۔

یوم	اتوار	سوموار	منگلوار	بدھوار	ویروار	شکروار	سنیچروار
نچھتر	بشاکھا بھرنی مگھا دھنشٹا اترا کھاڈ	پوربا کھاڈ اترا کھاڈ چترا سواتی بشاکھا	اترا کھاڈ آردرا دھنشٹا ست بھکا پوربا بھادر پد	دھنشٹا بھرنی مولا ریوتی اشونی	ست بھکا کرتکا روہنی مرگ شرا آردرا اترا پھالگنی	روہنی جیشٹا [illegible] بشاکھا	پوربا پھالگنی اترا کھاڈ چترا ہست ریوتی اترا پھالگنی
تتھ	ستمی دوادشی [illegible]	چھٹھ ایکادشی [illegible]	دوج دسمی	ایکم نومی [illegible]	[illegible] اشٹمی نومی	دوج [illegible]	[illegible] ستمی

ایام بیماری و حیات و ممات معلوم کرنا

نچھتر کشٹاولی

ہر ایک نچھتر کے چار چرن حصے ہیں جب کوئی آدمی بیمار ہو تو اس روز جنتری میں دیکھیں کہ کون نچھتر ہے پس اس نچھتر کی کل گھڑیاں نکال کر اس کے چار حصے کرو اور دیکھو کہ کونسے چرن کا کشٹ ہے۔ صفر نشان موت ہے۔ وہ چیزیں اس کا اپاؤ لکھے کرادو۔ ایشور شفا دے گا۔

نام نچھتر	تعداد کشٹ				اپاؤ دان
	چرن اول	چرن دوم	چرن سوم	چرن چہارم	
اشونی	۹	۰	۳	۲۱	[illegible]
بھرنی	۰	۴۰	۳	۲۱	تیل
کرتکا	۲	۳۱	۷	۲۱	سونا
روہنی	۷	۵	۱۱	۳۰	گھی
مرگ شرا	۳	۶	۲۵	۷	[illegible]
آردرا	۰	۸	۰	۳	[illegible]
پنرپس	۵	۳۱	۲	۳۷	تل
پکھ	۷	۳۱	۲	۱۲	چاول
اشلیکھا	۰	۰	۰	۴۰	[illegible]
مگھا	۴۰	۱۳	۲۷	۳۰	[illegible]
پوربا پھالگنی	۱۰	۷	۱۴	۱۳	[illegible]
اترا پھالگنی	۱۵	۶	۱۷	۱۳	[illegible]
ہست	۱۸	۱۷	۱۲	۱۳	[illegible]
چترا	۱۵	۱۴	۷	۴۲	[illegible]
سواتی	۶	۰	۱۴	۱۰	[illegible]
بشاکھا	۱۰	۱۵	۱۳	۴	سونا
انورادھا	۱۰	۴۵	۱۳	۲۰	[illegible]
جیشٹا	۱۵	۴۸	۱۱	۴	تل
مولا	۱۰	۴۶	۲۵	۱۴	چاول
پوربا کھاڈ	۳۰	۲۶	۲۵	۱۱	[illegible]
اترا کھاڈ	۲۸	۱۷	۲۵	۱۵	[illegible]
شرون	۳۰	۴۸	۳۴	۱۳	[illegible]
دھنشٹا	۰	۰	۰	۳۰	[illegible]
ست بھکا	۱۵	۱۰	۲۵	۶	[illegible]
پوربا بھادر پد	۱۵	۲۵	۳۰	۰	[illegible]
اترا بھادر پد	۰	۶	۱۵	۲۳	[illegible]
ریوتی	۳۱	۳۷	۱۵	۰	[illegible]

زندگی و موت دیکھنا

اگر کسی بیمار کی زندگی اور موت کا حال دیکھنا ہو تو چاہئے کہ اس کے نام کے اعداد دیکھ کر ایک جگہ لکھو اور پھر جس روز بیمار ہوا ہو۔ اس روز سے جتنے ایام اس روز تک گذرے ہوں ان میں جمع کرو۔ اور کل جمع کو ۳۰ پر تقسیم کردو۔ جو باقی رہے اسے لوح حیات و ممات میں دیکھو۔ اگر لوح حیات میں ہوں تو زندہ۔ اگر لوح ممات میں ہوں۔ تو مر جاوے۔ [illegible]

لوح حیات

۱	۳	۸
۱۰	۱۳	۱۴
۵	۱۶	۱۷
۱۹	۲۲	۲۰
۲۵	۲۶	۲۹

لوح ممات

۲	۴	۵
۶	۷	۹
۱۱	۱۲	۱۸
۲۱	۲۳	۲۴
۲۷	۲۸	۳۰

ناقص گرہ کا اپاؤ

اکثر معتقدان علم جوتش ناقص گرہ اور برج نحوست کے لئے اپاؤ وغیرہ کے لئے استفسار فرماتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک گرہ کا دان و جپ اور اس کا منتر ذیل میں مفصل طور پر درج کر دیا گیا ہے۔ جس گرہ کا ناقص ہو [illegible]

نام گرہ	تفصیل اشیاء دان	منتر	تعداد جپ
سورج	تانبا۔ گڑ۔ گیہوں۔ سونا۔ کپڑا سرخ۔ چندن۔ لال پھول	[illegible]	۷ ہزار
چندرما	موتی۔ چاندی۔ چاول۔ کپور۔ سفید کپڑا۔ [illegible]	[illegible]	۱۱ ہزار
منگل	مونگا۔ گڑ۔ گیہوں۔ سونا۔ تانبا۔ پھول۔ چندن سرخ۔ کپڑا	[illegible]	۱۰ ہزار
بدھ	کانسی۔ مونگ۔ گھی۔ [illegible]	[illegible]	۹ ہزار
برہسپت	ہلدی۔ [illegible]	[illegible]	۱۹ ہزار
شکر	ہیرا۔ ریشم۔ چاندی۔ چاول۔ دودھ۔ گھی	[illegible]	۱۶ ہزار
سنیچر	تیل۔ [illegible] لوہا۔ کالا کپڑا۔ [illegible]	[illegible]	۲۳ ہزار
راہو	[illegible]	[illegible]	۱۸ ہزار
کیتو	کستوری۔ [illegible]	[illegible]	۱۷ ہزار

گنڈانت نچھتروں کا بچار

اشنی۔ ڈا۔ مگھا ہر سہ نچھتر کے اول کی ۳ گھڑی اور جیشٹا و اشلیکھا و ریوتی نچھتر کے آخر کی ۳ گھڑی گنڈانت کہلاتی ہیں۔ جو شبھ کاموں میں ناقص ہیں۔ اگر اس میں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو۔ تو ناقص ہے۔

لڑکے کے پیدا ہونے کی خاصیت

اگر مولا نچھتر کے اول چرن میں پیدا ہو تو والد کا۔ دوسرے چرن میں پیدا ہو تو والدہ کا۔ تیسرے چرن میں پیدا ہو۔ تو دولت کا ناش کرتا ہے۔ اگر اشلیکھا کے چرن اول میں پیدا ہو۔ تو مبارک۔ دوسرے میں پیدا ہو۔ تو دولت کا نقصان کرے۔ تیسرے میں والدہ اور چوتھے میں والد کا نقصان کرے +

لڑکے کے دانت نکلنے کا ثمرہ۔ اگر پہلے ماہ میں بچے کے دانت نکلیں تو مر جاتا ہے ۲ ماہ میں چھوٹے بھائی کو ضرر دے۔ ۳ ماہ میں ہمشیرہ کو ناقص ۴ ماہ میں والدہ کی نسبت غالب ہو۔ ۵ ماہ میں برادران کلاں کو ناقص۔ ۶ ماہ میں عمر بھر خوش گذران رہتا ہے۔ ۷ و ۸ ماہ میں والدین کو آرام ملے۔ ۹ ماہ میں بیمار رہے۔ ۱۰۔ ۱۱ میں دولتمند ہو (نوٹ) بشرطیکہ بچے کے دانت نکلنے کا ہے۔ اگر ان دس مہینوں میں اوپر کے دانت نکلیں۔ تو والدین اور بھائیوں کو ناقص ہے۔

لڑکی کی پیدائش کی خاصیت

اگر لڑکی مولا نچھتر میں پیدا ہو۔ تو خوش دامن۔ اگر اشلیکھا میں ہو۔ تو خسر اگر جیشٹا میں ہو تو جیٹھ۔ اگر بشاکھا میں ہو۔ تو دیور اس کو مر جاوے۔ مگر بشاکھا کے اول کے ۳ چرنوں اور اشلیکھا کے اول چرن اور مولا کے آخر چرن میں پیدا ہو تو کوئی نہ مرے۔

نقشہ اندھہ مندہ نچھتر

پوری گئے ہوئے مال کا حال دیکھنے کیلئے

قسم نچھتر	نام نچھتر	چوری کی طرف گئی	کیفیت
اندھے	روہنی۔ پکھ۔ پتا کھا۔ دھنشٹا ریوتی۔ پوربا بھادر پد۔ اترا پھالگنی	پورب کو	جلد ملے
کانے	مرگشرا۔ اشلیکھا۔ ہست۔ انرادہا ست بکھا۔ اشنی۔ اترا کھاڈہ	دکھن کو	۳ دن کے بعد ملنے کی امید ہے
چپٹے	آرادرا۔ مگھا۔ چترا۔ جیشٹا۔ بھرنی پوربا کھاڈ ربد	پچھم کو	کوشش کرنے پر ایک ماہ تک مل جاوے
سجاکھے	پنربس۔ سواتی۔ مولا۔ شرون۔ کرتکا پوربا پھالگنی۔ اترا بھادر پد	اتر کو	ہرگز نہ ملے

ترپشکر یوگ

اگر منگلوار سنیچروار۔ اتوار کو دوج۔ سپتمی یا دوادشی تتھ ہو۔ اور ساتھ ہی روز بشاکھا۔ اترا پھالگنی یا اترا بھادر پد نچھتروں میں سے کوئی نچھتر ہو۔ تو اس روز ترپشکر یوگ ہوتا ہے۔ جو منحوس ہے۔ اسکے بارے میں لکھا ہے کہ ایسے یوگ میں اگر کسی گھر میں موت ہو جاوے۔ تو پھر اس کے بعد جلد ہی اس گھر میں دو موتیں اور ہوں۔ اگر چوری ہو جاوے۔ تو دو مرتبہ پھر چوری ہو۔ غرضیکہ جو مصیبت ایسے وقت میں پیش آوے۔ وہ دو مرتبہ پھر ہو +

ہر کام میں کامیابی اور ناکامیابی دیکھنے کا طریقہ

روایت ہے کہ بادشاہ سکندر ہر مہم میں اس طریقہ پر عمل کر کے فتح و نصرت پاتا تھا۔ پس لڑائی جھگڑے یا مقدمات میں دیکھنا چاہیئے کہ کون غالب اور کون مغلوب ہوگا۔ بلکہ ہر کام میں اس کا دیکھنا ضروری ہے۔

مثلاً عورت و خاوند میں خاوند غالب اور عورت مغلوب ہونی چاہیئے پس جو شخص اس قاعدہ پر عمل کر کے اپنے آپ کو غالب اور طرف ثانی کو مغلوب دیکھ کر کام کرے گا۔ وہ ہر مراد میں کامیابی اٹھائیگا۔

طریقہ یہ ہے کہ غالب مغلوب کے نام کے حروف مفرد الگ کر کے حسب نقشہ ذیل اعداد نکالے۔

ا	ب	ج	د	ہ	و	ز	ح	ط	ی	ک	ل	م	ن
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰
س	ع	ف	ص	ق	ر	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ
۶۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰

پھر ایک نام کے اعداد کو علیحدہ علیحدہ جمع کر کے ہر ایک کو ۹ پر تقسیم کرے۔ اگر دونوں ناموں کے اعداد باقی طاق رہیں۔ تو جس کے اعداد کم ہونگے۔ وہ غالب رہیگا۔ اور اگر ایک آدمی کے طاق اور دوسرے کے جفت رہیں گے تو جس کے اعداد زیادہ ہونگے۔ وہ غالب رہیگا۔ اگر دونوں کے مساوی رہینگے تو جو عمر میں چھوٹا رہیگا۔ وہ غالب ہوگا۔

امرت یوگ ہر کام کو سعد ہے								انگوٹک یوگ ہر کام کو نحس ہے							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

سربارتھ سدھ یوگ چکر

ہر کام کے لئے مبارک ہے

یوم	اتوار	سوموار	منگلوار	بدھ وار	ویروار	شکروار	سنیچروار
	مولا پکھ اشنی ہست ہر سہ اترا	روہنی مرگشرا پکھ انرادہا شرون	اشنی کرتکا اشلیکھا اترا بھادر پد	روہنی ہست کرتکا مرگشرا انرادہا اشلیکھا	ریوتی انرادہا اشنی پنربس پکھ	شرون انرادہا اشنی پنربس ریوتی پوربا پھالگنی	شرون سواتی روہنی

سفر کے لئے مبارک یوگ

سفر کے وقت دیکھنا چاہیئے۔ کہ سورج کس نچھتر پر ہے۔ اور چندرماں کس نچھتر پر ہے۔ پس سورج کے نچھتر سے چندرماں کے نچھتر تک شمار کرو۔ اگر شمار میں چوتھا۔ چھٹا۔ نواں۔ دسواں یا بارھواں ہو۔ تو سفر کیلئے نہایت مبارک ہے۔ ایسے وقت میں یوگنی دشا شول وغیرہ کا کوئی دوش نہیں ہے۔

گمشدہ چیزوں کا حال دیکھنا

اگر مگھا نچھتر سے اترا پھالگنی تک کوئی چیز گم ہو جاوے۔ تو جلد مل جاوے۔ اگر ہست سے دھنشٹا تک گم ہو۔ تو لینے والا نہ دیوے۔ اگر ست بکھا سے بھرنی تک چلی جاوے۔ تو گھر میں پڑی ہے۔ تلاش کرو۔ اگر کرتکا سے اشلیکھا تک گم ہو تو ہرگز نہ ملے۔

چوپایہ۔ سورج سے ۹ نچھتر تک گم ہو تو جنگل میں ہے اگر ۱۸ نچھتر تک ہو تو گھر کے باہر اگر ۲۷ نچھتر تک گم ہو۔ تو واپس نہ آئے۔ اگر تین نچھتر تک ہو گیا ہو۔ تو مردہ جاننا چاہیئے۔

ہزاروں سوالات کا ایک جواب!

ملک کے ہر حصے میں ہزاروں لاکھوں آدمی ایسے موجود ہیں جو ہمیشہ یہ بات دریافت کرتے رہتے ہیں کہ اس زمانہ میں طاقت مردمی یعنی مردانہ بیماریوں کیلئے عمدہ سے عمدہ اور نہایت زود اثر دوائی کونسی ہے جس کے استعمال سے ایک مرد حقیقی معنوں میں مرد بن جائے۔ لہٰذا تمام ایسے لوگوں کی واقفیت کیلئے اطلاع دی جاتی ہے کہ آج کل امریکن میڈیسن کمپنی نے ان بیماریوں کیلئے جو عجیب و غریب دوائی ایجاد کی ہے اور جس کا نام گولڈین ہے۔ یہ دوائی طاقت مردمی کیلئے ایک ایسی لاجواب دوا ہے جو کبھی خطا نہیں کرتی اور جس کی نسبت دنیا کی رائے ہے کہ یہ دوا نہیں بلکہ جادو ہے جو ناتوانوں کا پلٹ کر دیتی ہے۔ اس دوائی کے مختصر حالات حسب ذیل ہیں

گولڈین کیا ہے؟

(۱) گولڈین اس زمانہ کی ایک جادو اثر ایجاد ہے۔ اور دنیا بھر میں طاقت مردمی یعنی قوت باہ کی لاثانی دوا ثابت ہوئی ہے۔

(۲) اس دوائی کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے سند یافتہ بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایک لمبے عرصہ کی چھان بین اور تجربہ کے بعد تجویز کیا ہے اور امریکن میڈیسن کمپنی نے اس تحقیقات اور تجربہ [illegible] ہیں

(۳) کمپنی نے اس دوائی کو تیار کرنے کے پہلے ہزاروں نسخوں پر تجربہ کیا ہے اور [illegible] ملک کے سامنے پیش کیا ہے۔

(۴) اس دوائی میں [illegible] شامل کی گئی ہے جس کو دنیا بھر کے تمام ڈاکٹر انسانی کمزوری کیلئے اکسیر اور تریاق مانتے ہیں یعنی اس دوائی میں پہلی چیز گولڈ کلورائیڈ یعنی سونے کا انگریزی کشتہ شامل کیا گیا ہے۔ جو دل دماغ جگر اور اعضائے مردانہ میں نئی روح اور نئی زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز [illegible] انگریزی [illegible] فولاد شامل کیا گیا ہے جو [illegible] قوت دے کر نیا خون پیدا کرتا ہے۔ تیسری چیز [illegible] فولاد اور کونین کا مرکب شامل کیا ہے جو جگر معدہ اور پٹھوں کو مضبوط کر کے خون پیدا کرتا ہے۔ اور بدن کی عام کمزوری کو دور کرتا ہے۔

چوتھی چیز [illegible] شامل کی گئی ہے جو [illegible] اور سونے سے بھی زیادہ قیمتی اور زیادہ زود اثر ہے۔ پانچویں چیز مسک یعنی انگریزی کستوری شامل کی گئی ہے جو نہایت مسکن [illegible]

چھٹی چیز فاسفورس شامل کیا گیا ہے جو [illegible] سال کی مردہ رگوں میں بجلی کی سی لہر پیدا کر دیتا ہے [illegible] شامل کئے گئے ہیں جن کو دنیا کے تمام ڈاکٹر قوت مردمی کے لئے اکسیر [illegible] استعمال کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے علاوہ [illegible] ایسی زبردست طاقت والی چیزیں ملائی گئی ہیں جو سوائے کمپنی کے مالک کے اور کسی کو معلوم نہیں ہیں

(۵) اس دوائی یعنی گولڈین کے استعمال سے سستی نامردی جریان (یعنی [illegible]) سرعت (یعنی [illegible]) کثرت [illegible] احتلام (یعنی خواب میں [illegible]) اور نتیجہ یہ کہ تمام مردانہ بیماریاں جڑ سے دور ہو جاتی ہیں [illegible]

(۶) [illegible] اس دوائی کی [illegible] قیمت صرف چار روپیہ

گولڈین اسپیشل

[illegible]

سول ایجنٹ۔ جنرل منیجر سٹار فارمیسی۔ فاروق گنج۔ لاہور

اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے!

تو آپ کا فرض ہے کہ [illegible] حسن اور صحت کی حفاظت کریں۔ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عورت کے حسن اور صحت کو برباد کر دینے والی وہ خوفناک بیماری ہے جس کو سیلان الرحم کہا جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ عورت کے اندام نہانی سے سفید، زرد یا نیلے رنگ کی رطوبت بہتی رہتی ہے جس سے عورت کی صحت اور حسن و جوانی کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ سر چکراتا، کمر درد کرتی اور بدن ٹوٹتا رہتا ہے۔ رنگ زرد، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ضعف [illegible] زیادہ آ جاتا ہے۔ حمل قرار نہیں پاتا۔ اور اگر قرار پا جائے تو قبل از وقت گر جاتا ہے بلکہ [illegible] اور زیادہ تر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ موذی مرض اندر ہی اندر جسم کو [illegible] کھا جاتا ہے۔ اس خوفناک بیماری [illegible] نیوالف [illegible] پوشیدہ بیماریوں [illegible] ڈاکٹروں [illegible] صحت اور اولاد [illegible] شباب [illegible]

نیوالف سے بہتر کوئی دوا نہیں

[illegible] نیوالف [illegible] استعمال کیجئے [illegible]

عورت حسن و شباب

[illegible]

ایک خاص تحفہ

[illegible]

بال عمر بھر نہ اگنے کی دوا

[illegible]

جوانی کی بہار

مندرجہ ذیل ادویات کی تمام خوبیاں بغیر تجربہ کرنے کے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ زیادہ تشریح خلاف تہذیب ہے

محبوب جگر بند

تعریف نام سے ظاہر ہے۔ ضرورت سے صرف ایک گھنٹہ پہلے ایک گولی استعمال کیجئے۔ طاقت اس قدر پیدا ہوگی کہ آپ ایک ہی گھنٹہ کے اندر جوانی کی تمام قوتیں زندہ ہو جائیں گی۔ اور احساس اس قدر کہ گویا جادو ہو گیا۔ دنیا کی کوئی دوا اس خاص صفت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چند روز کے متواتر استعمال سے مرض سرعت ہمیشہ کے لئے دور ہو جاتا ہے۔ اور لطف یہ کہ اس میں کوئی نشہ دار چیز نہیں ہے۔ قیمت فی درجن گولیاں صرف دو روپے (عہ)

* * *

طلائے آسمان سیر

یہ خاص الخاص طلا ہے۔ ضرورت کے وقت استعمال کیجئے میاں بیوی کی محبت عشق کے درجہ پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک استعمال نہیں کیا۔ تو گویا دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں۔ قیمت فی شیشی جو کئی مرتبہ کے لئے کافی ہے دو روپے ... (عہ)

* * *

گلزار حسن

عجیب و غریب دوائی چہرے کو گورا اور خوبصورت بنانے کے لئے زمانہ حال کی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ صرف چند مرتبہ چہرے پر ملنے سے سیاہ اور مرجھایا ہوا کرخت چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح ملائم، چمکدار [illegible] سفید اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چھائیاں، کیل، مہاسے [illegible] دور ہو کر چہرہ [illegible] حسین لڑکی کی طرح پیارا پیارا [illegible] کمال [illegible] خوشبو ایسی [illegible] روح پرور گویا باغ جنت کی سیر [illegible] اس کی پوری تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک شیشی منگا کر تجربہ کیجئے۔ اگر [illegible] نہ نکلے تو ہمارا ذمہ۔ قیمت فی شیشی صرف دو روپے ...... (عہ)

بال سیاہ کرنے کا تیل
بلیک آئل

مشہور تجربہ کار اور ماہر فن ڈاکٹروں نے بالوں کی بناوٹ جلد کی ساخت بال سفید ہونے کی تھیوری اور ان کے تمام [illegible] پر غور کر کے سالہا سال کی محنت اور تجربہ کے بعد یہ بال سیاہ کرنے کا تیل ایجاد کیا ہے جسکے بالوں پر لگانے سے سفید بال بالکل اصلی اور قدرتی سیاہ بالوں کی طرح سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور آئندہ [illegible] سیاہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب مصنوعی خضاب کی ضرورت نہ روز روز [illegible] لگانے کی حاجت۔ قیمت فی شیشی دو روپے (عہ) [illegible]

منگانے کا پتہ: **جنرل منیجر ستار فارمیسی۔ فاروق گنج۔ لاہور**

کون کہتا ہے کہ مجرب اور آسان نسخہ جات کسی کتاب میں نہیں ملتے

آپ محنت سے کمایا ہوا روپیہ کیوں ڈاکٹروں حکیموں اور ویدوں کی جیبوں میں ڈالتے ہیں ان کی خوشامدیں اور منتیں کرتے ہیں اور کبھی اشتہار بازوں کے پھندے میں آکر اپنا روپیہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں

اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام مشکلات سے بچ جائیں تو آج ہی ایک جلد کتاب

"خیر التجارب"

صفحات ۲۶۴۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ
سرورق دیدہ زیب دو رنگ کے بلاک

قیمت سستا ایڈیشن ایک روپیہ آٹھ آنے عہ
اعلیٰ ایڈیشن مجلد دو روپے چار آنے عہ

خرید فرمالیجئے یہ کتاب ان بازاری کتابوں جیسی نہیں جن کے مصنف ادھر ادھر کی مطبوعہ کتابوں سے نسخے لے کر کتاب ہر گھسیٹے ہیں اور اس کے پیچھے بڑے بڑے شہادے دیکر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں بلکہ یہ کتاب خاندان مغلیہ کے نامور ماہر فن شاہی طبیب عالیجناب حکیم خیر اندیش خان مرحوم کی بیاض خاص ہے جس کا اصل قلمی نسخہ ۵۰۰ روپیہ کی رقم کثیر صرف کرکے خرید لیا گیا تھا یہ کتاب حکیم صاحب نے صرف اپنے خاندان کے لئے عرصہ ۱۲۵ سال کا ہوا لکھی تھی جسے بخل کی زنجیروں کو توڑ کر محض خدمت خلق کے لئے ہم نے بالکل صحیح چھاپ دیا ہے۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ

ایسے صحیح مجرب، زود اثر اور بے حد آسان طریق علاج کی کوئی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی اس میں سر سے لیکر پاؤں تک کے جملہ امراض مردانہ و زنانہ کی مع اسباب علامات کے علاوہ ہر مرض کے کئی کئی نہایت ہی آسان کم قیمت اور بآسانی مل جانے والے زود اثر مجرب المجرب نسخہ جات دیئے گئے ہیں۔ ایک نسخہ بھی ایسا نہیں جو آزمودہ اور سو فی صدی صحیح نہ ہو اس میں امراض مخصوصہ مثلاً سستی، نامردی، کجی، ضعف باہ کے علاوہ جریان، احتلام، سوزاک، آتشک اور مہلک امراض مثلاً تپ دق، سل، درد گردہ وغیرہ کے ایسے خاص الخاص نسخے دیئے گئے ہیں کہ آپ ان کا تجربہ کرکے حیران رہ جائیں گے۔ کتاب کے آخر میں ایسے ایسے نایاب (مقوی) نسخے دیئے گئے ہیں جن کی تلاش میں عام لوگ تو درکنار آج کل بڑے بڑے نامور وید و حکیم بھی سرگرداں پھرتے ہیں اور ایسے ممسک، لذت اور مقوی نسخے دیئے گئے ہیں جن کے ایک ہفتہ کے استعمال سے ۷۰ سالہ بوڑھا بھی نوجوان ہو جائے اور ایسے بے نظیر طلاء اور مقوی روغن کے نسخے ہیں جو تمام خرابیوں کو چند روز میں دور کر دیں۔ اس مختصر اشتہار میں اس کی مکمل تعریف نہیں ہو سکتی آپ کتاب دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور خود کہیں گے کہ انمول نسخہ جات کا خزانہ کوڑیوں کے عوض مل گیا۔ اصل قلمی بیاض کے دو اوراق کا فوٹو شامل کتاب ہے۔ بڑا سائز صفحات ۲۶۴۔ لکھائی چھپائی نہایت عمدہ سرورق دیدہ زیب محض برائے افادہ عام قیمت بہت کم رکھی ہے تاکہ ہر شخص بآسانی خرید سکے قیمت سستا ایڈیشن ایک روپیہ آٹھ آنے اعلیٰ ایڈیشن مجلد کاغذ سفید اعلیٰ قیمت دو روپے چار آنے عہ علاوہ محصول ڈاک

بیشمار تصدیقی و تعریفی خطوط میں سے صرف دو خطوط

(۱) لالہ گنپت رائے صاحب بنارس سے لکھتے ہیں کتاب خیر التجارب ملی آپ کی بیش بہا نسخہ جات آزمائے [illegible]

(۲) ایڈیٹر صاحب رسالہ حکمت لکھتے ہیں [illegible] اس کتاب میں [illegible] عجیب و غریب [illegible] اور طب [illegible] والوں کے لئے [illegible] تحفہ ہے"

اگر آپ قلیل سرمایہ سے بے شمار دولت کمانا چاہتے ہیں تو ہماری مشہور و مستند کتاب

طبی مرغی خانہ
تجارتی مرغی خانہ

آج ہی خرید فرمالیجئے

(باتصویر)

یہ مشہور آفاق کتاب [illegible] ماہرین کی تصنیفات اور پولٹری [illegible] ایم آئی پی سی [illegible] کے ۳۰ سالہ ذاتی تجربات کا نچوڑ ہے [illegible] مرغی خانہ کے متعلق [illegible] ہر ایک شخص [illegible] روپیہ کما سکتا ہے [illegible] اس کتاب کے سامنے تمام بازاری کتابیں ہیچ ہیں [illegible] پنجاب گورنمنٹ [illegible] حیدر آباد [illegible] لکھائی چھپائی کاغذ نہایت اعلیٰ قیمت [illegible] مجلد سنہری [illegible] روپے علاوہ محصولڈاک

افزائش باہ

[illegible]

پتہ ملنے کا! کامرڈ جنرل سپلائی کمپنی ملتانی سٹریٹ۔ لاہور (پنجاب)

غریبوں اور ناداروں کو مالا مال بنانیوالی کتابیں

خفیہ صنعتی بیاض

یہ کتاب جیبی معنوں میں چاندی کی کان اور جواہرات کا خزانہ ہے۔ کیونکہ اسمیں صنعت و حرفت کے [illegible] ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے انگریزی ولایتی صابن چاندی کی طرح چمکدار صابن۔ بلوری طرح شفاف صابن۔ موتی کی مانند آبدار صابن۔ پانی پیدا کرنیوالا صابن۔ کاربالک صابن۔ گلیسرین کے بغیر گلیسرین صابن۔ دواؤں والا صابن۔ اون اور پشمینہ صاف کرنیکا صابن۔ دھات صاف کرنیکا صابن۔ سن لائٹ کو مقابلہ کا صابن اور تجارت کا صابن ایک پیسہ میں آٹھ سیر ولایتی صابن۔ ایک پیسہ میں ۲۵ سیر دیسی صابن اسکے علاوہ ہر قسم کے [illegible] روغن۔ وارنش جرمنی رنگ جرمنی خضاب۔ ولایتی آتشبازی۔ ولایتی کلر مشک۔ ولایتی ایسنس یعنی ست۔ لکھنے کی [illegible] صنعت و حرفت کی [illegible] پائی جائیں گی۔

پہلی خوبی اسمیں صنعت و حرفت کی تمام کتابوں کی طرح نسخے [illegible] کا آزمایا ہوا ہے۔

دوسری خوبی اسمیں تمام چیزوں کو بنانے کے ایسے مفصل طریقے درج ہیں [illegible] بغیر استاد کی مدد کے فوراً تیار کی جا سکتی ہے۔ …

تیسری خوبی اسمیں بہت سے [illegible] چیزوں کے نسخے ہیں جو ہر سال کروڑوں روپیہ کی ولایت سے آکر فروخت ہوتی ہیں اور جن کے نسخے ہندوستان میں کسی کو معلوم نہیں ہیں ایسے نسخے [illegible] اور اگر ان کو بنا کر فروخت کیا جائے۔ تو لاکھوں روپیہ پیدا کئے جا سکتے ہیں۔

چوتھی خوبی اسکے شروع میں ۲۵ صفحہ کا ایک عجیب و غریب مضمون لگا دیا گیا ہے جس میں ان چیزوں کو بنا کر کے بازار میں لانے اور ان کی تجارت سے ہزاروں روپیہ ماہوار پیدا کرنے کے وہ خفیہ تجارتی راز اور ڈھنگ بتائے گئے ہیں جو ہزاروں روپیہ [illegible] کرکے حاصل کئے [illegible] غرض یہ کتاب [illegible] ایسی مکمل ہے کہ [illegible] شروع کرکے [illegible] ایسی کتاب کی قیمت پچاس روپے [illegible] اہل وطن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے فی الحال صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ قیمت رکھی [illegible]

بغیر سرمایہ کے روزی کمانے کے طریقے

یہ کتاب زندگی سے تنگ آئے ہوئے غریب نادار اور بے روزگار لوگوں کے لئے امید کی سنہری کرن ہے جس نے کئی بے روزگاروں کو جو ناامیدی سے مجبور ہو کر خودکشی پر آمادہ تھے موت کے منہ سے بچا لیا ہے۔ اسمیں صنعتی نسخے نہیں ہیں بلکہ وہ روزگار۔ تجارتیں ہنر اور کاروباری طریقے درج ہیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں اور جن کے ذریعہ ہر شخص خواہ کسی حیثیت یا لیاقت کا ہو بغیر کسی سرمایہ کے باعزت اور با آرام طور پر پچاس روپیہ ماہوار سے تین سو روپیہ ماہوار تک کما سکتا اور چند روز میں [illegible] سے دولتمند بن سکتا ہے۔

تمام وہ لوگ جو بیکاری اور بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آگئے ہوں یا معمولی نوکریوں کے لئے سالہا سال سے جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہوں اس کتاب کا مطالعہ کریں جس میں ہر شخص کی پسند اور مذاق کے مطابق بے شمار سنہری تجویزیں طریقے اور روزگار درج ہیں۔ اور جن میں سے کوئی ایک ہی تجویز آپ کی قسمت کو پلٹ سکتی ہے۔ جو لوگ پہلے کوئی کام کر رہے ہوں وہ بھی اس کتاب کی مدد سے فالتو وقت میں دو گھنٹہ روزانہ کام کرکے اپنی آمدنی کو دوگنا سہ گنا بڑھا سکتے ہیں اردو میں اس مضمون پر ہندوستان کی پہلی کتاب ہے قیمت ایک روپیہ [illegible]

اسرار تجارت

یہ کتاب نہیں بلکہ سونے کی کان ہے جس نے تجارتی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے اس کتاب میں کسی تجارت کو شروع کرنے کا طریقہ پھر اس کو کامیاب بنا کر عروج و ترقی کی بلند سے بلند چوٹی پر پہنچانے کی بے نظیر تدبیریں اور بالکل معمولی سرمایہ سے [illegible] روپے کی تجارت چلانے کے بہتر سے بہتر ڈھنگ انگریزی زبان کی اعلیٰ نایاب اور قیمتی تجارتی کتابوں سے اخذ کرکے بیان کئے گئے ہیں۔ نیز اس میں اشتہارات کی طاقت سے اور دوسرے تجارتی ڈھنگوں کے ذریعہ تجارت کو ترقی دینے اور ساری دنیا پر جال پھیلا دینے کے عجیب و غریب کم خرچ آسان اور بالکل نئے طریقے بیان کئے گئے ہیں جو ہندوستانیوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں اور جن پر نہایت آسانی سے عمل کرکے لاکھوں روپیہ پیدا کیا جا سکتا ہے [illegible] ہزاروں روپے کا مال [illegible] کے عجیب و غریب بالکل آسان طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہندوستان کی اسی زبان میں اس قسم کی کوئی کتاب موجود نہیں باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف بارہ آنے

لوگ کیا کہتے ہیں؟

بابو مکھی رام صاحب کوہاٹ سے لکھتے ہیں میں کنگال تھا۔ آپ کی کتابوں نے مجھے خوشحال کر دیا۔ میرے بچے آپکو دعائیں دیتے ہیں۔

حسن بھائی علی بھائی بمبئی سے تحریر فرماتے ہیں آپ کی کتابیں سونے میں تولنے کے قابل ہیں آپ نے غریبوں پر بھاری احسان کیا ہے۔

[illegible]

سنٹرل بک ڈپو فاروق گنج۔ لاہور

نوٹ ان تینوں کتابوں میں سے کوئی کتاب خریدنے کے بعد ناپسند ہو تو اسی وقت واپس کرکے اپنی قیمت منگا لیجئے

وقتوں کے پیمانے

ہندی حساب سے وقت کا پیمانہ	ہندی و انگریزی وقت کا مقابلہ
۶۰ اپسل کا ایک سپل	۲½ پل کا ایک سیکنڈ
۶۰ سپل کا ایک بپل	۲½ پل کا ایک منٹ
۶۰ بپل کا ایک پل	ایک گھڑی کے ۲۴ منٹ
۶۰ پل کی ایک گھڑی	۲½ گھڑی کا ایک گھنٹہ
۶۰ گھڑی کا ایک دن رات	۶۰ گھڑی کا دن رات

انگریزی وقت

۶۰ سیکنڈ کا ایک منٹ۔ ۶۰ منٹ کا ایک گھنٹہ ۲۴ گھنٹے کا دن رات

دن رات کی کمی بیشی

دن اور رات ہمیشہ برابر نہیں رہتے۔ بلکہ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ جس کا حساب اس طرح سے ہے۔ کہ جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ تو دن رات برابر ہوتے ہیں اور قریباً ۲۰ مارچ مطابق ۷ چیت کو ہوتا ہے اس کے بعد دن زیادہ رات کم ہونی شروع ہوتی ہے اور قریباً ۲۲ جون مطابق ۹ ہاڑ تک سب سے بڑا دن ۳۵ گھڑی ۲۰ پل یا ۱۴ گھنٹے ۸ منٹ کا ہوتا ہے اور رات ۲۴ گھڑی ۴۰ پل یا ۹ گھنٹے ۵۲ منٹ کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد رات کم ہونا شروع ہوتا ہے [illegible] اور قریباً ۲۳ ستمبر یا ۷ اسوج کو دن رات پھر دو برابر بارہ بارہ گھنٹے کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دن کم اور رات زیادہ ہونی شروع ہوتی ہے اور ۲۳ دسمبر مطابق ۹ پوہ کے قریب رات سب سے بڑی یعنی ۱۴ گھنٹے ۸ منٹ اور دن ۹ گھنٹے ۵۲ منٹ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر دن بڑھنا شروع ہوتا ہے اور رات کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ۲۰ مارچ مطابق ۷ چیت کو پھر رات دن برابر ہو جاتے ہیں۔ [illegible]

رفتار سورج کے ذریعہ وقت دریافت کرنا

ایک تنکا ۳ انگل کا سیدھا لیکر اس کو کسی ہموار جگہ پر سیدھا کھڑا کر دینے اور زمین کا ۹۰ درجہ کا زاویہ ہو [illegible] اسکے سایہ کو ناپ لو جس قدر انگل اس کا سایہ ہو اس میں ۳ عدد اور جمع کر کے [illegible] ایک جگہ لکھ لو [illegible] ۲۲ کو اس [illegible] تقسیم کرو جو خارج قسمت ہوگی۔ اگر دوپہر سے پہلے ہو تو اتنی [illegible] اور اگر بعد دوپہر ہو تو اسی قدر گھڑی دن باقی جانو۔

آفتاب کے طلوع و غروب دیکھنے کا قاعدہ

جتنی گھڑی پل دن مان ہو اس کو ۵ پر تقسیم کرو [illegible] طریقہ دوم [illegible] تفاوت ہے۔ جس قدر ہو اس کو نصف کرو۔ جو حاصل ہو اگر دن بڑا ہے تو اس قدر ۶ بجے سے پہلے آفتاب طلوع ہوگا اور اتنا ہی ۶ بجے کے بعد غروب ہوگا۔ اور اگر دن چھوٹا ہے تو اسی قدر ۶ بجے کے بعد طلوع ہوگا۔ اور اتنا ہی ۶ بجے سے پہلے غروب ہو جاوے گا۔

چندرماں کا طلوع و غروب دیکھنا

کرشن پکھ میں چندرماں کے طلوع اور شکل پکھ میں غروب کے وقت دیکھنا چاہتے ہو تو قاعدہ یہ ہے۔ کرشن پکھ کی تتھ کو رات کی گھڑیوں سے ضرب دو۔ اور حاصل ضرب میں [illegible] خارج قسمت ہوگی [illegible]

بوقت شادی لڑکے لڑکی کی موافقت و ناموافقت دیکھنے کا طریقہ

لڑکے لڑکی کا سمبندھ کرنے سے پہلے [illegible] ذیل میں درج کرتے ہیں۔

ورگ چکر

اگر یہ دیکھنا ہو کہ دونوں کے درمیان محبت رہیگی کہ نہیں تو نقشہ مندرجہ ذیل میں دونوں کے نام کے اول حرف سے ورگ دیکھو اگر دونوں میں دوستی ہو تو دوستی اور دشمنی ہو تو دشمنی ہوگی۔

نمبر شمار	نام کا پہلا حرف	ورگ
۱	ا - ای - او - [illegible]	گرڑ
۲	کا - کھا - گا - گھا - [illegible]	بلا
۳	چا - چھا - جا - جھا - [illegible]	[illegible]
۴	ٹا - ٹھا - ڈا - ڈھا - [illegible]	کتا
۵	تا - تھا - دا - دھا - نا	[illegible]
۶	پا - پھا - با - بھا - ما	چوہا
۷	یا - را - لا - وا	ہرن
۸	شا - سا - [illegible] - ہا	مینڈھا

نقشہ مندرجہ بالا میں ہر ایک ورگ کی اپنے سے [illegible] لڑکی کا نام [illegible] شادی [illegible]

گن چکر

نمبر شمار	نام کا نکشتر	گن
۱	اشونی - مرگشر - ریوتی - ہست - پشیہ - پنرپس - انورادھا - شرون - سوانی	دیوتا
۲	پوربا پھالگنی - پوربا ساڑھا - پوربا بھادرپد - اترا پھالگنی - اترا ساڑھا - اترا بھادرپد - روہنی - بھرنی	منش
۳	کرتکا - اشلیکھا - مگھا - شتبھکھا - [illegible] - چترا - وشاکھا - جیشٹھا - مولا	راکشس

نام کے نچھتر سے گن کو معلوم کرو [illegible]

ورن چکر

نمبر شمار	نام راس	ورن
۱	کرک - برشچک - مین	برہمن
۲	میکھ - سنگھ - دھن	چھتری
۳	برکھ - کنیا - مکر	ویش
۴	متھن - تلا - کمبھ	شودر

لڑکا اور لڑکی کا ورن ایک ہونا چاہئے۔ یا دونوں ایک ہی ورن کے ہوں [illegible]

ناڑی ویدھ چکر

نمبر	نام ناڑی	نکشتر
۱	آدی ناڑی	[illegible]
۲	مدھ ناڑی	[illegible]
۳	انت ناڑی	[illegible]

[illegible]

راشیوں کا ملان

[illegible]

یونی چکر

نمبر	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
نچھتر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
یونی	گھوڑا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
دشمن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
نمبر	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
نچھتر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
یونی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
دشمن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

لڑکا کا نام [illegible] کرنا اچھا نہیں۔

گرہوں کی دوستی و دشمنی کا چکر

[illegible]

شادی کا ساہا مقرر کرنا

[illegible]

شبھ سورج کا بچار

[illegible]

شبھ برہسپتی کا بچار

[illegible]

شبھ چندرماں

شادی کے وقت دونوں کو چندرماں [illegible]

بیاہ کے دوش

[illegible]

نوٹ

[illegible]

لگن سپشٹ کرنے کی سارنی

تاریخ ماہ	بیساکھ	جیٹھ	ہاڑ	ساون	بھادوں	اسوج	کاتک	مگھر	پوہ	ماگھ	پھاگن	چیت
لگن	میکھ	برکھ	متھن	کرک	سنگھ	کنیا	تلا	برچھک	دھن	مکر	کمبھ	مین
۰	۲ ۳۰	۱ ۲۲	۱۱ ۸	۱۶ ۴۳	۲۲ ۳۷	۲۸ ۲۷	۳۴ ۱۵	۴۰ ۱۰	۴۵ ۵۹	۵۱ ۱۱	۵۵ ۲۸	۵۹ ۴
۱	۲ ۳۵	۶ ۳۴	۱۱ ۱۸	۱۶ ۵۳	۲۲ ۴۸	۲۸ ۳۸	۳۳ ۲۵	۴۰ ۲۲	۴۶ ۱۰	۵۱ ۲۱	۵۵ ۳۶	۵۹ ۱۱
۲	۲ ۴۸	۶ ۳۸	۱۱ ۲۸	۱۷ ۵	۲۳ ۰	۲۹ ۵۰	۳۴ ۳۹	۴۱ ۳۳	۴۶ ۲۲	۵۱ ۳۱	۵۵ ۴۳	۵۹ ۱۸
۳	۲ ۵۳	۶ ۴۴	۱۱ ۳۸	۱۷ ۱۴	۲۳ ۱۲	۲۹ ۱	۳۴ ۵۰	۴۱ ۴۵	۴۶ ۳۳	۵۱ ۴۱	۵۵ ۵۳	۵۹ ۲۵
۴	۲ ۵۸	۶ ۵۴	۱۱ ۴۸	۱۷ ۲۸	۲۳ ۲۳	۲۹ ۱۳	۳۵ ۳	۴۱ ۵۷	۴۶ ۴۵	۵۱ ۵۱	۵۶ ۰	۵۹ ۳۲
۵	۳ ۶	۷ ۲	۱۱ ۵۸	۱۷ ۳۰	۲۳ ۳۴	۲۹ ۲۵	۳۵ ۱۴	۴۱ ۹	۴۶ ۵۷	۵۲ ۱	۵۶ ۸	۵۹ ۳۹
۶	۳ ۱۲	۷ ۱۰	۱۲ ۸	۱۷ ۵۱	۲۳ ۴۶	۲۹ ۳۶	۳۵ ۲۵	۴۱ ۲۱	۴۷ ۸	۵۲ ۱۱	۵۶ ۱۷	۵۹ ۴۶
۷	۳ ۱۸	۷ ۱۸	۱۲ ۲۸	۱۸ ۳	۲۳ ۵۸	۲۹ ۴۸	۳۵ ۳۷	۴۱ ۳۳	۴۷ ۲۰	۵۲ ۲۱	۵۶ ۲۵	۵۹ ۵۳
۸	۳ ۲۶	۷ ۲۸	۱۲ ۲۸	۱۸ ۱۳	۲۴ ۱۰	۳۰ ۰	۳۵ ۴۹	۴۱ ۴۵	۴۷ ۳۱	۵۲ ۳۱	۵۶ ۳۳	۶۰ ۰
۹	۳ ۳۴	۷ ۳۸	۱۲ ۳۹	۱۸ ۲۴	۲۴ ۲۲	۳۰ ۱۱	۳۶ ۱	۴۱ ۵۴	۴۷ ۴۱	۵۲ ۳۹	۵۶ ۴۰	۰ ۶
۱۰	۳ ۴۲	۷ ۴۸	۱۲ ۵۰	۱۸ ۳۸	۲۴ ۳۴	۳۰ ۲۳	۳۶ ۱۲	۴۲ ۸	۴۷ ۵۱	۵۲ ۴۷	۵۶ ۴۶	۰ ۱۳
۱۱	۳ ۵۱	۷ ۵۹	۱۳ ۰	۱۸ ۵۰	۲۴ ۴۶	۳۰ ۳۴	۳۶ ۲۳	۴۲ ۱۹	۴۸ ۱	۵۲ ۵۵	۵۶ ۵۳	۰ ۲۰
۱۲	۳ ۵۹	۸ ۸	۱۳ ۱۲	۱۹ ۲	۲۴ ۵۷	۳۰ ۴۶	۳۶ ۳۴	۴۲ ۳۱	۴۸ ۱۱	۵۳ ۳	۵۷ ۰	۰ ۲۷
۱۳	۴ ۷	۸ ۱۸	۱۳ ۲۵	۱۹ ۱۴	۲۵ ۱۹	۳۰ ۵۸	۳۶ ۴۸	۴۲ ۴۲	۴۸ ۲۱	۵۳ ۱۱	۵۷ ۷	۰ ۳۴
۱۴	۴ ۱۵	۸ ۲۸	۱۳ ۳۶	۱۹ ۲۴	۲۵ ۲۰	۳۱ ۹	۳۶ ۵۸	۴۲ ۵۴	۴۸ ۳۱	۵۳ ۱۹	۵۷ ۱۴	۰ ۴۱
۱۵	۴ ۲۳	۸ ۳۸	۱۳ ۴۸	۱۹ ۳۷	۲۵ ۳۲	۳۱ ۲۱	۳۷ ۱۲	۴۳ ۶	۴۸ ۴۱	۵۳ ۲۷	۵۷ ۲۱	۰ ۴۸
۱۶	۴ ۳۱	۸ ۴۸	۱۳ [illegible]	۱۹ ۴۹	۲۵ ۴۳	۳۱ ۳۳	۳۷ ۲۴	۴۳ ۱۷	۴۸ ۵۱	۵۳ ۳۵	۵۷ ۲۸	۰ ۵۵
۱۷	۴ ۳۹	۸ ۵۸	۱۴ ۱۲	۲۰ ۱	۲۵ ۵۵	۳۱ ۴۴	۳۷ ۳۵	۴۳ ۲۹	۴۹ ۱	۵۳ ۴۳	۵۸ ۳۵	۱ ۲
۱۸	۴ ۴۷	۹ ۹	۱۴ ۲۳	۲۰ ۱۳	۲۶ ۷	۳۱ ۵۶	۳۷ ۴۷	۴۳ ۴۰	۴۹ ۱۱	۵۳ ۵۱	۵۸ ۴۲	۱ ۸
۱۹	۴ ۵۵	۹ ۱۸	۱۴ ۳۵	۲۰ ۲۵	۲۶ ۱۸	۳۲ ۸	۳۷ ۵۹	۴۳ ۵۲	۴۹ ۲۱	۵۳ ۵۹	۵۸ ۴۹	۱ ۱۵
۲۰	۵ ۳	۹ ۲۸	۱۴ ۴۶	۲۰ ۳۷	۲۶ ۳۰	۳۲ ۱۹	۳۸ ۱۱	۴۴ ۳	۴۹ ۳۱	۵۴ ۷	۵۸ ۵۶	۱ ۲۳
۲۱	۵ ۱۱	۹ ۳۸	۱۴ ۵۸	۲۰ ۴۹	۲۶ ۴۲	۳۲ ۳۱	۳۸ ۲۳	۴۴ ۱۵	۴۹ ۴۱	۵۴ ۱۵	۵۹ ۳	۱ ۲۹
۲۲	۵ ۱۹	۹ ۴۸	۱۵ ۹	۲۱ ۱	۲۶ ۵۳	۳۲ ۴۳	۳۸ ۳۵	۴۴ ۲۶	۴۹ ۵۱	۵۴ ۲۳	۵۸ ۹	۱ ۳۶
۲۳	۵ ۳۰	۱۰ ۱	۱۵ ۲۱	۲۱ ۱۳	۲۷ ۵	۳۲ ۵۴	۳۸ ۴۷	۴۴ ۳۸	۵۰ ۱	۵۴ ۳۲	۵۹ ۱۶	۱ ۴۳
۲۴	۵ ۳۵	۱۰ ۸	۱۵ ۳۲	۲۱ ۲۵	۲۷ ۱۷	۳۳ ۶	۳۸ ۵۹	۴۴ ۵۰	۵۰ ۱۱	۵۴ ۳۹	۵۹ ۲۳	۱ ۵۰
۲۵	۵ ۴۳	۱۰ ۱۹	۱۵ ۴۳	۲۱ ۳۷	۲۷ ۲۹	۳۳ ۱۸	۳۹ ۱۰	۴۵ ۱	۵۰ ۲۱	۵۴ ۴۷	۵۹ ۳۰	۱ ۵۷
۲۶	۵ ۵۱	۱۰ ۲۹	۱۵ ۵۴	[illegible]	۲۷ ۴۱	۳۳ ۲۹	۳۹ ۲۱	۴۵ ۱۳	۵۰ ۳۱	۵۴ ۵۵	۵۹ ۳۷	۲ ۴
۲۷	۵ ۵۹	۱۰ ۳۸	۱۶ ۶	۲۲ ۰	۲۷ ۵۲	۳۳ ۴۱	۳۹ ۳۳	۴۵ ۲۵	۵۰ ۴۱	۵۵ ۳	۵۹ ۴۴	۲ ۱۰
۲۸	۶ ۶	۱۰ ۴۸	۱۶ ۱۸	۲۲ ۱۲	۲۸ ۴	۳۳ ۵۲	۳۹ ۴۴	۴۵ ۳۶	۵۰ ۵۱	۵۵ ۱۱	۵۹ ۵۱	۲ ۱۷
۲۹	۶ ۱۴	۱۰ ۵۸	۱۶ ۳۰	۲۲ ۲۴	۲۸ ۱۵	۳۴ ۱	۳۹ ۵۸	۴۵ ۴۷	۵۱ ۱	۵۵ ۲	۵۹ ۵۸	۲ ۲۳

طریقہ ۔ جس مہینہ کی جس تاریخ کو لگن دیکھنا ہو۔ اس کو اوپر کی جدول میں دیکھو۔ اوپر کے سرے پر مہینہ اور داہنی طرف سے تاریخ دیکھو دونو جس خانہ میں ملیں اس میں جو ہندسہ لکھا ہے اس کو لکھ لو اور اس کے نیچے اپنا وقت گھڑی پل لکھ کر دونوں کو جمع کرو۔ جو حاصل ہو اس کو سارنی میں تلاش کرو۔ جہاں ملے اس کے اوپر جو لگن لکھا ہے اس وقت وہ لگن ہوگا۔ اور داہنی طرف جو درج ہے اتنے انش اس لگن کے گذر چکے ہونگے۔ مثلاً ماہ بھادوں کی ۲۰ تاریخ کو ۳۰ گھڑی ۱۵ پل پر دیکھنا ہے کہ اس وقت کون لگن ہے۔ پس اوپر سے ماہ بھادوں اور داہنی طرف سے ۲۰ کا خانہ دیکھا تو دونوں کا ملان [illegible] اس کے نیچے اپنا وقت ۳۰-۱۵ لکھ کر جمع کیا [illegible] اس کو سارنی میں تلاش کیا تو [illegible] سطر میں ملا۔ پس معلوم ہوا کہ [illegible] لگن شروع ہوا ہے۔ [illegible] اسی طرح [illegible] کو دیکھ لو۔

برش پھل بنانے کے لئے برکھ سارنی

گذشتہ سال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
یوم	۱	۲	۳	۵	۶	۷	۱	۳	۴	۵	۶	۱	۲	۳	۴	۶	۷	۱	۲	۴
گھڑی	۱۵	۳۱	۴۶	۲	۱۷	۳۳	۴۸	۴	۱۹	۳۵	۵۱	۶	۲۰	۳۷	۵۲	۷	۲۳	۳۹	۵۲	۱۰
پل	۳۱	۳	۳۴	۶	۳۷	۹	۴۰	۱۲	۴۳	۱۵	۴۶	۱۸	۴۹	۲۱	۵۲	۲۴	۵۵	۲۷	۵۸	۳۰
گذشتہ سال	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰
یوم	۵	۶	۷	۲	۳	۴	۵	۷	۱	۲	۴	۵	۶	۷	۲	۳	۴	۵	۷	۱
گھڑی	۲۴	۴۱	۵۶	۱۲	۲۸	۴۳	۵۹	۱۴	۳۰	۴۴	۱	۱۲	۳۲	۴۷	۳	۱۸	۳۴	۴۹	۵	۲۱
پل	۱	۳۳	۴	۳۶	۷	۳۹	۱۰	۴۲	۱۳	۴۵	۱۶	۴۸	۱۹	۵۱	۲۲	۵۳	۲۵	۵۹	۲۸	۰
گذشتہ سال	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰
یوم	۲	۳	۵	۶	۷	۱	۱	۳	۵	۶	۱	۲	۳	۴	۶	۷	۱	۳	۴	۵
گھڑی	۳۶	۵۲	۷	۲۳	۳۸	۵۴	۹	۲۵	۴۰	۵۶	۱۱	۲۷	۴۲	۵۸	۱۳	۲۹	۴۴	۰	۱۵	۳۱
پل	۳۵	۳	۳۴	۶	۳۷	۹	۴۰	۱۲	۴۳	۱۵	۴۶	۱۸	۴۹	۲۱	۵۲	۲۴	۵۵	۲۷	۵۸	۳۰
گذشتہ سال	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰
یوم	۶	۱	۲	۳	۴	۶	۷	۱	۲	۴	۵	۶	۷	۲	۳	۴	۵	۷	۱	۲
گھڑی	۴۷	۳	۱۸	۳۳	۴۹	۴	۲۰	۳۵	۵۱	۶	۲۲	۳۷	۵۲	۸	۲۴	۳۹	۵۵	۱۰	۲۶	۴۲
پل	۱	۳۳	۴	۳۶	۷	۳۹	۱۰	۴۲	۱۳	۴۵	۱۶	۴۸	۱۹	۵۱	۲۲	۵۴	۲۵	۵۷	۲۸	۰۰

برکھ پھل بنانے کا طریقہ ۔ جس سال کا برش پھل بنانا ہو۔ اس سے اپنا جنم سمت کم کردو جو باقی بچے وہ گذشتہ برس ہونگے ان کو اوپر والی سارنی میں تلاش کرو۔ جہاں برس ملیں اس کے نیچے جو یوم گھڑی پل لکھے ہیں وہ لکھ لو اور اس کے نیچے اپنے جنم کا یوم گھڑی پل لکھ کر دونوں کو جمع کرلو۔ پھل برکھ کے شروع ہونے کا یوم گھڑی پل ہوگا۔ پھر اس وقت کا لگن نکال کر کنڈلی بناؤ۔ اور جنتری تاریخ الوقت سے گرہ دیکھ کر تمام گھروں میں درج کردو یہ برش کنڈلی ہے اس کے بعد سال کی سیارگان کی دشا لگاؤ جس کا طریقہ یہ ہے۔ کہ اپنے جنم نچھتر کو اشونی سے شمار کرو جس قدر ہو اس میں گذشتہ برس جمع کرکے کل میں سے ۲ عدد کم کردو۔ اور باقی کو ۹ پر تقسیم کردو۔ جو باقی بچے اس کو نقشہ ذیل میں دیکھو اس کے زیر جس سیارہ کا نام لکھا ہے اس کی دشا اول شروع ہوگی اس کے نیچے اس کی مدت درج ہے اسکے بعد پھر اس سے اگلے سیارہ کی دشا ہوگی۔ اسی طرح سے نو گرہوں کی دشا کا چکر پورا ہو

نقشہ دشا گرہ معہ مدت دشا

باقی عدد	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
نام گرہ دشا	سورج	چندرماں	منگل	راہو	برہسپت	سنیچر	بدھ	کیتو	شکر
مدت ماہ	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۲
مدت ایام	۱۸	۰	۲۱	۲۴	۱۸	۲۷	۲۱	۲۱	۰

برش پھل بنانے کا قاعدہ اوپر درج کردیا گیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مفصل حالات بابت برش پھل گرہوں کے پھلادیش اور دشا کے پھلادیش وغیرہ وغیرہ دیکھنے ہوں تو رسالہ اپدیش تقدیر حصہ اول قیمت ۸/ منگوالیں۔ اور گرہوں کے یوگوں کے پھل دیکھنے کے لئے حصہ دوم قیمتی ۸/ منگوا کر دیکھیں۔

ہندوستان و دیگر ممالک کے مشہور شہروں کے وقت کا تفاوت

چونکہ زمین گول ہے اسلئے سورج ایک ہی وقت میں سب جگہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک شہر کا دوسرے سے ایک درجہ مشرق یا مغرب کو ہونے سے ۴ منٹ کی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور ہر ڈیڑھ درجہ کی تفاوت سے ایک گھڑی کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جنم کنڈلی وغیرہ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھو۔ جس جگہ کا وقت دیا ہوا ہو۔ اس شہر سے جہاں پر لگن لگانا ہو۔ اس شہر کے تفاوت کو کم و بیش کرکے درست کرلو۔ اگر ایسا نہ کروگے۔ تو لگن میں فرق پڑ جاوے گا۔

مشہور مشہور شہروں کے تفاوت الوقت کا نقشہ از لاہور ۱۲ بجے دوپہر

نام شہر	وقت			نام شہر	وقت			نام شہر	وقت			نام شہر	وقت			نام شہر	وقت			نام شہر	وقت		
لاہور	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	بڑودہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	قسطنطنیہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
اجمیر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ملتان	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
امرتسر	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	حیدرآباد	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	کابل	[illegible]	[illegible]	[illegible]	قندھار	[illegible]	[illegible]	[illegible]
انبالہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	بخارا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	مکہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	پیرس	[illegible]	[illegible]	[illegible]	مدینہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
دہلی	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	برلن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	بغداد	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	واشنگٹن	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	لندن	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

خواب اور اس کی تعبیر

قسم خواب	نتیجہ	قسم خواب	نتیجہ	قسم خواب	نتیجہ	قسم خواب	نتیجہ	قسم خواب	نتیجہ	قسم خواب	نتیجہ
انگشتری پہننا	عورت حسین سے وصل	بستر زمین پر بچھانا	عمر دراز ہو مفاد ہو	ترکاری سبز دیکھنا	ندامت ہو	جانور پکڑنا	کوئی نیا کام شروع کرے	حج کرنا	حصول مدعا ہو	دروازہ گرا دیکھنا	خانہ [illegible]
آسمان کی طرف اڑنا	سفر دراز ہو	بلبل دیکھنا	حاکم سے [illegible]	تیل پینا	مرض جسم میں [illegible]	[illegible]	حکومت ملے	حجامت بنوانا	کوئی بڑی دلیل ہے	درخت میوہ دار دیکھنا	[illegible]
آسمان سے گرنا	خرابی اور تنزل ہو	بھینس دیکھنا	کوئی مصیبت [illegible]	توپ دیکھنا	دشمن مغلوب ہوں	چوہا دیکھنا	[illegible]	تابوت کو دیکھنا	[illegible]	درخت پر چڑھنا	عزت و مرتبہ [illegible]
غذا شیریں کھانا	دولت سے مالا مال ہو	بھیڑیا دیکھنا	حاکم سے خوف ہو	تل چبانا	کوئی الزام [illegible] ہو	[illegible] دیکھنا	بیماری ہو	حرام کرنا	ذلت ہو	دودھ پینا	[illegible]
انار کا پانا	زر و مال ہاتھ آئے	بادام کھانا	زر و مال ہاتھ لگے	تیر چلانا	دل مراد بر آئے	چراغ روشن دیکھنا	اولاد صاحب اقبال ہو	حلوہ دیکھنا	درازی عمر ہو	دودھ [illegible]	[illegible]
اونٹ دیکھنا	دولت کا فائدہ ہو	بادشاہ کو مردہ دیکھنا	[illegible]	[illegible] اپنا دیکھنا	عمر دراز ہو	[illegible] دیکھنا	مرتبہ طلب ہو	[illegible] دیکھنا	حیرانی و پریشانی ہو	دودھ [illegible] پینا	[illegible]
اونٹ پر سوار ہونا	امراض کہنہ کی آمد	بیضہ مرغ کھانا	لڑکا [illegible]	تخت دیکھنا	راحت اور بلندی	چاند دیکھنا	بزرگی حاصل ہو	حقہ پینا	حصول دولت ہو	دانت گرتے دیکھنا	درازی عمر کی [illegible]
آفتاب دیکھنا	کسی امیر کبیر سے ملاقات	بال سفید دیکھنا	درازی عمر کی بشارت	تخت پر بیٹھنا	کامیابی اور ترقی	چاند [illegible]	رنج و تکلیف ہو	حلوہ کھانا	زر کا نقصان ہو	دہی کھانا	سفر پیش آئے
آگ میں کچھ پکانا	کاروبار میں نفع	بچھو دیکھنا	عزت زیادہ ہو	تنبورہ بجانا	[illegible]	چاند گرہن دیکھنا	[illegible]	حکیم کا دیکھنا	جسمانی تکلیف ہو	دیوانہ کو دیکھنا	فکر و پریشانی ہو
آنکھوں میں سرمہ لگانا	بیماری کی تکلیف دور ہو	پہاڑ پر چڑھنا	مرتبہ بلند ہو	مکتوب دینا	حیرانی و پریشانی ہو	چیل دیکھنا	رنج و فکر ہو	حرم سرا دیکھنا	وصال معشوق ہو	دوا پینا	صحت بیمار ہو
آسمان پر [illegible]	[illegible]	پہاڑ سے گر پڑنا	ترقی جاہ و جلال ہو	تیتر دیکھنا	بلند اقبال کی نشانی	چیونٹی دیکھنا	مصیبت پیش آئے	خاک [illegible]	زر و مال کا فائدہ ہو	[illegible] دیکھنا	فرزند پیدا ہو
آب رواں دیکھنا	ہر کام کا انجام [illegible]	پہاڑ ہلتے دیکھنا	[illegible]	تکیہ پانا	بزرگی کی نشانی	[illegible] دیکھنا	رنج و پریشانی	[illegible]	سفر پیدا ہو	[illegible]	[illegible]
آسمان دیکھنا	رتبہ میں ترقی ہو	پاخانہ [illegible] دیکھنا	دولت کا فائدہ ہو	تبسم کرنا	رنج و فکر پیش آئے	چکی دیکھنا	مصیبت پیش آئے	خرما دیکھنا	[illegible] حاصل ہو	داڑھی [illegible] دیکھنا	عزت کی [illegible]
آسمان [illegible] دیکھنا	کسی امیر کبیر سے ملاقات	پاخانہ کھانا	دولت ہاتھ آئے	تار کھینچنا	پریشانی ہو	چادر اوڑھنا	[illegible]	[illegible] کھانا	کشائش رزق ہو	[illegible]	[illegible]
آگ اٹھا لینا	مفت کا مال ملے جلد خرچ ہو جائے	پاؤں زمین پر مارنا	مصیبت [illegible]	تعویذ لینا	مصیبت میں پھنسنا ہو	چاندی [illegible]	[illegible]	خربوزہ دیکھنا	نعمت ملے	[illegible] دیکھنا	[illegible]
آسمان [illegible] دیکھنا	[illegible]	[illegible] دیکھنا	پریشانی ہو	تاریک [illegible] دیکھنا	مصیبت پیش آئے	[illegible] دیکھنا	غم سے رہائی ہو	خربوزہ کھانا	مال دولت [illegible]	دال دیکھنا	[illegible]
[illegible]	مرتبہ [illegible] ترقی [illegible]	بادل دیکھنا	سفر پیش آئے	تربوز کھانا	رنج و تکلیف پیش آئے	[illegible] دیکھنا	[illegible]	[illegible] دیکھنا	[illegible] اقبال ہو	[illegible] دیکھنا	[illegible]
[illegible] کرنا	رتبہ سے تنزل ہو	پاجامہ پہننا	حصول علم [illegible]	تالاب میں نہانا	عزت [illegible]	چاندی لینا	[illegible] رزق ہو	خچر پر سوار ہونا	[illegible]	رشوت کھانا	[illegible] کی دلیل ہے
آندھی آتا دیکھنا	سفر و رنج پیش آئے	پیشاب خون کا کرنا	عورت [illegible] مرد کو رنج ہو	[illegible] دیکھنا	سفر دور [illegible]	چارپائی پر سونا	[illegible] فکر ہو	چڑیا کا گوشت کھانا	مال حرام ملے	ریچھ دیکھنا	[illegible]
آم کھانا	[illegible]	پھول دیکھنا	عشق و محبت [illegible]	[illegible] پڑھنا	جگہ تبدیل کرے	چارپائی پر [illegible]	زن مرید ہو	خچر کا دودھ پینا	حیرانی [illegible]	رسی کو [illegible]	[illegible]
آئینہ میں منہ دیکھنا	عورت کی [illegible]	پنجرہ دیکھنا	قید میں رنج [illegible]	جھنڈا سبز دیکھنا	مشکل میں [illegible]	[illegible] دیکھنا	حکومت ملے	خرگوش پر سوار ہو	[illegible]	[illegible]	دشمنی [illegible] ہو
[illegible]	[illegible]	پروانہ دیکھنا	حاکم سے ملاقات ہو	جھنڈا سفید دیکھنا	راستہ [illegible]	[illegible] دیکھنا	[illegible]	خون پینا	مال [illegible]	رات [illegible] دیکھنا	[illegible]
[illegible] کرنا	[illegible] سے جدائی ہو	پستان دیکھنا	عورت [illegible]	جنگل سبز دیکھنا	[illegible]	چاول کھانا	رنج دور ہو	خنجر دیکھنا	بلندی مرتبہ ہو	روٹی دیکھنا	دولت ملے
بلند جگہ سے گرنا	تنزلی و حیرانی ہو	[illegible]	روپیہ [illegible]	جنگل خشک دیکھنا	حیرانی اور پریشانی ہو	چاہ دیکھنا	فکر و حیرانی ہو	خرگاہ دیکھنا	حصول [illegible]	روٹی کھانا	مشکل میں [illegible] ہو
بازو [illegible] دیکھنا	برادر کا انتقال [illegible]	پیاس لگنا	حرص زیادہ ہو	جنگل میں دوڑنا	مصیبت [illegible]	چاہ میں گرنا	مشکل پیش آئے	خر کی سواری کرنا	رنج [illegible]	رہزن کو دیکھنا	[illegible]
باغ سبز دیکھنا	خوشحالی و فرحت ہو	پانی پینا	کشائش روزگار	جنازہ دیکھنا	بیماری [illegible]	چھینکیں مارنا	مصیبت پیش آئے	خانہ [illegible] دیکھنا	افلاس کی [illegible]	[illegible] دیکھنا	عمر [illegible] ہو
باغ خشک دیکھنا	[illegible] کی نشانی	پوری کھانا	طبیعت خوش ہو	جوتا تنگ پہننا	عورت سے جھگڑا ہو	[illegible] دیکھنا	[illegible]	خاک کھانا	ذلیل ہو	رقاص دیکھنا	تجارت [illegible]
برات دیکھنا	[illegible]	[illegible] دیکھنا	عورت خوبصورت [illegible]	جھنڈا سرخ دیکھنا	راحت اور خوشی ہو	حوض دیکھنا	دولت ملے	خطبہ پڑھنا	بزرگی ملے	رعد دیکھنا	حاکم سے نقصان
بارش دیکھنا	غلہ ارزاں ہو	[illegible] دیکھنا	دوست سے ملاقات ہو	جونک دیکھنا	بیماری [illegible]	حوض کا پانی پینا	مال [illegible]	خون میں لوٹنا	[illegible]	روشنی دیکھنا	ترقی نسل ہو
بال [illegible] دیکھنا	قرضہ سے سبکدوشی	پل پر چلنا	ہر ایک کام [illegible]	جواہرات دیکھنا	حصول مراد ہو	حوض میں [illegible]	رنج و تکلیف ہو	خفا ہونا	خوشی [illegible]	رنگ [illegible]	جسم [illegible] ہو
برف گرتے دیکھنا	موسم خراب ہو	پان کھانا	کسی [illegible]	[illegible] دیکھنا	حکومت ملے	حمام [illegible] کرنا	رنج [illegible]	دریا سے پانی پینا	[illegible]	رکابی دیکھنا	[illegible]
بانسری بجانا	پریشانی و حیرانی [illegible]	[illegible]	[illegible]	جھاڑو دینا	فضول خرچ ہو	حمام جانا	عیش کی علامت	دریا میں نہانا	[illegible]	[illegible]	مشکل [illegible] ہو
[illegible] دیکھنا	[illegible]	[illegible] کو دیکھنا	رنج و غم [illegible]	جماع کرنا	زر و مال حاصل ہو	حاکم کو دیکھنا	عزت کی دلیل ہے	دریا [illegible]	[illegible]	[illegible]	فائدہ [illegible]
بیل موٹا دیکھنا	غلہ ارزاں ہو	[illegible]	حیرانی ہو	جماع کرانا	[illegible]	حمام [illegible]	[illegible]	دریا کی لہریں	فکر [illegible]	زمین [illegible]	رنج [illegible]
بیل دبلا دیکھنا	غلہ گراں ہو	تلوار [illegible]	[illegible]	جنگ کرنا	[illegible]	حمام میں [illegible]	[illegible] مصیبت [illegible]	دریا [illegible]	[illegible]	زمین [illegible]	کشائش [illegible]
بالی [illegible] دیکھنا	[illegible]	تلوار [illegible]	دشمن پر فتح ہو	جنگ [illegible]	حکومت [illegible]	[illegible] دیکھنا	خوشی [illegible] ہو	دروازہ دیکھنا	[illegible]	زمین میں سما [illegible]	[illegible]
سر [illegible] دیکھنا	[illegible] رنج ہو	تلوار [illegible]	کوئی [illegible]	جامن کھانا	تکلیف [illegible]	حلوہ کھانا	حصول علم [illegible]	دیوار سے گرنا	[illegible]	[illegible]	[illegible]

علم کیرل کے ذریعہ سوالات کے جوابات

اولاد کیوں نہیں ہوتی

اگر کوئی شخص یہ دریافت کرے کہ فلاں مرد و عورت کے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی اور دونوں میں سے نقص کس میں ہے - تو چاہیئے کہ ہر دو کے نام کے اعداد نکال کر جمع کرے اور مجموعہ کو ۲ پر تقسیم کر دیں - اگر باقی طاق عدد بچیں تو عورت میں نقص ہے - اور اگر جفت باقی رہیں تو آدمی میں نقص ہے - اس سے اس کا علاج کروانا چاہیئے -

فتح و شکست کا سوال

اگر کوئی دریافت کرے کہ فلاں مقابلہ کشتی یا لڑائی جھگڑا یا مقدمہ میں کون کامیاب ہوگا - تو چاہیئے کہ بوقت سوال یوم - تتھ - نچھتر کا شمار جمع کرے اور جس قدر گھڑی دن گذر چکا ہو وہ بھی اس میں شامل کرے - اور سورج اور چندرماں کے نچھتروں کے باہمی فرق کے عددوں کو بھی اس میں ملالے بعد ازاں کل مجموعہ کو ۷ پر تقسیم کرے - اگر ۱ یا ۳ باقی رہیں - تو دریافت کنندہ کامیاب ہوگا - اگر ۴ یا ۶ باقی رہیں - تو مقابل والا کامیاب ہو - اگر ۲ یا ۵ رہیں - تو باہمی صلح ہو جاوے - اگر کچھ باقی نہ رہے - تو کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہ نکلیگا -

پردیس گیا ہوا آدمی کب واپس آئیگا؟

اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ پردیس گیا ہوا شخص کب واپس آویگا تو چاہیئے کہ وقت دریافت جو تتھ ہو اس کا شمار اور اس روز کے نچھتر کا شمار کر کے دونوں کو جمع کرے - اور مجموعہ کو ۷ پر تقسیم کرے - اگر ایک بچے تو ابھی وہاں پر ہی مقیم ہے - اگر ۲ رہیں - تو ایک جگہ اس کا قیام نہیں ہے - اگر ۳ رہیں تو راستہ میں ہے - اگر ۴ رہیں تو آنے والا ہی ہے - اگر ۵ رہیں - تو جلد آویگا - لیکن قیام نہ کریگا - اگر ۶ رہیں تو وہاں بیمار ہے - اگر صفر رہے تو ابھی اس کے آنے میں بہت دیری ہے -

کیا ملاقات ہوگی؟

اگر کوئی شخص دریافت کرے کہ فلاں شخص سے ملاقات ہوگی - تو چاہیئے کہ بروقت دریافت کے تتھ - نچھتر - وار - یوگ کا شمار معلوم کر کے سب کو جمع کرے اور اس مجموعہ میں مطلوب کے نام کے حروف کو شمار کر کے اس میں جمع کرے اور اس مجموعہ کو الگ لکھ لے پھر اپنے نام کے حروف کا شمار کرے اور مجموعہ اول کو اس سے تقسیم کرے - اگر طاق عدد باقی بچے - تو ہرگز ملاقات کی امید مت رکھو اگر جفت بچے تو ملاقات ہوگی - پھر وار تتھ کو ۷ پر تقسیم کرو - اگر ایک بچے تو راستہ چلتے چلتے ملاقات ہوگی - اگر ۲ بچیں تو جلد باہم گفتگو ہو - اگر ۳ رہیں تو وہ شخص خود تم سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے - لیکن کسی کے خوف سے نہیں ملتا - اگر ۴ بچیں تو فضول کوشش کرتے ہو ملاقات نہ ہوگی - اگر ۵ رہیں تو عنقریب تم کو ملاقات کا پیغام ملیگا - اگر ۶ رہیں تو وہ شخص صرف مطلب پرست ہے - دلی محبت تم سے نہیں رکھتا اگر کچھ باقی نہ رہے - تو خیال چھوڑ دو - وہ ہرگز تم سے ملنا نہیں چاہتا -

نوٹ - علم کیرل کا مفصل رسالہ جس میں اس علم کے تمام اصول و قواعد درج ہیں - قیمت دس آنے (۱۰) منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے مل سکتا ہے -

علم جوتش

سلسلہ کے لئے دیکھو مشہور عالم جنتری ۱۹۳۵ء صفحہ نمبر ۵۲

کُنبھ راشی میں مفرد گرہے کا ثمرہ

اگر سورج پڑا ہو - تو جھوٹ کا پتلا سب سے عداوت رکھنے والا فتنہ انگیز میلا پوش ہو
اگر چندرماں پڑا ہو تو آلسی سست الوجود دلدری کم عقل دشمن اس کے ہمیشہ زیر رہیں -
اگر منگل پڑا ہو تو اولاد سے رنجش - شریر روگی - خویشوں سے عداوت رکھے -
اگر بدھ پڑا ہو تو کم عقل نیکی سے کنارہ کش گھر کے لوگوں سے کلیش رکھے -
اگر برہسپت پڑا ہو - تو مفلس بے مروت کھوٹے کرم کرے - ہمیشہ بیمار رہے -
اگر شکر پڑا ہو تو نامرد دلدری سست الوجود میلا پوش نیکی کے کام نہ کرے -
اگر سنیچر پڑا ہو - تو زناہ کار - کھوٹے کرم کرنے والا - دشمنوں سے نقصان - خیالات فاسد رکھے -

کُنبھ راشی میں مجمل گرہوں کا ثمرہ

(۱) سورج میکھ کا چندرماں برکھ کا اور سنیچر کنبھ کا ہو تو صاحب ملک الملک عالی مرتبہ
(۲) چندرماں اور سورج کنبھ راشی میں ہوں سست الوجود دلدری کم عمر ہو -
(۳) اگر منگل چندرماں کنبھ میں ہوں - تو وہ بھی بے ہمت لوگوں کی بدگوئی کرنے والا ہو -
(۴) اگر بدھ و شکر کنبھ میں ہوں - تو ہمیشہ گھر والوں سے الگ رہے - عورت سے محبت نہ ہو -
(۵) اگر راہو کنبھ میں یا مکر میں اور لگن سے آٹھویں سنگھ راشی کا چندرماں ہو - تو اس کا سر پھٹ جاوے -

مین راشی میں مفرد گرہے کا ثمرہ

اگر سورج پڑا ہو - تو دوستوں سے آرام پاوے تجارت کے کاموں میں نام پاوے
اگر چندرماں پڑا ہو تو بڑا عالم - فاضل ہنرمند - عورتوں سے پرہیز رکھے -
اگر منگل پڑا ہو تو بڑا زناہ کار بے رحم فضول عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے
اگر بدھ پڑا ہو - تو دھرم کے کاموں میں دل لگائے - اونچی ذات کی عورتوں سے سنگت کرے -
اگر برہسپت پڑا ہو - تو خوش مزاج - سخی - شہوت پرست حاکم ہو -
اگر شکر پڑا ہو - تو راج دربار میں مرتبہ بلند عیش و عشرت میں سرگرداں - دشمن زیر ہوں -
اگر سنیچر پڑا ہو - تو ہنرمند نرم مزاج غافل سب سے محبت کرنے والا اور تاجر ہو -

مین راشی میں مجمل گرہوں کا ثمرہ

سورج اور چندرماں دونوں مین راشی میں ہوں تو بڑا پرتاپی - صاحب اقبال ہو - اگر سورج چندرماں مین کے ہوں - اور پاپی گرہوں کی ان پر درشٹی ہو - تو اس کا والد پانی میں ڈوب کر مرے *

نوٹ

اگر جنم کنڈلی دیکھنے کیلئے مفصل اصول و قواعد دیکھنے ہوں - تو رسالہ سرشتہ قسمت قیمت ۸ منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوا لو - اس رسالہ میں تمام گرہوں کے مفرد و مجمل پھلا دیش ہر ایک گھر کے الگ الگ نہایت مفصل و با تشریح درج کئے گئے ہیں *

پچیس ۲۵ سال کی پیشینگوئیاں

مصنفہ پنڈت گردھاری لعل منجم و جفار سیالکوٹی

یہ نادر و نایاب کتاب پنڈت صاحب نے اپنی زندہ یادگار سنہ ۱۹۱۱ء میں تیار کی تھی۔ اور اس میں سنہ ۱۹۰۱ء سے لیکر سنہ ۱۹۵۰ء تک کی مختصر جنتری اور ہر سال کی مفصل پیشینگوئی درج کر کے اس کا نام پچاس سالہ پیشینگوئیاں رکھا تھا۔ یہ پچاس سالہ پیشینگوئیاں ایسی مقبول عام اور ہر دلعزیز ہوئیں۔ کہ طبع ہونے کے تھوڑے ہی عرصہ میں قدر دانوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیں۔ اور ہزاروں لوگ اس گوہر نایاب کیلئے ترستے رہے۔ روزانہ سینکڑوں فرمائشی خطوط ردی میں ڈالنے پڑے۔ شائقینوں کی بڑھتی ہوئی خواہش کو دیکھ کر اب ہم نے دوبارہ اس کو چھپوایا ہے صرف اس میں اس قدر ترمیم کر دی ہے۔ کہ بجائے پچاس سال کے پچیس سال چھاپے گئے ہیں۔ یعنی سنہ ۱۹۰۱ء سے لیکر سنہ ۱۹۲۵ء تک کا حصہ الگ کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ سال گزر چکے ہیں۔ اب سنہ ۱۹۲۶ء سے لیکر سنہ ۱۹۵۰ء تک کا مضمون اس میں درج کیا گیا ہے۔ اس کی تعریف کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ سارا زمانہ اس کا شیدا ہو رہا ہے ہم صرف اس قدر بتلا دیتے ہیں۔ کہ اس میں ہر سال کی عیسوی ہجری فصلی اور بکرمی مہینوں کی تاریخیں ہر روز کی تتھ مع گھڑی پل ہر سال کے تہوار۔ گرہن۔ راجہ منتری وغیرہ کا پھل اور ہر سال کی پیشینگوئیاں ارضی و فلکی بابت ارزانی و گرانی غلہ بارش دنیا کا رنج و راحت ملکی حالات وغیرہ وغیرہ کی مفصل پیشینگوئی ہر سال کی الگ الگ درج ہے۔ پس اس کی ایک جلد منگا کر آپ سنہ ۱۹۵۰ء تک تمام دنیا میں آنے والے واقعات سے خبردار ہو جائیے۔ قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ (نہایت خوبصورت کپڑے کی جلد بندھی ہوئی ہے)

تحفہ نایاب

طلسم حل المشکلات

طلسمات کے شائقینو! زمانہ گزشتہ کے حکماؤں کے ایجاد شدہ طلسموں کی خوبیاں سن کر حیرت زدہ ہونا پڑتا ہے۔ مگر زمانہ کے انقلاب کے وہ سب ملیامیٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ شعاع امید باقی ہے۔ اور ابھی ہندوستان جنت نشان میں ایسے ایسے عامل کامل موجود ہیں۔ جو اپنی روحانی طاقت سے دنیا کو زیر و زبر کر سکتے ہیں۔ لیجئے! یہ ایک عامل کامل کا عطا کردہ طلسمی تعویذ آپ کے پیش نظر ہے۔ جو حسب ہدایت تیار کر کے چاندی کے تعویذ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھیگا۔ اس کی برکت سے اسکی تمام دنیاوی مشکلات حل ہو جاوینگی۔ مقدمات میں فتح ہوگی۔ دشمن بھی دوست ہو جاوینگے حاکم مہربان ہونگے۔ روزگار کشادہ ہوگا۔ دولت کی ترقی ہوگی۔ راج دربار میں عزت بڑھیگی۔ دنیا میں رتبہ بڑھیگا۔ اس طلسم کی موجودگی میں کسی طرح کا آسیب۔ سایہ جن۔ بھوت۔ شیطان نزدیک نہ آئیگا۔ بچوں کے گلے میں ڈالنے سے ہر طرح کی نظر بد اور امراض مہلکہ سے محفوظ رہینگے مستورات اپنے پاس رکھینگی۔ تو ہر طرح سے محفوظ رہینگی۔ بحالت حمل اس طلسم کے پاس ہونے سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہوگا۔ اس نادر و نایاب طلسم کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

بھوتوں کا اُستاد

یہ ایک پہاڑی بوٹی ہے۔ جو کہ کوہ ہمالیہ کے دشوار گزار علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو اگر خاص وقت پر حاصل کیا جائے تو اس کی یہ تاثیر ہے۔ کہ اس کی دھونی سے سایہ جن و بھوت پریت کوسوں بھاگتے ہیں۔ شیر خوار بچوں کو اس کی دھونی دینے سے وہ نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ حاملہ مستورات کی تو محافظ جان ہے۔ دوسرے چوتھے روز اس کی دھونی لیں۔ اور تھوڑی سی پاس رکھیں۔ تو ہر قسم کے خطرات سایہ آسیب سے محفوظ رہینگی ہم نے بڑی کوشش سے یہ بوٹی خاص وقت میں تھوڑی سی مقدار میں حاصل کی ہے۔ اس لئے ضرورت مند اصحاب جلد منگوا لیں۔ قیمت صرف ایک روپیہ فی تولہ ہے۔ جو مدت تک کافی ہے۔

موہنی دھوپ

یہ دھوپ منتر ودیا کے ذریعہ خاص ادویات۔ خاص وقت پر ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ اس کی دھونی جب تک جس عورت یا آدمی کو دوگے وہ تمہاری محبت میں دیوانہ ہوگا۔ اور از حد الفت کریگا۔ وشی کرن کے شوقین جلد منگوا لیں۔ قیمت فی چھٹانک آٹھ آنے (۸ر)

ملنے کا پتہ:۔ **مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**

علم جوتش کی بے نظیر رمل کی دلپذیر و طلسمات کی پُرتاثیر نادر و نایاب کتابیں

مصنفہ و مرتبہ پنڈت گردھاری لعل صاحب منجم و جفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری لاہور

مہربانو قدردانو! علم راز کے مندرجہ ذیل کتب کو مصنف نے ایسا مدلل اور با تفریح لکھا ہے۔ اور ان اصول کے مخفی مضامین کو ایسا آسان طور پر حل کر کے دکھلایا ہے کہ جن کے مطالعہ سے ہر شخص علم جوتش و رمل میں کامل مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات درج نہیں کی گئی۔ جس کے سمجھنے کے لئے آپ دوسروں کے محتاج ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ معزز احباب نے ان کو بہت پسند کیا۔ عوام میں ان کی بڑی بھاری تعریف ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے مشہور اخبارات نے ان کتابوں پر عمدہ ریمارک لکھے ہیں۔ مبتدیوں کے لئے یہ کتابیں استادِ کامل کا کام دیتی ہیں۔ ہزاروں آدمی ان کتابوں کی بدولت علم جوتش وغیرہ سے پورے واقف ہو چکے ہیں۔ ہر ایک کتاب کئی کئی مرتبہ چھپ کر فروخت ہو چکی ہے۔ پس اگر آپ کو ان علم کے مطالعہ کا شوق ہے۔ تو فوراً ان کو خرید کر فائدہ اٹھائیں۔ محصول ڈاک وغیرہ بذمہ خریدار ہے۔

علم جوتش کی نادر کتابیں

علم جوتش کا قاعدہ

ہم نے مبتدیوں کی آسانی کے لئے نہایت محنت و کوشش سے یہ رسالہ تیار کیا ہے۔ اس میں علم جوتش کی تمام ابتدائی موٹی موٹی باتیں درج کی گئی ہیں جس سے معمولی لکھا پڑھا بھی علم جوتش کے ابتدائی مراتب سمجھ سکتا ہے۔ قیمت ۵ر

علم جوتش کی پہلی کتاب

اس میں مضمون جنم پتروں کے قواعد تمام قسم کے لگن کے پھل گرہ پتر کا بیان اور پھلادیش گرہوں کا جسم انسان کے ہر حصہ پر اثر تاثیرات اور کئی طرح کے کارآمد مضامین جن کی مبتدیوں کو ضرورت رہتی ہے۔ درج ہیں۔ قیمت صرف دس آنے (۱۰ر)

سرشتہ قسمت

یہ ایک بے مثل رسالہ ہے۔ جس کا موضوع انسانی قسمت کا فلسفہ ہے۔ اس رسالہ کے ذریعہ ہر ایک شخص کی جنم کنڈلی یعنی زائچہ پیدائش دیکھ کر اس کی تمام عمر کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس میں گرہوں کے مفرد و مرکب پھلادیش اس خوبی سے درج کئے گئے ہیں کہ جس سے ہر ایک شخص جنم کنڈلی کو دیکھ کر انسان کی قسمت کا فوٹو کھینچ سکتا ہے۔ معزز احباب کی فرمائش سے بڑی محنت و کوشش سے یہ رسالہ عام فہم لکھا گیا ہے۔ باایں ہمہ خوبی اس کی قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ

آئینہ حیات حصہ اول و دوم

انسانی سوانح عمری یعنی جنم پتری تیار کرنے اور واقعات رنج و راحت دیکھنے کے لئے یہ دو رسالجات قابل دید ہیں۔ حصہ اول میں جنم پتری بنانے کا مفصل طریقہ اور حصہ دوم میں گرہوں کی حالتیں جن میں کبھی ناچتے کبھی کودتے کبھی سوتے ہیں اسی طرح تمام حالتوں کا نقشہ کے اصول اور ان کا نیک و بد ثمرہ درج کیا گیا ہے۔ غرضیکہ جنم پتری تیار کرنے کے لئے یہ ہر دو رسالجات مکمل ہیں۔ قیمت حصہ اول ۱۲ر حصہ دوم ۱۰ر ہر دو حصہ مجلد عہ

آئینہ تقدیر حصہ اول

علم جوتش کے معتقدو! ہر سال آپ جوتشیوں سے ورش پھل لکھواتے ہیں۔ لیجئے۔ آپ کی خاطر جنم کنڈلی سے ورش پھل تیار کرنے کا مفصل رسالہ آپ کی نذر ہے جس کے اصول و قواعد کو پڑھ کر آپ خود بخود اپنا ورش پھل تیار کر لیں گے۔ بلکہ تمام سال کی دشا انتر دشا نکال کر سال بھر کے حالات رنج و راحت آپ بخوبی معلوم کر لیں گے۔ اور جوتشیوں کے سالانہ ٹیکس سے بچ جائیں گے۔ قیمت آٹھ آنہ ۸ر

حصہ دوم اس رسالہ کے حصہ دوم میں ورش کنڈلی کے گرہوں کے پھل یعنی تاجک علم قران سیارگان سے سال بھر کے احکام نکالنے کا مفصل بیان درج ہے۔ قیمت آٹھ آنہ ہر دو حصہ اکٹھے مجلد ایک روپیہ (عہ)

مخبر آسمانی حصہ اول

آسمانی علامات اور گردش کواکب کو دیکھ کر اگر آپ تمام سال کے حالات رنج و راحت۔ ابر و باراں۔ قحط سالی ارزانی و گرانی اجناس و بیماری وغیرہ کی نسبت پیشگوئی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس رسالہ مخبر آسمانی کو منگالو۔ واقعی یہ رسالہ اسم بامسمی ہے۔ جو کہ آپ کو تمام دنیا کے حالات سے قبل از وقت خبر دیگا۔ قیمت صرف بارہ آنے ۱۲ر

کلید جوتش

یہ گنت ودیا یعنی علم ریاضی کی بے نظیر کتاب ہے جس کے ذریعہ آپ ہر سال کے تتھ نچھتر۔ یوگ گھڑی وغیرہ بلا امداد دیگرے خود بخود نکال سکتے ہیں علاوہ اس کے جنتری بنانے کے متعلق بہت سی باتیں اس میں درج ہیں۔ جن کو ہر ایک شخص بآسانی عمل کر سکتا ہے۔ اس کی قیمت صرف آٹھ آنہ ہے۔ (۸ر)

رسالہ علم کیرل

علم راز کا ایسا بے نظیر رسالہ ہے۔ اس کا عامل دریافت کنندہ سے کسی پھل۔ پھول۔ ندی یا دیوتا کا نام کہلوا کر اس کے نیک و بد حالات اور کار رنج سے یا راحت سے ہونے کی بابت بتلا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ قیمت صرف دس آنے (۱۰ر)

لگن رتناگر

لگن یعنی طالع وقت معلوم کرنے کے لئے یہ چھوٹا سا رسالہ قابل دید ہے۔ علاوہ طالع وقت کے مختلف شہروں کا تفاوت وقت دریافت کرنے کا قاعدہ اور تقریباً ۸۰ شہروں کے وقت تفاوت کا نقشہ بھی دکھلایا گیا ہے۔ قیمت صرف چار آنے (۴ر)

مفتاح الغیب

حقیقت میں یہ غیب دانی کا بے نظیر رسالہ ہے اگر اس کو آئینہ جہاں نما کہیں تو بجا ہے۔ اس میں حواس خمسہ کے پانچ جانوروں یعنے شکرا۔ بگلا۔ کوا۔ مرغا۔ مور کے ذریعہ ہر قسم کے سوالات کے جوابات معلوم کرنے کا اصول بتلایا گیا ہے۔ جو قابل دید ہے۔ ہمزاد کو مسخر کرنے اس کے ذریعہ حل مشکلات کے مفصل قواعد اس میں درج ہیں قیمت بارہ آنے (۱۲ر)

رازداں یعنے زندہ جادوگر

اس میں شک نہیں۔ کہ علم راز کے کئی ایک رسالے آپ نے دیکھے ہونگے۔ مگر یہ رسالہ بالکل نئے ڈھنگ اور نرالی طرز کا ہے۔ اور ایسے آسان طریقہ سے لکھا گیا ہے۔ کہ جس سے معمولی اردو خوان بھی دل کی پوشیدہ بات حرف بحرف بتلا کر اس کے نیک و بد نتائج قبل از وقت ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ رسالہ شائقینوں کو حیران بنانے کا آلہ ہے۔ کیونکہ اس میں علم راز کا وہ پوشیدہ اصول بتایا گیا ہے۔ جس سے دوسرے کے دل کی مخفی بات فوراً معلوم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تعریف فضول ہے۔ منگوا دیکھئے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

نظارہ تقدیر

یہ علم سامدرک کا رسالہ ہے۔ جس کے ذریعہ انسان کی شکل و شباہت۔ رفتار و گفتار۔ ہاتھ۔ پاؤں کی بناوٹ اور ہاتھ کی ریکھا یعنے خط و خال دیکھ کر اس کی زندگی کے تمام حالات رنج و راحت ترقی و تنزل وغیرہ وغیرہ معلوم ہو سکتے ہیں۔ قیمت مجلد چھ آنے (۶ر)

ملنے کا پتہ:- مینجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور

[illegible]

معجزات آسمانی
یعنی
پیشینگوئیاں کرنے کا رسالہ

یہ علم جوتش کا وہ چمتکاری رسالہ ہے۔ جس کے مطالعہ سے ہر شخص دنیا میں آیندہ پیش آنے والے واقعات اور موجودات عالم کی ترقی و تنزل کے حالات کی نسبت قبل از وقت پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اس میں نظام شمسی کے پوشیدہ نکات اور گردش سیارگان کی تاثیرات سے کرہ ارض کے حادثات۔ زمانہ کے انقلابات۔ بارش کے حالات۔ ارزانی و گرانی غلہ اور مخلوقات رنج و راحت کے واقعات اور دنیا میں پیش آنے والے تغیرات کو جاننے کے طریقے اس خوبی اور وضاحت سے لکھے گئے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہے قیمت عمہ

شادی کا مہورت

اہل ہنود میں سگائی و شادی کے لئے شبھ مہورت کا دیکھنا لازمی ہے۔ اس لئے عام لوگوں کی سہولت کیلئے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ جس سے سگائی و شادی کا مہورت دیکھنے کے لئے کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ بلکہ آپ خود بخود شادی کے ساہے سب دوش اس کا لگن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ قیمت صرف آٹھ آنہ (۸ر)

جام جمشید

یہ علم مسمریزم کا نادر رسالہ ہے۔ اس میں ان مخفی اسراروں کا پردہ کھول دیا گیا ہے جن پر عمل کرنے سے عامل قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ سنگدل کو موم کرنا اور تمام موجودات عالم کو مسخر کر لینا۔ محبوبوں کو تابع کرنا ایسے عامل کیلئے کوئی مشکل بات نہیں۔ قیمت مجلد ایک روپیہ

رسالہ علم الخواب

کون شخص ہے۔ کہ جس کو رات کو سوتے ہوئے خواب نہ دکھائی دیتا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ اگر انسان کا دل تفکرات سے پاک و صاف ہو اور کسی طرح کا آزار جسم میں نہ ہو۔ تو خواب بمنزلہ ایک الہام کے ہے اور جس کے ذریعہ قدرت کی طرف سے انسان کو آئندہ پیش آنے والے نیک و بد واقعات سے قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے سمجھنے کے لئے اس رسالہ میں ہر قسم کے خواب اور ان کی نیک و بد تاثیر بالتفصیل درج کر دی ہے۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔ قیمت آٹھ آنہ ۸ر

اسرار الطلسمات

طلسمات کا وہ علم ہے جس کا عامل تمام عالم کو اپنا دامن گرفتہ بنا سکتا ہے۔ مصنف نے اس رسالہ میں رموز طلسمات کا پردہ اس خوبی سے اٹھا دیا ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں حل مشکلات کے قواعد۔ محبت و الفت پیدا کرنے۔ تسخیر اہل سلطنت۔ دفعیہ دشمنان۔ مغلوبی حاسدان۔ ہر دلعزیزی۔ کشائش رزق و بلندی مرتبہ۔ نزول ابر باران۔ بقائے نسل۔ ترقی مال۔ دفعیہ بیماری وغیرہ کے نہایت بے نظیر مجرب با تاثیر طلسم درج کئے گئے ہیں۔ اور قریباً چار سو تصاویر اشکال فلکی و طلسمات کی دکھلائی گئی ہیں۔ درحقیقت یہ رسالہ عاملان علم طلسم کے لئے بے نظیر چیز ہے قیمت صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ

محبوب الطالبین

یہ علم جفر کا بے نظیر رسالہ ہے۔ جس میں علم الاعداد کے ذریعہ حصول مطلب و حل مشکلات کی عجیب و غریب ترکیبیں درج ہیں۔ تسخیر مطلوب و بلندی مراتب کے قواعد عمل کرنا چاہو۔ تو اس رسالہ کو منگوا کر دامن امید کو گوہر مقصود سے بھر لو۔ قیمت ۸ر

فالنامہ حروفی

ناظرین! یہ وہی حروفی فالنامہ ہے۔ جس کا مضمون مشہور عالم جنتری میں کئی سالوں سے درج ہوتا چلا آرہا ہے۔ شائقینوں کی فرمائش سے علیحدہ کتابی صورت میں چھاپا گیا ہے۔ قیمت صرف چار آنے ۴ر

قرعہ حروفی

حروفی فالنامہ کو دیکھنے کے لئے قرعہ ضروری چیز ہے۔ لوگوں کی رفع تکلیف کی خاطر یہ قرعہ وقت پر تیار کرائے گئے ہیں قیمت صرف آٹھ آنے (۸ر)

علم رمل کا ضروری کارآمد آلہ
یعنی
قرعہ رمل

علم رمل کے جاننے والوں کیلئے قرعہ رمل نہایت ضروری ہے جس سے زائچہ رمل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ علم رمل کا شوق رکھتے ہیں تو کتب رمل کے ہمراہ ایک جوڑی قرعہ رمل جو اوقات سعید میں دعا و عمل باقاعدہ تلاوت سے تیار کئے جاتے ہیں ضرور خرید فرمائیں۔ اس سے زائچہ تیار کرنے میں آپ کو آسانی رہیگی۔ قیمت فی جوڑی ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

علم رمل کی نادر کتابیں

کاتب تقدیر

ہر شخص اپنا برش پھل یعنی حالات سالانہ معلوم کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جنم پتری موجود ہو وہ بذریعہ علم جوتش اپنا برش پھل بنوا سکتے ہیں۔ لیکن جن کی جنم پتری موجود نہیں۔ ان کے لئے بڑی مشکل ہے۔ پس ایسے لوگوں کی مشکل حل کرنے کیلئے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے اس رسالہ کے طریق و قواعد پر عمل کرکے قرعہ رمل ڈالکر جس شخص کے چاہو سال بھر کے حالات نیک و بد ایک ساعت میں معلوم کر لو۔ علم رمل کے شائقین اس رسالہ کو منگوا کر دیکھیں۔ کہ کس طرح دریا کوزہ میں بند کیا گیا ہے قیمت صرف ۱۲ر

مخبر تقدیر حصہ اول و دوم

ان ہر دو رسالوں میں علم رمل کے وہ اصول درج ہیں۔ جن پر عمل کرنے سے ہر ایک آدمی کے حالات پوشیدہ۔ احکام اور موجودات عالم کی اصلیت و کیفیت فوراً معلوم ہو جاتی ہے اور ہر شخص کے حالات زمانہ ماضی و مستقبل آئینہ کی طرح سامنے آجاتے ہیں۔ قیمت حصہ اول دس آنے حصہ دوم عہ ہر دو حصہ منگانے والے سے صرف ایک روپیہ

کلید غیب دانی

یہ علم رمل کا وہ بے نظیر رسالہ ہے۔ جو کہ دوسرے کے دل کی مخفی بات اور آئندہ کے نیک و بد نتائج سے چشم زدن میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اس رسالہ میں ان پوشیدہ رازوں کا پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ جس کے ذریعہ سے جوتشی لوگ ہزاروں روپیہ کماتے ہیں۔ دلی راز معلوم کرنے کیلئے اس رسالہ میں وہ طلسم درج ہیں کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ بہت مرتبہ چھپ چکا ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (عہ)

جامع الرمل

علم رمل کے شائقینوں کی خاطر اس رسالہ کو ایسا آسان لکھا گیا ہے کہ جس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکے۔ علم رمل کے تمام ضروری قواعد نہایت عمدگی اور ترتیب سے اس میں درج کر دئے گئے ہیں۔ جو دیکھنے کے قابل ہے۔ اس میں علم رمل کے تمام زائچہ جنکی انتہا ۶۵۵۳۶ ہے مع احکام الہی نادر ترکیب سے اس میں درج کئے گئے ہیں۔ جن کو دیکھ کے دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ بوقت ضرورت زائچہ رمل بنا کر اس کو اس کتاب میں سے نکال لیں۔ اور اپنے سوال کا جواب معلوم کر لیں۔ قیمت ایک روپیہ بارہ آنہ (۱۲؍۱)

مشیر تقدیر

علم رمل کا بے نظیر رسالہ جس میں ۲۸۸ سوالات کے جواب دیکھنے کے قابل دلپذیر طریق و قواعد درج ہیں۔ قیمت ۳ر

ملنے کا پتہ:- مینجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور

آنکھیں کھل گئیں جب چاند نکل آیا





آنکھیں دُنیا میں بہت بڑی نعمت ہیں۔ جن کے ذریعہ انسان دُنیا کے نشیب و فراز کو جانتا ہے۔ اور نیک و بد کو پہچانتا ہے۔ جب ان میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر دنیا ہیچ اور زندگی وبال جان ہو جاتی ہے۔ آجکل کی آب و ہوا نے بہت سی ایسی بیماریاں پیدا کر دی ہیں جن سے فیصدی پچھتر آدمی ضعف بصارت اور دیگر امراض چشم میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اور آجکل کے نوجوان دماغی محنت کی زیادتی کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کھو کر عینکیں چڑھائے پھرتے ہیں۔ اس لئے ہم جملہ امراض چشم کے مریضوں کو توجہ دلاتے ہیں۔ کہ پنڈت گردھاری لعل منجم و جفار سیالکوٹی مصنف مشہور عالم جنتری بہت عرصہ تک رفتار کواکب کی سعادت اور نحوست کے پراثر پراچین تنتر ودیا کے تجربات میں مشغول رہے۔ انہوں نے سب سے پہلے **چاند تنتر** سے **چندر پربھا سُرمہ** تیار کیا جس میں پُر تاثیر جنگلی بوٹیوں کے رسوں کو چندرماں کی سعادت اور وقت کی پابندی سے ڈال کر چندرماں کی روشنی کو حکیمانہ اصول پر جذب کر کے چندر پربھا سُرمہ بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ جو جملہ امراض چشم۔ ضعف بصارت۔ دھند۔ جالا۔ غبار۔ پڑبال۔ ناخنہ خارش۔ پھولا۔ سرخی چشم اور آنکھوں سے بکثرت پانی جاری رہنا۔ تاریکی چشم اور شب کوری وغیرہ کو دُور کر کے آنکھوں کی روشنی کو چندرماں کی طرح بڑھاتا ہے۔ ہر عمر کے آدمی کو یکساں فائدہ دیتا ہے۔ اس کے استعمال سے عینک لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ طالب علموں اور دماغی محنت کرنے والوں کے لئے چندر پربھا سُرمہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ ایک سال تک حسب ہدایت موجد۔ کارخانہ کے دوست و احباب میں بطور تحفہ تقسیم ہوتا رہا۔ جو اپنی حکمی تاثیر میں بے نظیر ثابت ہوا۔ جس کو اب بغرض فائدہ عام مشتہر کیا جاتا ہے۔ کہ جملہ امراض چشم کے مریضو۔ آؤ۔ چندر پربھا سرمہ امراض چشم سے نجات دلاتا ہے۔ آنکھوں کو خوبصورت بناتا ہے۔ بایں ہمہ صفت اس کی قیمت بہت ہی قلیل ہے۔ یعنی فی تولہ ایک روپیہ دس آنہ (عہ) معہ محصول ڈاک ہے۔

۶ ماشہ کے لئے بارہ آنے (۱۲/) پیکنگ محصول رجسٹری ۶/ کل (عہ) ۶ ماشہ سے کم روانہ نہ ہوگا۔

سُرمہ لگانیکی سلائی

تنتر شاستر کے انسار خاص شبھ وقت پر اور خاص دھاتوں کی ملاوٹ سے یہ سلائی تیار کی گئی ہے۔ اگر اس سلائی سے سُرمہ آنکھوں میں لگایا جاوے۔ تو چوگنا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ یہ سلائی امراض آنکھ کے لئے نہایت مفید ہے۔ قیمت فی سلائی صرف آٹھ آنہ علاوہ محصول ڈاک۔

جو صاحب سُرمہ کی شیشی کے ہمراہ سلائی طلب کریں گے۔ ان سے صرف فی سلائی نصف قیمت یعنی چار آنے (۴/) لی جاویگی۔

(نوٹ) چونکہ یہ سُرمہ خاص وقت پر تیار ہوتا ہے۔ اس لئے بعض وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے باہر سے آئی ہوئی فرمائشیں رُک جاتی ہیں اور تیار ہونے پر روانہ کی جاتی ہیں۔ اس لئے اگر پارسل کی روانگی میں دیر ہو جاوے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں۔ تیار ہونے پر فوراً روانہ کر دیا جاوے گا +

المشتہر:- **مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور**



دھات پُشٹ

یعنے

طاقت بڑھانے والی بے مثل دوا

قیمت صرف دو روپیہ
محصولڈاک آٹھ آنہ کُل عہ



پرمیشور نے جسم انسانی میں مادۂ تولید ایک ایسا جوہر پیدا کیا ہے جس پر انسان کی زندگی کا کل دارومدار ہے۔ جب اس میں کسی قسم کا نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے جسم میں صدہا امراض پیدا ہو جاتے ہیں طبیعت ہر وقت پژمردہ رہتی ہے۔ حوصلہ و بہادری کافور ہو جاتی ہے۔ ذرا سی آواز پر دل دھڑکنے لگ جاتا ہے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ و سستی رہتی ہے۔ بھوک نہیں لگتی۔ خیالات ہر وقت پراگندہ اور چہرہ زرد بے رونق رہتا ہے۔ سر و کمر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ خاص کر اولاد سے جو دنیا میں نعمت غیر مترقبہ ہے۔ مایوسی ہو جاتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی کو وبال جان خیال کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں۔ کہ ہم نے سالہا سال کی محنت سے تنتر شاستروں کے انوسار اس دھات پُشٹ دوائی کا نسخہ تیار کیا ہے۔ اور بموجب تنتر شاستر گرہوں کی سعادت و نحوست کو مدنظر رکھ کر خاص خاص سعد وقتوں میں یہ دوائی تیار کی جاتی ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال کرنے سے مندرجہ بالا خرابیاں دُور ہو کر تمام مُردہ طاقتیں از سر نو زندہ ہو کر انسان کی تمام دلی اُمیدیں پوری ہونگی۔ دل میں سرور۔ چہرے پر بشاشت۔ آنکھوں میں نور اور دل میں جوانی کی اُمنگیں پیدا ہونگی۔ جریان۔ سستی۔ کمزوری وغیرہ کی تمام شکایتیں دُور ہو جائیں گی۔ پوری تشریح کرنا خلاف تہذیب ہے۔ تندرست آدمی بھی اگر اس کو استعمال کرے۔ تو اس کے تمام اعضائے رئیسہ کو قوت دے کر حافظہ کو بڑھاتی ہے۔ خون صالح بدن میں پیدا کر کے آدمی کو طاقتور پہلوان بنا دیتی ہے۔ چہرہ مانند کندن کے دمکنے لگتا ہے۔ ہم نے قیمت بھی کم رکھی ہے۔ تاکہ ہر ایک آدمی اس کو خرید کر فائدہ اُٹھا سکے۔

قیمت فی ڈبی ایک ماہ کی خوراک صرف دو روپیہ۔ علاوہ محصولڈاک ۸ر کُل عہ

طلاء خاص اگر بچپن کی جہالت میں پھنس کر آپ نے اپنے ہاتھوں جلق وغیرہ سے اپنی طاقت کو تباہ کر لیا ہو۔ اور اعضائے تناسل کمزور۔ ٹیڑھا اور پتلا پڑ گیا ہو۔ تو دھات پشٹ کے ساتھ ہی ایک شیشی اس طلاء کی بھی ضرور منگوالیں۔ اس طلاء کی مالش سے عضو تناسل کی تمام خرابیاں دور ہو کر بالکل صحت ہو جاویگی۔ نامردوں کو مرد اور مردوں کو جوانمرد بنانے کے لئے یہ طلاء اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قیمت فی شیشی صرف دو روپیہ۔ علاوہ محصولڈاک

(نوٹ) چونکہ یہ دوائی دھات پشٹ خاص وقت پر تیار ہوتی ہے۔ اس لئے بعض وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے آئی ہوئی فرمائشیں رک جاتی ہیں۔ جو تیار ہونے پر روانہ کی جاتی ہیں۔ اس لئے اگر پارسل کی روانگی میں دیر ہو جاوے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں۔ تیار ہونے پر فوراً روانہ کر دی جاتی ہے۔

ملنے کا پتہ:- منیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری رجسٹرڈ نمبر ۱۸۰۳ لاہور

علم الطلسمات

طلسم برائے ہر دلعزیزی

جس شخص کو شوق ہو کہ میں لوگوں میں ہر دلعزیز ہو جاؤں اور لوگ میری عزت کریں تو چاہئے کہ بروز ۳۰ جولائی سنہ ۱۹۳۶ء کو بوقت صبح ایک نگینہ سبز رنگ زبرجد لیکر اس پر ایک نوجوان آدمی کی برہنہ کھڑے ہوئے شکل تصویر بناوے۔ اور ایک ہاتھ میں اس کے تلوار پکڑی ہو۔ اور تلوار کی دھار پر حروف طلسم (ط ذ م ح ا) کندہ کرے۔ بعد ازاں اس نگینہ کو انگشتری طلائی میں بساعت زہرہ نصب کر کے اپنے دست راست میں پہن لیوے پس اس کی تاثیر سے وہ شخص ہر فرد بشر کے نزدیک ہر دلعزیز ہوگا۔ اور تمام لوگ اس سے بدرجہ کمال محبت سے پیش آوینگے ✦



طلسمی سلائی برائے دفعیہ آشوب چشم

اگر کسی شخص کی بصارت میں کمی ہو جاتی یا آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف رہتی ہو تو یہ طلسمی سلائی تیار کر لیوے جس کی کثرت سے بصارت تازندگی قائم رہتی ہے اور آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ بروز ۸ اکتوبر سنہ ۱۹۳۶ء کو بوقت صبح سیسہ اور جست برابر وزن لیکر اس کو گلا کر ۴ انچ لمبی اور ۲ انچ چوڑی باریک تختی تیار کرے جو کاغذ کی مانند باریک ہو۔ پھر اس پر لوہے کی قلم سے ایک گائے کی تصویر اس طرح بناوے کہ گائے کھڑی ہو۔ اور ایک شخص اس کے گلے کا رسہ پکڑے کھڑا ہو۔ گائے کی پیٹھ پر حروف طلسم (لعن) اور اس آدمی کی دونوں آنکھوں پر اعداد ۵۵ لکھ دیوے پھر ۲۰ اکتوبر سنہ ۱۹۳۶ء کو جب چاند نکلے تو اس لوح کو چاند کے سامنے رکھ دیوے۔ جب چاند غروب ہو اس کو اٹھا کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیوے۔ ہر روز اسی طرح کرے جب تک چاند نظر آتا رہے لوح اس کی روشنی میں پڑی رہے۔ پھر ۳۰ اکتوبر کو جب چاند تمام رات کا ہوگا۔ پس لوح کو تمام رات چاندنی میں پڑا رہنے دے۔ اور اگلے روز صبح کو اس لوح کو گلا کر سلائی کی طرح سانچے میں ڈھال لیوے۔ پس ۴ انچ لمبی سلائی تیار ہوگی۔ ایسی طلسمی سلائی تیار ہے ہر روز رات کو سوتے وقت اس سلائی کو آنکھوں میں پھیر لیا کرے اس کے ہمیشہ استعمال کرنے سے تمام امراض چشم دور ہونگی اور بصارت تیز ہوگی ✦

طلسم برائے زیادتی قوت مردانگی

اگر کسی آدمی کی قوت مردانگی کم ہو گئی ہو تو چاہئے کہ بروز ۱۳ اپریل سنہ ۱۹۳۶ء کو ایک عدد نگینہ مونگا سرخ لیکر اس پر ایک لائن میں آٹھ عدد حروف ح اس طرح کندہ کرے (ح ح ح ح ح ح ح ح)۔ پھر نگینہ کو سرخ کپڑا میں محفوظ کر کے بازوئے راست پر باندھ لے۔ پس اس طلسم کی تاثیر سے قوت مردانگی میں زیادتی ہو جاویگی۔ لیکن پانی میں اس کو نہ بھیگنے دیوے ✦

نوٹ - اگر آپ اس طرح کے ہر مطلب یعنی عشق و محبت۔ مغلوبی دشمناں۔ اور زیادتی زر و مال وغیرہ کے طلسم بنانے کے مفصل اصول و قواعد دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو رسالہ اسرار طلسمات قیمت عہ مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوا لو ✦

علم قیافہ

مستورات کی نیک و بد خصلتوں کی پہچان

قد و قامت - جس عورت کا قد درمیانہ ہو وہ خاوند کو نہایت عزیز اور دنیاوی کاروبار کو بوجہ احسن سرانجام دینے والی ہوتی ہے۔ لمبے قد والی عورت نیک اطوار صاحب عقل و دھرماتما ہوتی ہے۔ کوتاہ قد والی عورت خواہشات دنیاوی میں زیادہ مشغول رہتی ہے۔ جو عورت بلا ضرورت گھر گھر گھومتی رہے اور اس کی آنکھیں موٹی اور ہمیشہ حرکت میں رہیں۔ اور خواہ مخواہ فضول باتیں کرے۔ ایسی عورت مرد کے لئے سخت خطرناک ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ جس عورت کی آنکھیں سوتے ہوئے کھلی رہیں اور منہ سے پانی جاوے۔ ایسی عورت کبھی شوہر کی وفادار نہیں ہوتی چال چلن اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ جس عورت کے ہنستے وقت گالوں میں گڑھے پڑیں اور آنکھیں پھڑ پھڑا دیں۔ وہ عورت خاوند سے ہمیشہ دشمنی رکھتی ہے ✦

منہ - جس کا منہ چھوٹا ہو اس سے ہمیشہ رنج پہنچے۔ لمبے منہ والی خود ہمیشہ رنجیدہ رہے۔ جس کے چہرہ پر مونچھیں یا داڑھی کے بال ہوں۔ تو وہ عورت تنگ دست اور بیوہ ہوتی ہے۔ فاحشہ کام کرتی ہے۔

چشم - اگر آنکھیں بھوری مائل بہ سرخی ہوں۔ تو آرام سے زندگی بسر کرے اگر زرد ہوں تو ہمیشہ تکلیف پاوے۔ اگر بہ رنگ سرخ ہوں تو بڑی شہوت پرست اور فریبی ہو۔ اگر بہ رنگ سیاہ ہوں اور اس میں سرخ ڈورا ہو۔ تو عزیز شوہر بھاگوان ہو۔ متوالی آنکھوں والی بدچلن۔ ہمیشہ غیر مردوں کی صحبت میں رہے اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جس کی آنکھوں میں تل ہو وہ خواہش نفسانی میں زیادہ مبتلا رہے۔ جس کی آنکھیں چھوٹی ہوں۔ وہ بدبخت۔ جو عورت آنکھوں کو زیادہ حرکت دیوے اور بار بار پھیرے وہ زانی ہوتی ہے۔

ناک - اگر ناک اندازہ سے لمبی ہو۔ تو بڑی جھگڑالو۔ تیز مزاج۔ اگر ناک پستہ ہو۔ تو جلد بیوہ ہو جاوے۔ اگر ناک پر بال ہوں۔ تو بدکار ہو۔ اگر ناک کی نوک نیچے کو جھکی ہو تو دولت مند۔ اگر نوک چپٹی ہو۔ تو عزیز شوہر ہو۔

پیشانی - اگر اونچی ہو تو جلد بیوہ ہو جاوے۔ اگر پیشانی پر بال بہ رنگ سرخ ہوں۔ تو کنگال خصلت ہو۔ اگر پیشانی پر ترشول کا نشان ہو تو بڑی بھاگوان صاحب ثروت ہوتی ہے۔

رخسار - اگر منہ کھلا رکھنے پر رخساروں میں گڑھا پڑے۔ تو خواہش نفسانی میں ڈوبی رہے۔ اگر رخسارے ابھرے ہوں۔ تو عزیز شوہر خوش مزاج۔ اگر بات کرتے یا ہنستے وقت رخساروں میں گہرا گڑھا پڑے۔ تو وہ عورت نہایت بدچلن اور فاحشہ ہوتی ہے۔

نوٹ

اگر آپ انسان کے ہر ایک اعضا کی بڑائی چھوٹائی اور خط و خال کو دیکھ کر اس کی عادات و خصلت سے واقف ہونا چاہیں۔ تو علم قیافہ کا مفصل رسالہ **نظارۂ تقدیر** قیمت مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگوا لیں۔

مختلف نچھتروں میں سیارگان کی نیک و بد تاثیر

(۱) اگر سورج و منگل آردرا نچھتر پر آجاویں تو ایک ماہ تک غلہ کا نرخ گراں کر دیتے ہیں (۲) اگر سورج و کیتو دونوں بھرنی یا مرگشر نچھتر پر آجاویں۔ تو نمک کو گراں کر دیتے ہیں۔ (۳) اگر سورج ریوتی اور منگل سواتی نچھتر پر ہوں تو راجاؤں میں باہمی تنازعات ترقی پر ہوتے ہیں (۴) اگر سنیچر اترادہا نچھتر پر اور برہسپت جیشٹا نچھتر پر آجاوے۔ تو لوگوں کو کشٹ اور بہت جانیں ضائع ہوں۔ (۵) اگر سنیچر مولا نچھتر پر اور بدھ سواتی نچھتر پر آوے۔ تو اناج گراں کرتے ہیں۔ (۶) جب سنیچر اترا کھاڈ نچھتر پر یا پوروا پھاگنی پر ہو۔ اور سورج اس وقت پنربس نچھتر پر آجاوے تو بارش کی قلت اور بیماری کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ (۷) اگر سنیچر و منگل دھنشٹا نچھتر پر آجاویں۔ تو بارش سے جواب ہوتا ہے۔ غلہ کا نرخ گراں کرتے ہیں۔ (۸) اگر سنیچر و منگل سواتی نچھتر پر ہوں۔ تو آتشزدگی کی وارداتیں بہت ہوں۔ (۹) اگر برہسپت ستبکھا نچھتر پر اور منگل چترا نچھتر پر ہوں۔ تو غلہ کا نرخ گراں ہو جاوے۔ (۱۰) اگر برہسپت بشاکھا کا اور سنیچر کرتکا نچھتر کا ہو تو لوگوں میں خوف۔ حیرانی پریشانی اور دہشت پیدا کرتے ہیں۔ (۱۱) اگر سنیچر مگھا سے بکری ہو کر اشلیکھا نچھتر میں داخل ہو۔ تو گندم۔ چاول۔ روغن زرد کا نرخ گراں ہوتا ہے۔ اور اگر اترا کھاڈ سے بکری ہو کر پوروا کھاڈ میں آجاوے تو قحط پڑتا ہے۔ (۱۲) اگر روہنی نچھتر پر منگل و برہسپت دونوں اکٹھے ہو جاویں۔ تو ۳ ماہ ساون سے کاتک تک بارش نہیں ہوتی۔ (۱۳) اگر سورج ریوتی نچھتر پر اور سنیچر اترا کھاڈ نچھتر پر ہوں تو بارش نہ ہونے سے فصل خشک ہو جاوے۔ (۱۴) اگر سنیچر چتی نچھتر پر اور سورج ستبکھا نچھتر پر آجاوے۔ تو بارش برگزشتہ ہو کر فصل تباہ ہو جاوے (۱۵) اگر سنیچر کرتکا نچھتر پر منگل آردرا نچھتر پر اور بدھ پوروا بھادر پد نچھتر پر ہو۔ تو اس ملک میں قحط پڑتا ہے۔ (۱۶) اگر سورج منگل جیشٹا یا آردرا یا مولا یا اشلیکھا نچھتر پر اکٹھے ہوں۔ تو ایک ماہ تک غلہ کا نرخ سخت گراں رکھتے ہیں (۱۷) اشلیکھا نچھتر پر سنیچر کپاس کی پیداوار زیادہ کرتا ہے۔ اور بدھ تل تیل۔ گڑ کا نرخ گراں کرتا ہے۔ اور شکر بارش زیادہ کرتا ہے۔ (۱۸) اگر منگل مولا نچھتر پر ہو۔ تو گڑ۔ شکر وغیرہ شیریں اشیاء ارزاں رہتی ہیں۔ (۱۹) منگل پوروا کھاڈ نچھتر پر چوپاؤں کا ناش کرتا ہے اور کیتو ہر چیز کو گراں کر دیتا ہے۔ (۲۰) برہسپت اترا کھاڈ نچھتر پر گڑ۔ شکر کو گراں کرتا ہے (۲۱) برہسپت آردرا یا مرگشر نچھتر پہ بارش کم اور غلہ گراں کرتا ہے (۲۲) جب سنیچر مولا۔ ریوتی۔ اشنی یا مگھا نچھتر پر آتا ہے۔ تو ملک پر زلزلے کثرت سے آتے ہیں۔ تو لوگوں کو سخت تکلیف اور وبائیں گھبراہٹ خوف و تشویش پیدا کرتا ہے۔

نوٹ

اگر آپ تمام سیارگان کی تاثیرات راشیوں۔ نچھتروں۔ یوگوں کے مفصل حالات اور ان کا ثمرہ اور سیارگان کی ایک دوسرے سے ملنے پر جو تاثیر کرہ ارض پر پڑتی ہے۔ ان کے مفصل حالات و نتائج رنج و راحت بارش۔ ارزانی۔ گرانی جنگ و جدل وغیرہ دیکھنا چاہیں۔ تو رسالہ معجزات آسمانی قیمتی ۸/ مینیجر کارخانہ مشہور عالم جنتری لاہور سے منگا کر دیکھ لیں۔

جنتری تنخواہ و کرایہ مہینہ یک روپیہ سے یک صد روپیہ ماہوار

تنخواہ یا کرایہ ماہوار	۲۸ یوم کا مہینہ			۲۹ یوم کا مہینہ			۳۰ یوم کا مہینہ			۳۱ یوم کا مہینہ		
	پائی	آنہ	روپیہ	پائی	آنہ	روپیہ	پائی	آنہ	روپیہ	پائی	آنہ	روپیہ
۱	۷	۰	۰	٦	۰	۰	٦	۰	۰	٦	۰	۰
۲	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
۳	۸	۱	۰	۷	۱	۰	۷	۱	۰	٦	۱	۰
۴	۳	۲	۰	۲	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۰
۵	۱۰	۲	۰	۹	۲	۰	۸	۲	۰	٦	۲	۰
٦	۵	۳	۰	۳	۳	۰	۲	۳	۰	۱	۳	۰
۷	۰	۴	۰	۱۰	۳	۰	۹	۳	۰	۷	۳	۰
۸	٦	۴	۰	۴	۴	۰	۳	۴	۰	۱	۴	۰
۹	۱	۵	۰	۱۱	۴	۰	۹	۴	۰	۷	۴	۰
۱۰	۸	۵	۰	٦	۵	۰	۴	۵	۰	۱	۵	۰
۲۰	۳	۱۱	۰	۰	۱۱	۰	۸	۱۰	۰	۳	۱۰	۰
۳۰	۱۱	۱	۱	٦	۰	۱	۰	۰	۱	۵	۱۵	۰
۴۰	۱۰	٦	۱	۰	٦	۱	۴	۵	۱	۷	۴	۱
۵۰	۷	۱۲	۱	۱۱	۱۱	۱	۸	۱۰	۱	۹	۹	۱
٦۰	۰	۲	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۲	۸	۱۳	۱
۷۰	۱	۷	۲	۲	٦	۲	۴	۵	۲	۹	۳	۲
۸۰	۰	۱۳	۲	۰	۱۲	۲	۸	۱۰	۲	۰	۹	۲
۹۰	۸	۳	۳	٦	۰	۳	۰	۰	۳	۱	۱۴	۲
۱۰۰	۱	۹	۳	۱	۷	۳	۴	۵	۳	۷	۳	۳

نقشہ کرایہ پارسل بذریعہ سواری گاڑی

فاصلہ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۵ میل تک کے لئے	۹	۶/	۱۲/	۹/	۹/	۹/	۹/	۹/
۲۵ میل سے زائد ۵۰ میل تک	۹/	۶/	۳/	۷/	۸/	۹/	۱۰/	۱۳/
۵۰ 〃 ۷۵ 〃	۹/	۶/	۳/	۱۰/	۱۳/	۱۵/	[illegible]	[illegible]
۷۵ 〃 ۱۰۰ 〃	۹	۷/	۱۰/	۱۳/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۱۰۰ 〃 ۱۲۵ 〃	۷/	[illegible]	۱۳/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۳/
۱۲۵ 〃 ۱۵۰ 〃	۹/	۹/	۱۳/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۱۵۰ 〃 ۱۷۵ 〃	۷/	۱۰/	۱۵/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۱۷۵ 〃 ۲۰۰ 〃	۷/	۱۰/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۰۰ 〃 ۲۲۵ 〃	۷/	۱۱/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۲۵ 〃 ۲۵۰ 〃	[illegible]	۱۲/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۵۰ 〃 ۲۷۵ 〃	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۲۷۵ 〃 ۳۰۰ 〃	[illegible]	۱۳/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۰۰ 〃 ۳۲۵ 〃	۸/	۱۵/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۲۵ 〃 ۳۵۰ 〃	۸/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۵۰ 〃 ۳۷۵ 〃	۸/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۳۷۵ 〃 ۴۰۰ 〃	۹/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۰۰ 〃 ۴۲۵ 〃	۹/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۲۵ 〃 ۴۵۰ 〃	۹/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۵۰ 〃 ۴۷۵ 〃	۱۰/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
۴۷۵ 〃 ۵۰۰ 〃	۱۰/	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

فہرست عرس ہائے اہل اسلام در سنہ ۱۹۳۶ء

نمبر شمار	نام عرس	مقام	تاریخ انگریزی
۱	عرس میاں وڈا صاحب	لاہور	یکم جنوری و ۲۰ دسمبر
۲	عرس امام علی شاہ صاحب نقشبندی	مکان شریف	۶ جنوری و ۲۴ دسمبر
۳	عرس خواجہ میر خسرو	دہلی	۱۳ جنوری
۴	عرس حضرت خواجہ محمد ترکمان	نارنول	۲۶ جنوری
۵	عرس مادھو لال حسین صاحب	لاہور	۸ فروری
۶	عرس سخی سرور سلطان	نگاہا	۱۹ فروری
۷	عرس حضرت عبدالخالق	بہاولپور	۲۲ فروری
۸	عرس مخدوم جہانیاں	اوچ شریف	۵ مارچ
۹	عرس حضرت [illegible] شاہ	بٹالہ	۹ مارچ
۱۰	عرس بابا فرید الدین گنجشکر	پاکپٹن	۲۹ مارچ
۱۱	عرس حضرت محمد طاہر صاحب	لاہور	۱۱ اپریل
۱۲	عرس سخی سرور سلطان	دھونکل	۴ مئی
۱۳	عرس علی داتا گنج بخش صاحب	لاہور	۱۳ مئی
۱۴	عرس غلام علی شاہ نقشبندی	دہلی	۱۵ مئی
۱۵	عرس حضرت احمد مجدد الف ثانی	سرہند	۲۲ مئی
۱۶	عرس حضرت میاں میر صاحب	لاہور	۲۹ مئی
۱۷	عرس حضرت شاہ ابوالمعالی صاحب	لاہور	۲۹ مئی
۱۸	عرس حضرت شاہ ہمدان صاحب	سری نگر کشمیر	۲۹ مئی
۱۹	عرس پیر مکی صاحب	لاہور	۳۰ مئی
۲۰	عرس مخدوم علاء الدین	کلیر	۳۰ مئی تا ۲ جون
۲۱	عرس شاہ محمد مقیم صاحب	حجرہ	یکم جون
۲۲	عرس گھوڑے شاہ صاحب	لاہور	۲ جون
۲۳	عرس خواجہ بختیار کاکی	دہلی	۵ جون
۲۴	عرس حاجی نوشہ گنج بخش صاحب	نوشہرہ	۶ جون
۲۵	عرس شاہ محمد غوث صاحب	لاہور	۷ جون
۲۶	عرس محمد سعید صاحب	شرقپور	۷ جون
۲۷	عرس نظام الدین اولیا دہلوی	دہلی	۹ جون
۲۸	عرس شاہ دولہ دریائی	گجرات	۹ جولائی
۲۹	عرس جناب غوث پاک [illegible] صاحب	راولپنڈی	۱۹ جولائی
۳۰	عرس حضرت عبداللہ صاحب	لاہور	۲۸ جولائی
۳۱	عرس شاہ رضا صاحب قادری	لاہور	یکم اگست
۳۲	عرس مولانا فخرالدین صاحب چشتی	دہلی	۲۵ اگست
۳۳	عرس بی بی پاکدامن	لاہور	۲۵ اگست
۳۴	عرس حضرت حامد قادری	لاہور	۲۶ اگست
۳۵	عرس حضرت امام علی صاحب	سیالکوٹ	۴ ستمبر
۳۶	عرس خواجہ معین الدین صاحب چشتی اجمیری	اجمیر شریف	۲۴ ستمبر تا ۲ اکتوبر
۳۷	عرس شاہ صدر دیوان صاحب	لاہور	۳ اکتوبر
۳۸	عرس مخدوم گنج بخش صاحب	لاہور	۳ اکتوبر
۳۹	عرس میراں بادشاہ صاحب	لاہور	۳ اکتوبر
۴۰	عرس شاہ بلاول صاحب	لاہور	۱۴ نومبر
۴۱	عرس بو علی شاہ قلندر	پانی پت	۲۸ نومبر
۴۲	عرس مادھو لال حسین صاحب	لاہور	۸ دسمبر

جنم اُتسو دسو پادشاہان برائے خالصہ صاحبان

نمبر شمار	نام	جنم اُتسو	تاریخ سورگباشی
۱	سری گورو نانک دیو جی	۲۹ [illegible]	۱۰ ستمبر
۲	سری گورو انگد دیو جی	۲۲ اپریل	۲۹ مارچ
۳	سری گورو امرداس جی	۵ مئی	یکم ستمبر
۴	سری گورو رام داس جی	یکم نومبر	۲۱ ستمبر
۵	سری گورو ارجن دیو جی	۱۴ اپریل	۲۲ مئی
۶	سری گورو ہرگوبند جی	۲ جون	۲۷ مارچ
۷	سری گورو ہر رائے جی	۵ فروری	۷ نومبر
۸	سری گورو ہرکرشن جی	۳ جولائی	۱۵ اپریل
۹	سری گورو تیغ بہادر جی	۱۲ اپریل	۱۸ نومبر
۱۰	سری گورو گوبند سنگھ جی	یکم جنوری	۱۹ نومبر

قواعد محکمہ تار و ڈاک ہندوستان

پوسٹ کارڈ سنگل اور ڈبل یعنی جوابی ہندوستان کے ہر ایک ڈاک خانہ سے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک پوسٹ کارڈ کی قیمت ۳ پیسہ اور جوابی کارڈ کی قیمت ڈیڑھ آنہ ہے۔ اگر پوسٹ کارڈ نہ ملے۔ تو پوسٹ کارڈ کی مانند موٹا کاغذ لے کر اس کو کارڈ سائز کے برابر کاٹ کر اور تین پیسے کا ٹکٹ لگا کر ڈال سکتے ہیں۔ کارڈ سائز ۵½ × ۳½ انچ ہونا ہے۔ بیرنگ پوسٹ کارڈ روانہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس پر تین پیسے کا ٹکٹ لگا دینا چاہیئے۔ ورنہ کارڈ ضائع ہو جائیگا۔ اور مکتوب الیہ کو نہیں ملیگا۔ کارڈ کے ایک طرف اپنا مطلب لکھو اور دوسری طرف آدھے حصہ میں مکتوب الیہ کا پتہ اور ٹکٹ لگاؤ۔ اور باقی آدھے حصہ میں اپنا مطلب لکھا جا سکتا ہے۔ پتہ والے نصف حصہ میں اپنا نام تاریخ وغیرہ کچھ نہ لکھو۔ ورنہ کارڈ بیرنگ ہو جائیگا۔ اور مکتوب الیہ کو ڈیڑھ آنہ دینا پڑے گا۔

لفافہ سرکاری لفافہ جس پر پانچ پیسے کی مہر چھپی ہوئی ہے۔ ہر ڈاکخانہ سے مل سکتا ہے یا خالی لفافے کو اس پر ایک آنہ ایک پیسہ کا ٹکٹ لگا کر ڈاک میں ڈالا جا سکتا ہے۔ چٹھی کا وزن ۶ ماشہ سے زائد لیکن ۲½ تولہ سے کم ہونا چاہیئے۔ اگر زائد ہو جائے۔ تو سوا آنہ کا ٹکٹ اور لگا دو۔ اسی طرح ہر ۲½ تولہ پر سوا آنہ زائد لگاتے جاؤ۔ اگر لفافہ کا وزن ۶ ماشہ سے کم ہو تو ایک آنہ لگاؤ۔

بک پیکٹ یا نمونے تمام چھپا ہوا مضمون کاغذات۔ کتابیں۔ خالی کاغذات۔ تصویریں۔ نقشے۔ کاپیاں۔ پروف۔ مسودے اور تمام کاروباری کاغذات خواہ چھپے ہوں یا تحریری بشرطیکہ وہ کاغذات کسی خاص پرائیویٹ خط و کتابت کی نوعیت کے نہ ہوں۔ بذریعہ بک پوسٹ روانہ ہو سکتے ہیں۔ ایسے پیکٹ میں ڈاک کے ٹکٹ۔ نوٹ۔ چیک ہنڈی وغیرہ روانہ نہیں کرنے چاہئیں۔ پیکٹ کا سائز ۲ فٹ۔ لمبائی ایک فٹ۔ چوڑائی ایک فٹ اونچائی سے زیادہ نہ ہونا چاہیئے۔ اگر پیکٹ گول ہو تو اس کی لمبائی ۲½ فٹ اور قطر ۵ انچ سے زیادہ نہ ہو۔ پیکٹ کے دونوں سرے کھلے رہنے چاہئیں۔ اور ایسے طریقے سے باندھنا چاہیئے۔ کہ ہر وقت بغیر کاغذ کو پھاڑنے کے کھول کر دیکھا جا سکے۔ ہر پیکٹ پر پہلے ۵ تولہ وزن کے لئے تین پیسہ کا ٹکٹ لگیگا۔ اس کے بعد ہر ۵ تولہ پر دو پیسہ کا ٹکٹ لگاؤ۔ اگر پیکٹ بیرنگ ڈالا جائے تو اس سے مکتوب الیہ سے دگنا محصول چارج کیا جائیگا۔

اخبارات اخبار با قاعدہ ڈاکخانہ میں رجسٹرڈ ہو۔ اس پر رجسٹر نمبر درج ہو۔ اس کا محصول حسب ذیل ہوگا۔ ۸ تولہ وزن تک ایک پیسہ۔ ۸ تولہ سے زائد ۲۰ تولہ سے کم وزن تک دو پیسہ۔ اس سے زائد ہر ۲۰ تولہ یا کم کے لئے دو پیسہ زائد لگاتے جاؤ۔

پارسل پارسل میں ہر ایک چیز سوائے اُن چیزوں کے جن کی قانوناً ممانعت ہے روانہ ہو سکتی ہے۔ پارسل کو کسی مضبوط لکڑی یا دھات کے بکس میں بند کر دینا چاہیئے۔ اور مندرجہ ذیل شرح سے محصول لگانا چاہیئے۔ ۲۰ تولہ وزن تک ۲ ؍ ۲۰ سے ۴۰ تولہ تک ۴ ؍ ۴۰ سے ۸۰ تولہ تک ۶ ؍ ۸۰ تولہ سے اوپر ہر ۴۰ تولہ تک ۴ ؍ بڑھاتے جاؤ۔ لیکن پارسل ۴۴۰ تولہ سے زائد وزنی نہ ہو۔ اگر ۴۴۰ تولہ سے زائد وزنی پارسل ہو۔ تو اس کے لئے مندرجہ ذیل شرح ہوگی۔ ۴۴۰ تولہ تک دو روپے۔ ۵۲۰ تولہ تک [illegible] ۶۰۰ تولہ تک [illegible] ۶۸۰ تولہ تک [illegible] ۷۶۰ تولہ تک [illegible] ۸۰۰ تولہ تک [illegible] ۸۰۰ تولہ سے زیادہ وزن کا پارسل روانہ نہیں ہو سکتا۔ ۴۰ تولہ سے زائد وزن والے پارسل کو رجسٹری کرانا لازمی ہے۔ جس کے لئے ۳ آنہ کا ٹکٹ اور لگانا چاہیئے۔ کوئی پارسل بیرنگ روانہ نہیں ہو سکتا۔

رجسٹری ہر ایک لفافہ۔ کارڈ۔ پیکٹ۔ پارسل حفاظت کیلئے رجسٹری کروایا جا سکتا ہے تاکہ کسی اور کو نہ ملے گم نہ ہو جاوے۔ رجسٹری کے لئے علاوہ معمولی محصول کے ۳ آنہ کے ٹکٹ زائد لگانے چاہئیں۔ اور رجسٹری کرانے والی چیز کو ڈاکخانہ میں جا کر اس عہدہ دار کو دینی چاہیئے۔ جو اس کام کے لئے مقرر ہے۔ وہ اس چیز کی رسید فرستندہ کو دیگا۔ اگر علاوہ اس کی رسید کے بابت فرستندہ مکتوب الیہ کی دستخطی رسید لینی ہو تو ۲ آنہ کے ٹکٹ لگانے چاہئیں۔

بیمہ قیمتی سامان مثلاً زیورات۔ نوٹ۔ ہنڈیاں۔ قیمتی دستاویز۔ سونا۔ چاندی وغیرہ کے پارسل کا بیمہ کرانا لازمی ہے۔ جس پر علاوہ فیس رجسٹری و محصول وزن کے مندرجہ ذیل شرح سے زائد ٹکٹ لگانے چاہئیں۔ ۵۰ روپے کی مالیت تک ۴ ؍ اور ۵۰ روپے سے زائد ہو۔ تو پچاس روپے کی قیمت پر ایک آنہ زائد لگاتے جاؤ۔

منی آرڈر دس روپیہ تک ۲ ؍۔ اس سے زائد ۲۵ روپیہ تک ۴ ؍۔ ۲۵ روپیہ سے زائد ہر دس روپیہ تک ۲ ؍ اور سو روپیہ سے ۶۰۰ روپیہ تک کے ۴ ؍ لگاؤ۔ اس کے بعد ہر سو کے لئے ایک روپیہ لگیگا۔ چھ سو سے زائد کا منی آرڈر نہیں ہو سکتا۔

تار تاریں دو قسم کی ہیں۔ ایک ضروری۔ دوسری معمولی۔ ان کی فیس روانگی حسب ذیل ہے۔ قسم ضروری ۱۲ الفاظ تک ۲ ؍ جس میں پتہ وغیرہ داخل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد ۱۲ سے زیادہ ہو جائے۔ تو فی لفظ ۲ ؍ زائد لئے جائیں گے۔

قسم معمولی الفاظ تک ۹ ؍ ۱۲ الفاظ تک ۱۲ جس میں پتہ وغیرہ شامل ہے۔ اگر الفاظ کی تعداد ۱۲ سے زائد ہو جائے۔ تو فی لفظ ۱ ؍ زائد لیا جائیگا۔

مضمون اشتہار
از راقم [illegible]

قیمت
صرف [illegible] روپے

یوگ و دیا کے چمتکار

وہ چلتا ہوا جادو جس کے سامنے دنیا جہان کے جادو کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ یہ لاجواب تصنیف جس میں [illegible] عاملان فن اور مرشدان کامل کی کھوج میں جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھاننی پڑتی تھی۔ [illegible] سادھوؤں اور درویشوں کے سینوں کا راز جو باتیں [illegible] اپنے سینہ میں [illegible] گئے۔ انہیں کی نقاب [illegible] زبان اردو میں [illegible] کتاب [illegible] میں پیش کی جا رہی ہے۔ اور اس سے [illegible] ایک ہزار روپیہ نقد کا انعام رکھا گیا ہے۔



[illegible]

کرسکے گی ⑥ کیا ہپناٹزم کے عمل سے عورت پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہ تین سو سال تک حیران کن تندرست رہنے کے اور [illegible] رکھنے والے راز کا انکشاف ⑦ ہپناٹزم بطور پیشہ کے - جو لوگ بالکل بیکار اور ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور نہیں سوچ سکتے کہ حصول روزی کیلئے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے - ان کی رہنمائی کے لئے نہایت دلچسپ معلومات یعنی فن ہپناٹزم کو کس طور پر بطور پیشہ سیکھنے کی مکمل واقفیت۔ ہپناٹزم سے صرف لاعلاج بیماریوں کے علاج ہو سکتے ہیں بلکہ اسٹیج پر تماشا دکھا کر کافی روپیہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حاضرین میں سے کسی جاہل اور ان پڑھ شخص کو ہپناٹزم کی نیند سلا کر غیر زبان کی کتاب پڑھوا لینا یا انگریزی زبان میں تقریر کروانا جو ایسی شستہ اور مدلل ہوگی۔ کہ حاضرین بیٹھے بیٹھے معمول کو کسی یونیورسٹی کا پروفیسر سمجھنے لگیں معمول کے جسم کو چھتری کی مانند سخت بنا کر کرسی کے سہارے ہوا میں لٹا کر اس پر سینکڑوں من وزنی بوجھ لاد دینا - معمول ہر شخص کے جسم کو چھو کر اس کی بیتی ہوئی اور آئندہ زندگی کے حالات بلا کم و کاست بتلا دیگا۔ سائل کے جیب میں پڑی ہوئی سربمہر عبارت کو لفظاً لفظاً پڑھ دے گا - اور اس کے گھر کے حالات بن دیکھے اس طرح بیان کریگا کہ گویا وہاں برسوں بودوباش رکھ چکا ہے ⑧ نظر بندی کے شعبدے حاضرین میں سے بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ متاثر کرکے کاٹھ کے الوؤں کی مانند بنا دینا - بغیر رسی کے ان کے ہاتھ پیر جکڑ دینا - زبان بند کر دینا اور آگے پیچھے کی سمت گرا دینا - برف کے ٹکڑے کو آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ بنا دینا اور دہکتے ہوئے کوئلے کو برف کی مانند سرد محسوس کرانا - ایک کا ہاتھ برف کے ٹکڑے سے جلنے لگیگا - اور دوسرا دہکتے ہوئے کوئلہ کو ہتھیلی پر رکھ کر ٹھنڈک محسوس کریگا ⑨ نظر بندی سے معمول کتے یا بلی کو شیر سمجھ کر خائف ہو جائیں گے اور شیر کو گیدڑ سمجھ کر بے دھڑک اس کی سواری کریں گے - رسی پر سانپ کا دھوکہ کھا کر اس سے دور بھاگیں گے مگر سانپ کو رسی جان کر گلے میں ڈالے پھریں گے۔ کچے آٹے کو حلوہ کے بھروسہ میں مزے لے لیکر کھائیں گے اور حلوائے سوہن کو فضلہ سمجھ کر اسکی بدبو سے ناک بھوں چڑھائیں گے - الغرض اس قسم کے بیشمار تماشے اسٹیج پر دکھائے جا سکتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ہنستے ہنستے لوٹن کبوتر بن جائیں گے ⑩ عمل حب یعنی معشوق کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے طریقے جن سے زیادہ سخت دل معشوق بھی ساتھ تانے توڑ کر اور سمندر پھاند کر حاضر ہوگا - اور عاجزی کریگا ⑪ مسمریزم کے ذریعہ ہر قسم کی پیشگوئی کرنا - زمانہ گذشتہ و آئندہ کے حالات معلوم کر لینا - دوسرے شخص کے دل کی بات بتا دینا - کھوئی ہوئی چیز یا گمشدہ ہوئے دفینے کا پتہ معلوم کر لینا ⑫ حاکم یا افسر کو اپنے اوپر مہربان یا دشمن کو دوست بنا لینا ⑬ حیوانوں کو متاثر کرنے کی ترکیبیں یہاں تک کہ سانپ بچھو جیسے زہریلے جانور اور شیر چیتے جیسے خونخوار درندے بھی آپ سے خوف کھائیں گے ⑭ اپنے کاروبار کو فروغ دینا - گاہکوں یا ان لوگوں سے جن سے روزمرہ واسطہ پڑتا ہے - اپنی جانب کشش کرکے حسب منشا کام نکلوا لینا ⑮ بذریعہ روشن ضمیری معمول کو دوسرے مقامات کی سیر کرانا اور وہاں کے حالات معلوم کرنا - مہلک اور پیچیدہ امراض کے نسخے تجویز کر لینا وغیرہ وغیرہ ضروری درخواست [illegible] کی درخواست خریداری کے ہمراہ رازداری کے علاوہ اس بات کی حلفیہ تحریر آنی چاہیئے کہ انہیں بتلائے گئے عملیات سے آپ ہرگز ہرگز ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں گے ورنہ آرڈر کی تعمیل نہ ہوگی - وجہ یہ کہ کتاب مذکور کے عملیات ایسے آسان پیرایہ میں اور اس فصاحت کے ساتھ لکھے گئے ہیں کہ ایک ناواقف شخص بھی اگر ان پر عمل پیرا ہونے کا تہیہ کرلے تو چند دنوں کی مشق کے بعد عامل کامل بن سکتا اور لوگوں سے اپنی پرستش کروا سکتا ہے - اندریں صورت ہمارے لئے یہ لازم ہوا کہ ہر ایک خریدار سے نیک نیتی کی حلفیہ تحریر لی جائے - کتاب ہذا کو عام بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا جو بالکل بے سروپا اور لغو ہوتی ہیں لیکن اس کتاب کا ہر ایک عمل نہایت آسان سہل الحصول اور لاکھ روپیہ کا ہے مجلد اور باتصویر کی قیمت صرف [illegible] مگر پہلے یکصد خریداروں کیلئے [illegible]

پانچ منٹ میں ہمزاد

کسی ہندوستانی فقیر سے یہ ترکیب ہمیں حاصل ہوئی ہے جس کی بدولت ہر شخص گھر بیٹھے ۵ منٹ میں ہمزاد کو دیکھ سکتا ہے - یہ ترکیب مذکورہ اگر آپ بالکل مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہماری کتاب رموز ہمزاد ایک روپیہ کے وی پی سے طلب کیجئے جس میں تسخیر ہمزاد سے متعلق قدیم ہندو یوگیوں اور مسلمان درویشوں کے سینہ بسینہ منتقل ہونیوالے مخفیہ رازوں کا انکشاف کئی اسباق میں کیا گیا ہے - جو بالکل [illegible] سہل اور ایسے سہل الحصول ہیں کہ ایک بچہ بھی چاہے تو آسانی سے عمل کرلے - کسی قبرستان - ندی یا دریا کے کنارے جانے کی ضرورت نہیں گھر میں بیٹھ کر عمل کیا جاتا ہے - ہماری بتلائی ہوئی ترکیب سے آپ ہمزاد کو دیکھ تو پہلے ہی روز لینگے - مگر تسخیر ہو کر وہ ہمکلام ۲۱ یوم میں ہوگا - ایک صد روپیہ کا انعام اس شخص کیلئے رکھا گیا ہے جو یہ ثابت کردے کہ تسخیر ہمزاد سے متعلق رموز ہمزاد سے بہتر کتاب زبان اردو میں شائع ہو چکی ہے - تسخیر ہمزاد کے فائدے: ۱ - سات پردوں میں چھپے ہوئے نامہربان اور سنگدل محبوب کو بھی ہمزاد ایکبار کھینچ لائیگا اور آپکے قدموں پر گرا دیگا ۲ - مہلک اور لاعلاج بیماریوں کے تیر بہدف نسخے تجویز کر دیگا ۳ - ہزاروں میلوں سے بے موسم کے پھل انواع واقسام کے تحفے - نیز دور کی خبریں پل بھر میں لا دیگا - ۴ - حاکم و افسر کو مہربان بنا کر بگڑے ہوئے کام نکلوا دیگا - ۵ گمشدہ کا پتہ دیگا - ۶ - بیتے ہوئے اور آئندہ ہونیوالے واقعات بے کم و کاست بتلا دیگا - ۷ - کشایش روزگار یا ترقی مراتب کی ایسی ترکیبیں بتلائیگا کہ عامل گنتی کے دنوں میں دولت دنیا سے مالا مال ہو جائیگا

تازہ تعریفی خطوط کا خلاصہ [illegible]

[illegible] فضل ٹریڈنگ کمپنی
پوسٹ بکس نمبر ۱۵ - لاہور

بگڑی تقدیر بنالو



قسمت پلٹنا المعروف ناقص گرہ توڑ انگشتری نمبر

بنارس کے مشہور عالم جوتشی شری یت پنڈت برھمانند صاحب لوگاچاریہ بھرگو شاستری کی حیرت انگیز ایجاد اب کوئی شخص بدقسمت نہیں رہیگا جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنالو۔ جیوتش سنسار میں معجزہ انگیز انقلاب۔ ستاروں کی گرہ چال کی رو سے "ناقص گرہ توڑ انگشتری" کو غلط ثابت کرنیوالے پنڈت کیلئے ایک ہزار روپیہ نقد انعام

اگر آپ گردش روزگار کے ستائے ہوئے اور بدقسمتی کے ہاتھوں نالاں ہیں۔ آپکا کوئی کام بن بن کر بگڑ جاتا ہے سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے روزگار کیلئے آپ بہتیرے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں مگر پیسہ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر آپ کو اولاد کی چاہ ہے۔ ننھے منے گرتے پڑتے بچے کو گود میں کھلانے کی آرزو ہے۔ نرینہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی۔ اگر آپ خوبصورت استری کے خواہشمند ہیں پر شادی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ رشتہ بن بن کے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ مقدمہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ روپیہ پانی کی طرح صرف ہو رہا ہے۔ مگر عزت محفوظ رہنے کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی۔ اگر آپ کسی پیچیدہ اور سنگین بیماری میں مبتلا حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کراتے کراتے عاجز آچکے ہیں اور بیماری جوں کی توں قائم ہے۔ اگر آپ کسی دشمن کے خوف سے پردیس میں زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ اور دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے۔ کہ وطن جاتے ہی کوئی نیا جھگڑا کھڑا کر دیگا۔ اگر آپ کسی اعلیٰ ملازمت کیلئے سرگرداں ہیں۔ آپ میں علمی لیاقت کی کمی نہیں۔ تعلیم بھی اچھی ہے۔ مگر افسر ہے کہ ہزار کوشش اور سفارش کے باوجود بھی خوش نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ اور یہی گردش آپ کی سب تدبیریں خاک میں ملا رہی ہے۔ ہمارے بیان کی صداقت کا امتحان کرنے کیلئے اپنی جنم پتری کسی عالم پنڈت یا جوتشی کو دکھائیے وہ دیکھتے ہی کہہ دے گا کہ فلاں گھر میں منگل اور فلاں گھر میں سنیچر یا راہو کیتو پڑے ہیں اسی وجہ سے آپ کی تقدیر خراب ہے اور کوئی کام راس نہیں آتا۔

اپنی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے

اس سائنٹفک اصول کو ہمارے رشی منی تو پہلے ہی سے جانتے تھے۔ مگر اب مغرب والوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ سورج۔ چاند۔ راہو۔ برہسپت۔ بدھ۔ سنیچر۔ منگل کیتو اور شکر ایسے سیاروں کی مقامی حالت کا اثر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی آئندہ زندگی پر پڑتا ہے۔ گویا ستارے ہی بحیثیت مجموعی انسانی تقدیر کو مختلف سانچوں میں ڈھالتے ہیں۔ انہیں کے اثر سے کبھی راحت و آرام کا زمانہ آتا ہے۔ اور کبھی انسان قسم قسم کی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر بنارس کے مشہور عالم جوتشی پنڈت برھمانند صاحب بھرگو شاستری نے اپنے تجربہ۔ مشاہدہ اور برسوں کی تحقیقات کے بعد اسی شعبہ پر ایک نئی بات دریافت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ راہو اور کیتو کے علاوہ منگل اور سنیچر دو نہایت طاقتور اور منحوس ستارے ہیں جو مقررہ وقت پر اپنے ناقص اثرات سے دوسرے سعد (نیک) ستاروں کے اثر کو بھی زائل کر دیتے ہیں اور انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آلہ بنا لیا جا

کہ زحل سنیچر یا کسی دوسرے منحوس ستارے کا اثر انسانی قسمت پر پڑ سکے۔ تو ہر کسی شخص کا بدقسمت رہنا ناممکن ہو جائیگا۔ چنانچہ اسی اصول کو عملی جامہ پہنانے کیلئے پنڈت صاحب موصوف نے پانڈ کروں میں شانتی وایک منتروں کا جاپ کر کے مختلف دھاتوں کے مجموعے سے اقبال گرہ توڑ انگشتری تیار کی ہے جو سو فیصدی حالتوں میں کامیاب رہی ہے اور بڑے بڑے راجے مہاراجے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ دیکھنے میں یہ انگشتری نہایت چمکدار اور خوبصورت ہے۔ بلکہ اس کی چمک سے ناشناسوں کی آنکھیں خیرہ ہوتی ہیں جس وقت اقبال گرہ توڑ انگشتری کو کسی بدقسمت انسان کی انگلی میں پہنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سے کسی منحوس ستارے کا اثر بالعموم اور زحل اور سنیچر کا اثر بالخصوص اس شخص کی زندگی پر نہیں بلکہ براہ راست اس طلسمی انگوٹھی پر پڑ کر زمین میں جذب ہونے لگتا ہے اور **پہننے والا منحوس ستاروں کے برے اثرات** سے ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتا ہے۔ **آٹھ دھاتوں کی یہ قسمت پلٹ انگشتری** بچے بڈھے جوان عورت مرد غرضیکہ سب کیلئے یکساں مفید ہے۔ بچوں کے گلے میں پہنانے سے اُن کے دانت آسانی سے نکل آئیں گے۔ آسیب نظر جادو ٹونہ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اور چیچک یا دیگر وبائی **بیماریوں** سے وہ قطعاً محفوظ رہیں گے عورت پہنے گی تو اس کے حسن اور عزت کو فروغ ہوگا۔ بیماری اور افسردگی دم دبا کر بھاگ جائیں گی اور ہر ایک خواہش کی تکمیل آپ سے آپ ہونے لگیگی۔ مرد کیلئے اس طلسمی انگشتری کو پہننا گویا خوشحالی اور فارغ البالی کو دعوت دینا ہے۔ اس کے برے دن اس طرح غائب ہو جائینگے **جیسے بادلوں کے ٹکڑے سورج کی کرنوں سے منتشر اور پریشان ہو جاتے ہیں** مفلسی اور بیماری کا نام و نشان نہیں رہیگا۔ منحوس ستاروں کا اثر ٹل جانے پر بہتری کی صورت خود بخود دیدۂ غیب سے ظاہر ہو جائیگی۔ اگر آپ ہتھیلی پر سرسوں جمانا یا علم سیارگان کے اس زندہ معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ **جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے** اتنی ہی دیر میں آپ کی تقدیر پلٹا کھا جائے اور برے دن یک قلم دور ہو کر **آپ دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں شمار ہونے لگیں** تو دیر نہ کیجئے اور اپنی سب سے پہلی فرصت میں آرڈر بھیج دیجئے کیونکہ اس مرتبہ اقبال گرہ توڑ انگشتریاں بہت تھوڑی تعداد میں تیار کی گئی ہیں اور منافع انتہا کم رکھا گیا ہے۔ جیسے آٹے میں نمک یعنی قیمت باوجود ان تمام خوبیوں کے صرف عہ فی انگشتری جو اس کی لاگت کے برابر ہے۔ کیونکہ ہر ایک انگشتری کی تیاری پر قریب قریب ایک روپیہ خرچ ہوتا ہے محصولڈاک ایک سے تین تک چھ آنہ۔ اشتہار کے برعکس ثابت ہونے پر بلا تامل قیمت دام واپس کر دیں گے۔ واپسی کیلئے کوئی خاص شرط نہیں آپ کو **صرف اتنا لکھنا ہوگا کہ آپ کی ہدایت کے مطابق انگشتری کو پہنے ۲۱ دن ہو چکے مگر میں پہلا سا ہوں ساکشی جان کر کہتا ہوں کہ میری قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں لہذا اپنی انگوٹھی لیکر قیمت دام واپس کر دیجئیگا۔** اشتہاری نیا ہے بدظن لوگوں کے اطمینان کیلئے اس سے زیادہ اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قسمت پلٹ انگشتری کی برکتوں سے محروم رہے تو اس کے نصیب۔

[illegible] (۱) آپ کی دو انگوٹھیاں گرہ توڑ منگوائی تھیں ان میں جو آپکی تعریف کی گئی تھی تجربہ پر ویسی ہی ثابت ہوئیں۔ براہ کرم ایک اور انگوٹھی میری بیوی کیلئے بھیجئے سادھو کیلئے مہری شرح نو کہ منڈی (۲) میں نہایت خوشی سے آپکو اس بات کی اطلاع دیتا ہوں کہ آپکی گرہ توڑ انگوٹھی پہننے کے تیرہ دن بعد مجھے ملازمت مل گئی۔ اب تین بیاد اور انگوٹھیاں حسب ذیل پتہ پر الگ الگ بھیج دیجئے کا ڈاکٹر نرائن اہلکار بیکانیر جلال آباد (۳) میں عرصہ ۱۲ سال سے نزلہ و دیگر دائمی امراض سے تنگ آ گیا تھا کئی نامور ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن بیکار۔ آخر پچھلے سال آپ کی گرہ توڑ انگشتری کی آزمائش کی اور چند دن کے بعد محسوس کر کے میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی کہ بیماری خود بخود گھٹتی جا رہی ہے اور اب چنگا ہوں یہ خط بطور سرٹیفکیٹ چھاپ لیں۔ بالکل تندرست ہوں میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کی اس نادر ایجاد کیلئے شکریہ ادا کر سکوں (وید شاستری پنڈت پورن آنند شرما سیج وید بھیواں ضلع [illegible] (۴) فتح مال میں جب بیماری اور بیکاری کی حالت تھی تب آپ سے گرہ توڑ انگشتری منگوائی تھی۔ انگوٹھی پہننے سے یہ فائدہ ہوا کہ بیماری بھی جاتی رہی اور بیکاری کا بھی خاتمہ ہو گیا کہ مجھے ایک جگہ نوکری مل گئی تھی جبتک انگوٹھی میری انگلی میں رہی مجھے مالی طور پر برابر فائدہ پہنچتا رہا اور نوکری بھی ترقی کرتی رہی مگر جب سے انگوٹھی ٹوٹ گئی کہیں کھو گئی ہے جب سے پریشان ہو گیا ہوں براہ مہربانی دوسری بذریعہ وی۔ پی ارسال فرمائیے لوکناتھ پرشاد سری واستو بھوتی الہ آباد (۵) میں آپ کی اقبال گرہ توڑ انگشتری کا اثر دیکھ چکا ہوں بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت اسی کی بدولت محکمہ پولیس میں نوکر ہوں مجھی جلدی ہی ایک انگشتری اور میرے پتہ سے بذریعہ وی۔ پی ارسال فرمائیے۔ جانکی پرشاد کانسٹیبل مظفر گڑھ وغیرہ وغیرہ۔ مفصل خط و کتابت مفت کر دیجئے۔

مضمون
اشتہار و ڈیزائن
رجسٹری شدہ

یونیورسل ٹریڈنگ کمپنی
پوسٹ بکس نمبر ۱۵۰ لاہور

قیمت
صرف عہ
محصولڈاک [illegible]

ایک نظر بھر کے جسے دیکھا اُسے رام کیا

آنکھ کا جادو!

[illegible]

یہ وُہ جادُو ہے کہ جس کا نہیں ثانی جگ میں

گورا چہرہ بھرے بھرے رخسار۔ ستواں ناک۔ ابھری ہوئی پیشانی موٹی موٹی رسیلی اور مدھ بھری آنکھیں لمبے اور پتلے ہونٹ اور اُن کے اندر موتیوں کے جیسے دانتوں کی دو لڑیاں۔ یہ سب حسن کے لوازمات قدرت نے جس عورت کو دیئے ہیں وہی پدمنی ہے۔ پدمنی جو انگلی کے اشارے سے سارے عالم کو ایک ہی تال پر نچا بھی سکتی ہے اور نگاہِ قہر سے دیکھ کر تہ و بالا بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر لاکھ پری چہرہ اور رشک حور ہونے کے باوجود بھی عورت کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور اندر کو دھنسی ہوئی ہیں تو یوں سمجھو کہ قدرت نے سحر و افسوں کا دروازہ اس پر بند کر دیا ہے۔ اسمیں کوئی دلکشی کوئی کشش اور کوئی خوشنمائی نہیں۔ کوئی شخص اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے گا۔ ہمارا "آنکھ سنوار کاجل رجسٹرڈ" نہ صرف آنکھ کے جملہ امراض ضعف بصر۔ رو ہے۔ ککرے۔ موتیا بند۔ ناخنہ۔ شبکوری۔ آشوب چشم۔ جالا۔ دھندلا اور پڑبال وغیرہ کو جڑ سے اکھاڑ کر بینائی کو تیز اور عینک کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بلکہ اسکے چالیس یوم تک متواتر استعمال کرنے سے چھوٹی سے چھوٹی آنکھ موٹی، چمکدار، خوبصورت اور رسیلی بن جاتی ہے ہلکے ہلکے گلابی رنگ سے جو بالکل قدرتی معلوم ہوتا ہے آنکھوں میں کچھ اس قسم کی دلکشی اور دلربائی پیدا ہو جاتی ہے کہ بے اختیار دیکھے جاؤ اور طبیعت سیر نہ ہو کیونکہ آنکھوں کو ہلکی گلابی رنگت دیکر موٹی موٹی گول کٹیلی ابھری ہوئی خوبصورت اور دلکش بنا دینا ہمارے آنکھ سنوار کاجل کا خاص وصف ہے ہم ننھے منے بچے جن کی آنکھیں پیدائش کے وقت سے خراب یا چھوٹی چھوٹی اور عموماً دکھتی رہتی ہیں۔ انکے لئے ہمارا آنکھ سنوار کاجل ایک نعمت عظمےٰ ثابت ہوگا اور چند یوم کے استعمال سے آنکھ کی کوئی شکایت باقی نہ رہیگی۔ بلکہ آنکھیں ایسی خوبصورت معلوم ہونے لگینگی کہ گویا ہزار تندرست بچوں کی آنکھوں کی خوبصورتی انہیں دو آنکھوں میں آکر جمع ہو گئی ہے چیچک (جس کا نشانہ بیشتر یہی معصوم ہستیاں ہوتی ہیں) کا حملہ اکثر آنکھ پر ہو کر آنکھ کو بالکل ضائع کر دیتا ہے۔ اور تب وہ پیاری پیاری شکلیں نفرت اور حقارت کا ایک نمونہ بن کر رہ جاتی ہیں آنکھ سنوار کاجل کے دائمی استعمال سے آنکھیں برف کی طرح ٹھنڈی اور فولاد کی طرح محفوظ رہتی ہیں، اور چیچک یا کسی بیرونی بیماری کا اثر آنکھ پر نہیں پڑتا۔ گویا آنکھ کا بیمہ ہو جاتا ہے اور بچے بڑے بوڑھے ہو کر بھی آنکھ کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ غرضیکہ آنکھ سنوار کاجل رجسٹرڈ بیسویں صدی کی ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ اور اس کا استعمال ہر گھر میں ہونا چاہئے۔ قیمت باوجود ان خوبیوں کے شیشی کلاں [illegible] شیشی خورد ۱۲/ محصولڈاک ایک سے تین شیشی تک صرف ۸/

آنکھوں کی کسرتیں بالتصویر!

اس نام کی کتاب امریکہ کے ایک نامی گرامی ڈاکٹر نے لکھی ہے جو اس جدید طریقہ علاج کا موجد ہے۔ اور نئی چیز ہونے کے باعث یہ کتاب وہاں لاکھوں کی تعداد میں ہاتھوں ہاتھ بک چکی ہے۔ اسمیں ڈاکٹر صاحب موصوف نے آنکھوں کی بینائی اور درستی کیلئے آنکھوں کی مالش اور آنکھوں کے غسل کے طریق کے علاوہ کچھ کسرتیں حوالہ قلم کی ہیں جن کو دس یا پندرہ منٹ روزانہ کرنے سے بارہ پندرہ سال کی بگڑی ہوئی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر عینک لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں رہتی۔ امریکہ کے ہزاروں لاکھوں آنکھ کے مریضوں نے ان کسرتوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور عینکیں اُتار اُتار کر پھینک دی ہیں۔ بڑھاپا یا کسی بیماری کے باعث آنکھیں چاہے کیسی خراب ہو گئی ہوں آنکھوں سے پانی بہتا ہو۔ آنکھیں چندھیا جاتی ہوں یا کسی وجہ سے آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہو تو ان کسرتوں سے ایک ہفتہ میں غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے یہ کسرتیں نہایت ہی آسان ہیں اور ان کو اندر یا باہر ہر جگہ ہر عمر کا آدمی کر سکتا ہے۔ کتاب کے اُردو ترجمہ کی قیمت صرف تین روپے۔ لیکن آنکھ سنوار کاجل کے خریدار کو مفت دی جائے گی +

چہرہ بدلنے کی مشین!

خوبصورت اور بھرا بھرا چہرہ عورت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر یہ دولت قبل از وقت چھن گئی تو یوں سمجھو کہ عورت کی دُنیا تاریک ہو گئی۔ ہماری دوائی "حسن خوباں" رجسٹرڈ کے استعمال سے بڑی بوڑھی عورتوں کے بے رونق اور بے آب چہرے بھی ایک بار شباب کی رعنائی اور شگفتگی حاصل کر لیتے ہیں۔ جھریاں اور داغ زردی اور بدنما لکیریں ایکدم غائب ہو کر چہرہ کی مردنی، سوکھاپن اور بے رونقی شباب کی سرخی و شگفتگی میں بدل جاتے ہیں اور ۴۰-۴۵ سال کی عورت ۱۴-۱۵ برس کی حسین دوشیزہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ آپ نے خوبصورتی پیدا کرنے والی سینکڑوں دوائیاں استعمال کی ہونگی مگر تجربہ کر کے دیکھئے کہ حسن خوباں کے مقابلہ میں سب ہیچ معلوم ہونگی۔ قیمت باوجود ان خوبیوں کے صرف ایک [illegible]

نوٹ: حسن خوباں تمام جلدی امراض مثلاً خارش داد۔ چھائیں مہاسے چنبل کھجلی، ہاتھ پیر اور ہونٹوں کے پھٹنے، پھوڑے پھنسی نیز ہر قسم کے ورم کو بے حد مفید ہے۔

عورتوں کی ڈھلکی ہوئی چھاتیوں کیلئے بےنظیر و لاثانی دوا

جوبن بہار رجسٹرڈ

جس کی بدولت چالیس سالہ عورت چودہ سالہ دوشیزہ کے مطابق ہو سکتی ہے۔ جس طرح مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر رو دیتا ہے ویسے ہی عورت بھی اپنی ڈھلکی ہوئی اور بدصورت چھاتی دیکھ کر رو دیتی ہے مگر اسے اتنا خیال نہیں آتا کہ زمانہ حال کی نو ایجاد دوائی جوبن بہار رجسٹرڈ منگوا کر استعمال کرے۔ اس بےمثل موصوف دوائی کے استعمال سے ڈھلکی ہوئی بدنما چھاتیاں چند روز میں چودہ سالہ کنواری لڑکی کی مانند ہو جاتی ہیں جس عمر کے لئے ہر شخص متلاشی نظر آتا ہے۔ بقول ؎ باقی نہ دل میں کوئی بھی یارب ہوس رہے * چودہ برس کے سن میں وہ لاکھوں برس رہے * یہ تیل عورتوں کی گری ہوئی چھاتیوں کو اصلی حالت پر لانے کے لئے حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ افسوس ہے کہ جو عورتیں قبل از شادی خوبصورت چھاتیاں رکھنے کا دعویٰ رکھتی ہیں۔ ایک دو بچہ ہونے پر ہی اس خوبصورتی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ان کے لئے یہ بات باعث مسرت ہے کہ ہم نے یہ روغن ایجاد کر کے ان کی اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ اسکے استعمال سے ہر عورت جس کو اپنی کھوئی ہوئی دولت کی خواہش ہے یقینی طور پر حاصل کر سکتی ہے اور اپنے شوہر ہستی پر جوانی کے کھوئے ہوئے [illegible] پھر ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ زیادہ تعریف کی قانون اجازت نہیں دیتا۔

ملنے کا پتہ

ڈاکٹر پرتھی سنگھ اینڈ سنز۔ ڈاکٹر پرتھی سنگھ بلڈنگ نمبر ۱۵۰۔ لاہور

قیمت فی شیشی
ایک روپیہ (عہ)

پہلی شب بیوی سے اپنی قوت کا امتحان لینے سے
پہلے ملاپ کی پہلی رات کا مطالعہ آپ کیلئے
از بس ضروری ہے ورنہ عدم واقفیت کے باعث
اگر کہیں خدانخواستہ آپ امتحان میں فیل ہو گئے
تو عمر بھر بیوی کی نظروں میں ذلیل و خوار رہینگے
اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آپکے
کھوئے ہوئے وقار کو واپس نہ لا سکیگا ۔

ملاپ کی پہلی رات

باتصویر

یعنی مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کی [illegible] ملاپ کی پہلی رات گویا دولہا اور دلہن کے امتحان کی رات ہوتی ہے ادھر تو نئی دلہن سولہ سنگار سے آراستہ ہو کر شوہر کے دل پر چھا جانا چاہتی ہے [illegible] ادھر مرد اپنی مردانگی محبت اور ایثار کے جوہر دکھا کر بیوی کو حلقہ بگوش بنانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں اور بازی دوسرے کی ہو۔ اگر آپ اس نازک امتحان میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر کے اپنے گرہستی جیون کو سورگ کی طرح بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کی فطرت، عورت کے پوشیدہ جذبات کیا ہیں؟ دلہن کیا چاہتی ہے؟ باغ حسن کی گلچینی کرنے کے باوجود دلہن کے حسن و جمال کے [illegible] کس طرح قائم اور برقرار رکھا جا سکتا ہے [illegible] اور فوری اثر کرنیوالے نسخے کون کون سے ہیں۔ تو دو سو صفحہ کی باتصویر کتاب ملاپ کی پہلی رات [illegible] فرصت میں طلب کیجئے آپ کی آنکھیں کھل جائینگی اس کتاب میں شادی شدہ جوڑے کے لئے تین سو سے زائد پوشیدہ [illegible] ہر ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو گرہستی زندگی اختیار کرنے سے پہلے [illegible] لینا چاہئے۔ [illegible] ملاپ کی پہلی رات کے الف سے [illegible] جانتے وہ جوانی کے عالم میں [illegible] عورت کی نظر میں ہمیشہ ذلیل و خوار [illegible] مرد و عورت دونوں کے لئے [illegible] کام دیگی اور وہ سو سال کی عمر تک طاقتور جوان اور [illegible] زندگی کی بہار لوٹتے [illegible] اولاد پیدا کرنے کے قابل بنے رہینگے۔ قیمت بارہ آنے (۱۲/) محصولڈاک ۵/

[illegible]

کیا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں؟

[illegible]

[illegible] آزمودہ عملیات کا خزانہ

قدیم مصری جادو [illegible]

[illegible]

بوڑھے بھی جوان ہو سکتے ہیں

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] لاہور

مضمون
اشتہار و ڈیزائن
رجسٹری شدہ

کھوئی ہوئی جوانی پھر واپس آ سکتی ہے

قیمت فی شیشی
دو روپیہ چار آنہ
محصول ڈاک ۴

بڈھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی طاقت کی بےنظیر دوائی دیکھ لینا! **فاسفرول** کے استعمال سے آپ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہونے پائیگا بلکہ گئے گذرے بڈھے بھی نئے سرے سے موٹے تازے ہٹے کٹے اور گبھرو جوان بنکر نوجوانوں کی صف میں بھرتی ہونے لگینگے سچ مچ انکی جوانی واپس لوٹ آئیگی دُنیا کی ہر نعمت انہیں پھر حسین اور خوبصورت معلوم ہونے لگیگی زندگی کی تمام خوشیاں انہیں حاصل ہو جائینگی فاسفرول بیسویں صدی کی وہ حیرت انگیز ایجاد ہے جس نے یورپ اور ایشیا کی طبی دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے

فاسفرول رجسٹرڈ
کا
استعمال کرو

فاسفرول تمام ہندوستان میں مشہور ہے ہر قصبہ اور گاؤں میں اس کی تعریف کرنے والے موجود ہیں **فاسفرول** ہر قسم کی دماغی کمزوری کیلئے اکسیر اور ہر عمر اور ہر موسم میں کھانے کے لائق ہے **فاسفرول** کے سامنے سونے چاندی کے کشتے نیز سینکڑوں قسم کی قیمتی دوائیاں بیکار ہیں **فاسفرول** کے استعمال سے بھوک اس قدر لگتی ہے کہ سیروں دودھ اور چھٹانکوں گھی ہضم کر جاؤ **فاسفرول** دماغی قویٰ کیلئے اتنی مفید ہے کہ برسوں کی بھولی ہوئی باتیں خود بخود یاد آنے لگیں گی۔ **فاسفرول** کا ایک ایک قطرہ آب حیات کا ایک گھونٹ ہے عورتوں کیلئے ایسی ہی مفید ہے جیسی مردوں کیلئے اکسیر صفت ہے **فاسفرول** کے استعمال سے پہلے اپنا وزن کر لو! دو ہفتہ استعمال کرنے کے بعد اپنا وزن کرو۔ ایک ایک پاؤ سیر وزن بڑھا دیگا **فاسفرول** کے استعمال سے بارہ گھنٹہ روزانہ کام کرو گے تو بھی تکان معلوم نہ ہوگی **فاسفرول** جریان احتلام اور سرعت انزال کو جڑ سے اکھیڑ دیگی۔ دنیا میں جس قدر طاقت کی دوائیاں ہیں۔ ان کی تاثیر عموماً گرم خشک ہوتی ہے نیز وہ قبض کی شکایت پیدا کر کے اعضائے رئیسہ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مگر **فاسفرول** تاثیر میں گرم تر اور قبض کشا ہے یہ جگر کے فعل کو درست کر کے قبض کی شکایت ہمیشہ کیلئے رفع کر دیگی **فاسفرول** چہرہ کو گلاب کے پھول کی طرح شاداب اور تندرست بنا دیگی **فاسفرول** کے ایک ایک قطرہ میں دنیا جہان کی طاقتیں حل کی گئی ہیں **فاسفرول** کوئی نئی چیز نہیں سینکڑوں نامراد اس کی بدولت بامراد بن چکے ہیں **فاسفرول** کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حد درجہ کی مقوی ہے امساک اس قدر بڑھاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے جو شخص ایک شادی کر کے بھی پشیمان اور ناکام ہو۔ اس ناکام شخص کو اس کی آرزو سے دس حصہ زیادہ قوت حاصل ہوگی۔ **المختصر** جو بات تحریر میں نہیں آ سکتی اس کو عملی طور پر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اس سے بہتر طاقت بڑھانے کیلئے اور کوئی دوائی نہیں ملیگی۔ ایک بکس کی قیمت جس میں مہینہ بھر کی خوراک بند رہتی ہے۔ صرف دو روپے چار آنہ (۲ ؍۴)

ایک ہزار روپیہ نقد انعام

اس شخص کو دیا جاویگا جو مندرجہ ذیل سندات میں کسی ایک کو فرضی ثابت کرے ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب یک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں

① فاسفرول بیشک آبحیات ہے ایک شیشی اور بھیج دیجئے۔ شیخ بخش سنگھ سیتاپور ② فاسفرول نے واقعی جادو کر دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں طاقت کی ایسی زبردست دوائی کبھی نہ دیکھی تھی ایک شیشی اور بھجوا دیجئے بھولی شنکر [illegible] دہلی ③ تین شیشی اور ارسال فرمایئے کیونکہ آپ کی دوائی سے مریض کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ محمد حسین منی پور آسام ④ فاسفرول کے استعمال سے میری بیوی کو بہت فائدہ ہوا۔ ایک شیشی اور بھجوا دیجئے۔ [illegible] علیگڈھ ⑤ فاسفرول کی شیشی پچھلے مہینہ منگوائی تھی بہت فائدہ حاصل ہوا دو ماہ کی خوراک اور بھیج دیجئے۔ کامتہ سنگھ فتح آباد ⑥ فاسفرول نے میری مایوسی کو خوشی سے بدل دیا۔ ایک شیشی اور بھجوا دیجئے۔ گلزار نواب خان سرونج مالوہ ⑦ فاسفرول کی ایک شیشی استعمال کر چکا ہوں تعجب خیز فائدہ ہوا ہے ایک اور بھجوا دیجئے۔ خوشدل لاری اہلکار گورکھپور ⑧ فاسفرول کو میرے چند احباب اور میں نے خود بھی چند قطرے استعمال کئے۔ توقع سے زیادہ مفید پایا حقیقت میں یہ آبحیات ہے۔ اگر چند دنوں اس کا مسلسل استعمال کیا جائے تو غیر معمولی فائدہ ہوگا۔ فصاحت حسین ہیڈ کلرک کلکٹری گورکھپور ⑨ آپ کے کارخانہ سے فاسفرول کی جو شیشیاں استعمال کیں بلا مبالغہ ویسا ہی اثر پایا جیسا کہ اشتہار میں دیکھا تھا۔ اب میری جسمانی صحت اور تندرستی بہت عمدہ ہو گئی ہے۔ پریم رام شرما [illegible] سہارنپور ⑩ فاسفرول دماغی کمزوری کے لئے واقعی اکسیر ثابت ہوئی ہے دو شیشی اور بھجوا دیجئے۔ ایک میں خود استعمال کرونگا اور دوسری تحصیلدار صاحب کے واسطے منگوائی جا رہی ہے۔ پنڈت [illegible] نائب تحصیلدار بھرت پور ⑪ فاسفرول کی دو شیشیاں مل گئیں حقیقت میں آپ کی دوائی بہت مفید اور زود اثر ثابت ہوئی ہے ایک شیشی اور خط دیکھتے ہی وی پی سے بھجوا دیجئے۔ پادری حبیب الرحمان خان تحصیل علی گڈھ ⑫ میں جگر کی خرابی کے باعث عرصہ سے بیمار تھا۔ کوئی دوائی کارگر نہ ہوتی تھی۔ کھانا دیکھ کر جی متلانے لگتا تھا۔ مگر فاسفرول کی پہلی خوراک نے گویا جادو کا اثر کیا۔ بھوک خوب لگنے لگی۔ دائمی قبض کی شکایت جاتی رہی ہے اور رات کو میٹھی نیند کے مزے لیتا ہوں۔ ایک شیشی بذریعہ وی پی اور بھجوا دیجئے۔ عبدالکریم ہیڈ کنسٹیبل قطب سہارنپور ⑬ فاسفرول کی ایک شیشی نے میرے سات سال کے پرانے جریان احتلام کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ میرے بھائی کیلئے ایک شیشی اور بھیج دیجئے۔ جلال الدین شیروالا فیروزپور شہر ⑭ فاسفرول میرے دوست کے مرض سوزاک میں مفید ثابت ہوئی ہے ایک شیشی اور بھیج دیجئے۔ غلام مصطفےٰ گوالیار ⑮ فاسفرول کی دو شیشیاں آپ کے یہاں سے منگوائی تھیں وہ واقعی لاثانی ہے۔ ایک بکس اور بذریعہ وی پی بھیج دیجئے۔ رام پرشاد لدھیانہ

[illegible] لاہور

معشوق عاشق ہوجائیگا

پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

کام روپ کا جادو یعنی تسخیر حسن با تصویر مکمل چار حصوں میں جادو کے فوراً اثر دکھانیوالے جنتر منتر تنتر نیز خفیہ عملیات اس کتاب میں درج کئے گئے ہیں ایسے جن کی سدھی کے لئے کوئی محنت کوئی جپ یا چلہ کشی نہیں کرنا پڑتے۔ آپ آنکھ جھپکتے کے ساتھ ہی لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر سینکڑوں روپیہ ماہوار کی آمدنی پیدا کر سکتے ہیں اس نادر کتاب کی موجودگی میں بھی اگر آپ عملیات کی بازاری کتابوں پر پیسہ برباد کریں تو آپکے نصیب!!...... کام روپ دیس کی عورتیں پردیسیوں کو جادو کے ذریعے کتا بلی یا بکرا بنا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں۔ اور جب ضرورت ہو دوبارہ آدمی بنا کر شریک صحبت کرتی ہیں۔ یہ سنکر مصنف کتاب اصل حال دریافت کرنے کے لئے خفیہ طور پر وہیں گیا۔ اور وہاں دس سال رہ کر اسنے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سیکھا۔ وہ سب اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ **مختصر فہرست مضامین** ملاحظہ ہو **پہلا حصہ** تتلی پر سرسوں پھیلانے یعنی فوراً اثر دکھانیوالے جادو کے نادر چٹکلے محبت کا پان محبت کی سپاری محبت کی الائچی محبت کا پھول اور محبت کا عطر وغیرہ تیار کرنے کی جادو اثر ترکیبیں یعنی ادھر محبوب کو کھلایا۔ یا سونگھایا اور ادھر اسکے خیالات نے پلٹا کھایا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے آپ سے علیحدہ نہ کر سکے گی۔ اسکے علاوہ حصول روزگار۔ دولت۔ اولاد۔ بلندی مراتب بربادی دشمن۔ مقدمات میں فتح۔ قید سے چھٹکارا نیز عوام میں ہر دلعزیزی حاصل کرنے کیلئے وہ وہ خفیہ عملیات۔ چٹکلے اور دوائیں درج کی گئی ہیں جن کو کام روپ دیس کے فقیر جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے ان کو گھر بیٹھے سیکھ کر دنیا آپکے سر ہو جائیگی اور آپ جہاں جائینگے عزت پائینگے **دوسرا حصہ** جادو کے عجیب و غریب کرتب جنکی عوام میں نمائش کر کے ہزاروں روپئے پیدا کئے جا سکتے ہیں (۱) [illegible] سے فوراً خون ٹپکنے لگے (۲) انگوٹھی خود بخود ہوا میں ناچنے لگے (۳) سادہ پانی کا دودھ بنا کر دکھا دینا (۴) غیب سے خود بخود پھولوں کی بارش ہو (۵) منہ سے آگ نکال کر دکھا دینا (۶) بغیر آگ کے چاول [illegible] (۷) [illegible] (۸) صندوق میں لڑکے کو بند کر کے غائب کر دینا (۹) جادو کا ایک [illegible] ہاتھی بنا [illegible] دو دو نکلنے پر بھی خالی ہو گا (۱۰) انگوٹھی غائب کر کے [illegible] (۱۱) [illegible] کا ناچ (۱۲) کٹا ہوا سر باتیں کرے (۱۳) حقہ اپنے آپ بولے (۱۴) انگلی سے پانی [illegible] (۱۵) ہتھیلی پر سرسوں اگانا وغیرہ وغیرہ **تیسرا حصہ** (۱) پانی پینے کی ترکیب (۲) شراب دودھ یا دودھ کی شراب بنا دینا (۳) گلاس میں پانی باندھنا (۴) ککڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحیح سالم بنا دینا (۵) [illegible] (۶) [illegible] (۷) [illegible] شیشے کو روئی کی طرح چبانے کا جادو (۸) پانی میں [illegible] **چوتھا حصہ** (۱) [illegible] (۲) [illegible] آدمی کو کتا بندر مینڈھا۔ طوطا۔ بکرا یا [illegible] بنا دینا (۳) مونچھوں والا آدمی چوٹی والی عورت دکھائی دینے لگے۔ وغیرہ وغیرہ مکمل چاروں حصوں کی قیمت صرف دو روپے آٹھ آنے محصول [illegible] کوئی بات خلاف [illegible] جلدی کیجئے ورنہ چند دن میں شاید یہ کتاب کسی قیمت پر بھی آپکو نہ مل سکے **نوٹ** اس کتاب میں اہل ہنود اور اہل اسلام [illegible] کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے [illegible] کی قلت کے باعث صرف ایک [illegible] اور خدا کا شکر [illegible] مقصد پورا ہو گیا۔ آپ کی کتاب بالکل سچی [illegible]

محبت کے مارے ہوئے

جو شخص [illegible] اپنے دل کی مراد [illegible] ایک [illegible] آزمودہ [illegible] جاتے ہیں

[illegible]

دنیا میں سب سے بڑا جادو

[illegible]



[illegible]

دھول میں جواہرات — بیش بہا مجموعہ اسرار

[illegible]

[illegible]

گھر کا ڈاکٹر — [illegible]

ڈاکٹروں اور حکیموں [illegible] اردو زبان میں اپنی قسم کی پہلی کتاب

[illegible]

[illegible] لاہور

[illegible]

رسالہ مست قلندر لاہور

[illegible]

اس میگزین کی ① اردو کا سب سے سستا سب سے زیادہ دلچسپ مکمل نام اور بہترین مصور رسالہ ہاں میں ملیگا ② اس میں ہر مہینہ دنیا بھر کے سینکڑوں دلچسپ گلدستہ اور [illegible] اخباروں و رسالوں کے چیدہ چیدہ مضامین کا انتخاب شائع کیا جاتا ہے۔ اس میں ملیگا ③ اس میں ہر مذاق اور ہر عمر کے آدمیوں کے دل بہلاؤ تفریح ہنسی مذاق اور دل لگی کیلئے گوناگوں دلچسپیوں کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں ملیگا ④ اس میں ہنسی آمیز لطیفے کارٹون چھوٹے چھوٹے [illegible] افسانے [illegible] دینے والی [illegible] تصویروں کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں اس میں ملیگا ⑤ بغیر سرمایہ کے روپیہ پیدا کرنے کے سینکڑوں آسان [illegible] ملیگا ⑥ اس میں [illegible]

[illegible]

① [illegible] ② [illegible] ③ [illegible] ④ [illegible] ⑤ [illegible] ⑥ [illegible] ⑦ [illegible] ⑧ [illegible] ⑨ [illegible] ⑩ [illegible] ⑪ [illegible] ⑫ [illegible] ⑬ [illegible]

[illegible]

مینیجر رسالہ مست قلندر لاہور

جو مانگو گے مل جائیگا

آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں [illegible] پیدا کر سکیگا۔ عالم محکوم ہو جائیگا۔ محبوب عاشق ہو جائیگا۔ غریبی امیری میں بدل جائیگی۔ [illegible] ہو جائیگے [illegible] جسے آپ چاہینگے [illegible] یہ سب کچھ کتاب کامتری شکتی کے مطالعہ سے حاصل ہو سکتا ہے

[illegible]

لاہور

جن جادو



بہترین لکھائی چھپائی ولایتی کاغذ بیشمار تصویریں خوبصورت سنہری جلد [illegible] کے مطابق [illegible] قیمت [illegible]

اردو میں جن جادو [illegible] بہتر کتاب [illegible]

[illegible]

کمالات [illegible]

نہ کوئی دوائی کھانا نہ کسی قسم کی ورزش کرنا

[illegible]

[illegible]

(The Lemon cure)

[illegible]

مرے ہوئے عزیز و اقارب سے ملاقات یا بات چیت کرو

[illegible]

اسپرچول ٹیلی ویژن

[illegible]

اسپرچول ٹیلی ویژن عورت، مرد، بچہ، بوڑھا سب کیلئے یکساں مفید ہے [illegible]

الیکٹرک اسپرچول ٹیلی ویژن

[illegible]

فوائد بے شمار ہیں مگر یہاں مختصراً درج کئے جاتے ہیں

[illegible]

آج مذکورہ کورس خریدنے پر مردہ روحوں سے بات چیت کرنے کا کورس آپ کو مفت ملے گا

[illegible]

کورس ۱ کی فہرست

[illegible]

کورس ۲ کی فہرست

[illegible]

[illegible]

طب جدید کی کتابیں

[illegible]

روحانی دنیا کا سمندر فن تسخیر اور حب کے متلاشیوں کیلئے ایک بالکل نئی چیز یعنی

تنتر شاستر با تصویر

تنتر ودیا پر اس سے بہتر یا اس جیسا کوئی تصنیف یا ترجمہ آج تک شائع نہیں ہوا

مضمون اشتہار و ڈیزائن

تیاگی سادھو تارک الدنیا فقیروں اور جٹادھاری سنیاسیوں کی تحقیقات اور تجربوں کا نچوڑ گاگر میں ساگر یا دریا کو کوزہ کا بہترین نمونہ

آجکل کچھ بیکار لوگوں نے بے معنی منتروں اور حب کے تعویذوں کی آڑ میں چکنے چپڑے اشتہاروں سے غریب پبلک کو بری طرح لوٹنا شروع کر دیا ہے میری عمر اسوقت ۷۵ سال کی ہے دنیاداری سے کوسوں دور ہوں عمر کا بیشتر حصہ ہمالیہ پربت پر جٹادھاری سادھو سنیاسی اور تیاگی پرشوں کی سیوا میں بسر کیا ہے میں نے جو کچھ سیکھا اس کو سالہا سال سے چھپاتا رہا ہوں لیکن بھولے بھالے بھائیوں کو دن دہاڑے لٹتے دیکھ کر اب مجھ سے نہیں رہا جاتا اس نے تنتر شاستر کے نام سے جواہرات کے اس انمول بھنڈار کو پہلی مرتبہ پبلک میں پیش کرتا ہوں مجھے روپیہ کا لالچ یا اپنی محنت کے صلہ کی خواہش نہیں سچائی کا بھوکا ہوں سچائی ہی کیلئے جی رہا ہوں اور ایک دن سچائی پر ہی جان دیدوں گا تنتر شاستر کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی اور ذلیل سی چیزوں میں عجیب غریب تاثیریں بھری ہوئی ہیں جن کے راز سے واقف ہو کر اڑتی چڑیا کو زمین پر گرا دینا۔ راہ چلتے آدمی کو آناً فاناً تسخیر کرکے اپنا ہمخیال بنا لینا۔ سات پردوں میں چھپے ہوئے معشوق کو کھینچ منگوانا اور بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بیمار کو پھونک مار کر چنگا کر دینا بالکل معمولی باتیں ہیں یہ سب کے سب تنتر نہایت آسان اور سینکڑوں بار کے آزمودہ ہیں جن کی موجودگی میں بے معنی منتروں کی بھول بھلیوں میں پھنس کر آپ کو اپنے وقت اور روپیہ کا ستیاناس کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی شمشان دیو استھان یا بھیانک جنگل میں چلہ کرکے جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی حاجت ہے تنتر شاستر چار حصوں میں لکھا جا رہا ہے مختصر **فہرست مضامین** ملاحظہ ہو ① جب محبوب یا معشوق تک رسائی نہ ہو۔ ماتھے پر تلک لگا کر تسخیر کرنے کا تنتر ② جب محبوب کے گھر آنا جانا ہو آنکھوں سے آنکھیں لڑا کر یا پھول سونگھا کر تسخیر کرنے کا تنتر ③ محبوب کو پان الائچی یا لونگ اور چیز کھلا کر فوراً تسخیر کرنے کا تنتر ہتھیلی پر سرسوں جما کر دیکھ لو ④ صرف جسم کو مس کرنے سے محبوبہ تسخیر ہوگی۔ ایک عجیب غریب اللسانی تنتر ⑤ محبوب کے پاؤں کی مٹی کی تاثیر وہ خود بخود بیتاب ہو کر چلی آئے گی ⑥ چاول کا ایک دانہ کھلا کر موہ لینے کا تنتر ⑦ محبوب کے جسم سے چھوتے ہوئے کپڑے کا تنتر جو کبھی خطا نہیں کرتا ⑧ محبوبہ کے سر کے بالوں کا تنتر جو بجلی کی مانند اثر کرتا ہے ⑨ لعاب دہن کا تنتر جس کی بدولت بیوی خاوند پر دل و جان سے فریفتہ ہو جاتی ہے ⑩ مور کے پر کا تنتر جو مغرور ترین عورت کو بھی پل بھر میں زیر کر سکتا ہے ⑪ عورتوں کو تسخیر کرنے کیلئے بیشمار سنیاسی چٹکلے ⑫ مردوں کو تسخیر کرنے کے تنتر ⑬ حاکم یا افسر کو مہربان بنانے والے تنتر ⑭ دھن دولت اور روزگار پراپتی کے تنتر ⑮ بچھو اتارنے کا تنتر ⑯ روگ ناشک یعنی بیماریاں دور کرنے کے تنتر ⑰ شترو ناشک یعنی دفعیہ دشمن کے تنتر ⑱ سرود ہا تنتر ⑲ پشو چکتسا تنتر ⑳ بناسپتی یعنی جڑی بوٹیوں کے تنتر ㉑ تن بیر تنتر وغیرہ وغیرہ پہلا حصہ چھپ کر تیار ہے طالب علم اور غیر شادی شدہ ہرگز نہ منگوائیں۔ رازداری اور اس بات کی حلفیہ تحریر آنی چاہیئے کہ شاستر ودیا کے کسی تنتر سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جائیگا ورنہ آرڈر کی تعمیل کسی صورت نہ ہوگی شوقین مزاج اور تماشبین حضرات ایک صد روپیہ خرچ کرکے بھی تنتر شاستر کو حاصل نہیں کر سکتے لیکن جن کے دل میں کوئی پاپ نہیں۔ اُن سے پہلے حصہ کے صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ لئے جاویں گے تنتر شاستر کے چھپنے پر بھی اگر کوئی محبت کا مارا ہوا ناکام رہتا ہے تو اس کے نصیب پھوٹے۔ یاد رہے کہ اس مد کی تمام آمدنی اشتہاری طریقہ کار سے مستحق لوگوں میں تقسیم کی جائیگی۔ میں ہر شخص کا سیوک بننے کو تیار ہوں جو میرے کسی تنتر کو غلط ثابت کرے۔ تنتر شاستر میں جڑی بوٹیوں کی اصلی اور رنگین تصویریں دی گئی ہیں۔ نیز یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کون سی بوٹی کس جگہ اور کس موسم میں آسانی سے مل سکتی ہیں تاکہ کسی تنتر کی تیاری میں خواہشمند کو ذرا بھر بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو معمولی گاؤں میں بھی پنساریوں کے یہاں مل سکتی ہیں الغرض بڑے کام کی چیز ہے جس طرح کسی کو کوہ نور ہیرا مل جائے۔ اور وہ مارے خوشی کے جامے میں پھولا نہیں سماتا۔ اسی طرح تنتر شاستر کو لے کر آپ سمجھنے لگیں گے کہ گویا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا آپ کے ہاتھ لگ گیا۔ تنتر شاستر کی موجودگی میں آپ کو کوئی کتاب اچھی نہ لگے گی۔ دل میں ایک زبردست لہر اٹھے گی کہ حب کے متعلق جتنے تنتر آپ نے پڑھے ہیں وہ سب دھوکے کی ٹٹی ہیں۔ ہائے پہلے یہ گوہر کیوں نہ ملا اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتے مارتے عمر کا اتنا حصہ برباد کیا۔ غرضیکہ تنتر شاستر کو دیکھ کر نہال ہو جاؤ گے اسے اپنی جان کے برابر عزیز رکھیں گے اور بڑی سے بڑی قیمت کے عوض بھی اسے اپنے سے جدا نہ کر سکیں گے۔ ایک سال میں پانچ ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ بک گئے اب پانچواں ایڈیشن شائع ہو رہا ہے قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ محصول ڈاک پانچ آنہ

مہتمم قلندر بک ڈپو پوسٹ بکس نمبر ۵۱ لاہور

دولت آپکو تلاش کر رہی ہے

اگر آپ غریب اور بیکار ہیں تو یہ آپ کا قصور ہے

کیونکہ اگر آپکو روپیہ پیدا کرنے [illegible] تو دولت آپکے گھر کی لونڈی اور روپیہ آپکا ادنیٰ غلام ہوتا۔ موجودہ پریشانی [illegible]

[illegible]

MOVELTIES

[illegible]

شبابی [illegible] استعمال کیجیے [illegible]

[illegible]

زندہ جادوگری کے کرشمے

یہ نادر کتاب جس کی دنیا والوں کو تلاش تھی۔ وہ جس کا ایک ایک راز لاکھ لاکھ روپیہ کو بھی سستا ہے کیونکہ اس میں ہندوستان قدیم کے رشی منی جنی یتی یوگی اور سنیاسیوں کے ذریعہ آزمودہ جادو اثر ٹوٹکوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ ساری کتاب میں منتر جنتر اور ریاضتوں کا جھگڑا آپ کو کہیں نہیں ملیگا۔ صرف ٹوٹکے ہی ٹوٹکے ایسے ہیں جن کو وہ لوگ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کتاب ہذا کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ پانچویں مرتبہ چھپکر فروخت ہو رہی ہے۔ مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو۔ ۱۔ بستر مرگ پر پڑے ہوئے بیمار کو صرف سانس کی تبدیلی سے راضی کر دینا اسکی ترکیب ۲۔ اپنی یا دوسرے شخص کی موت کا حال قبل از وقت جان لینا ٹوٹکہ ۳۔ [illegible] حسینوں کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی نہایت آسان آسان ترکیبیں ۵ بغیر دوائی کے [illegible] ترکیب ۶ بیوی کو اپنی محبت میں اسیر کر کے اس قدر [illegible] سوائے تمہارے [illegible] پیدا کر لو ٹوٹکہ ۸۔ ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے کا راز ۹۔ حاکم کے روبرو جانے سے پہلے [illegible] ۱۰۔ دشمنوں [illegible] راز ٹوٹکہ ۱۱۔ آنیوالی بیماری یا مصیبت کا قبل از وقت پتہ لگا کر اس [illegible] ۱۲۔ [illegible] مرتبہ [illegible] ۱۳۔ گھڑ دوڑ یا لاٹری یا کسی اور انعامی مقابلہ میں پہلا انعام حاصل کرنے کا راز [illegible] ۱۴۔ [illegible] ہونے اور آئندہ ہونیوالے واقعات کو قبل از وقت جان لینا۔ قدیم ہندو لوگ [illegible] ذریعہ روزگار بنا کر معقول آمدنی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ۱۵۔ بانجھ عورت [illegible] اولاد پیدا [illegible] ۱۶ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

مضمون اشتہار و ڈیزائن رجسٹری شدہ ہے ۔

قوت مردمی کا زبردست طوفان

بذریعہ سائنٹیفک آلات

گئے گذرے نامرد کو فی الفور مکمل مرد بنا دینے کا زندہ جشن

آلہ نامردی [illegible] (Rejuvinator) [illegible]

[illegible]

احساس کمزوری کا ازالہ ہر شخص کے لئے ممکن ہو گیا ہے

[illegible]

آلہ [illegible] [illegible]

آلہ [illegible] [illegible]

آلہ [illegible] [illegible]

[illegible]

سائنٹیفک [illegible] کمپنی [illegible]

بیسویں صدی کا کوک شاستر

مصنف [illegible]

[illegible]

لے لو مت یہ ہے گوہر مقصود ❋ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی

اس کے مطالعہ سے عورتوں کے متعلق آپکو ایسی عجیب و غریب واقفیت حاصل ہوگی کہ تمام اشتہاری کوک شاستروں کو بھول جائیں گے لدھیانہ اور کانپور کی بنائی ہوئی ننگی اور بیہودہ تصویریں تو آپ کئی مرتبہ دیکھ چکے۔ آیئے اب ہم پیرس کے باکمال مصوروں کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہاف ٹون بلاکس کی رنگین اور بولتی تصویروں کی شکل میں دکھا کر عورت کی مختلف حالتوں کا نقشہ آپ کے ذہن نشین کرائیں جو باتیں تقریریں نہیں سمجھا سکتیں جن کو جاننے کے لئے آپ سینکڑوں روپے اشتہاری کوک شاستروں پر پانی کی طرح بہا دیتے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہی باتیں آپ کو ہماری نادر کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہونگی مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو (۱) عورت کی پہچان عورت کیا چیز ہے؟ جس عورت کا بھید سنتے ہیں کہ بھگوان بھی نہ جان سکا۔ اس کے متعلق مغرب کے ۲۰ چوٹی کے ماہرین علم النساء نے اپنی تمام عمریں صرف کر کے کیا دریافت کیا (۲) کیا عورت پاکباز اور باعصمت ہے اس کی پہچان کرنے کا طریق (۳) عورت کی خوبصورتی بڑھانے کے مختلف طریقے۔ صرف غذاؤں کی تبدیلی سے حسن و خوبصورتی بڑھانے کا راز (۴) چہرہ کے داغ دھبے چھائیاں کیل چیچک کے داغ دور کر کے جلد کو ملائم اور خوبصورت بنانے کے آسان ترین طریقے (۵) چھوٹے قد کی عورت بغیر کسی دوائی کی مدد کے [illegible] قامت ہو سکتی ہے (۶) بغیر کنگھی یا دوائی کی مدد کے بال گھنگھریالے بنانے کی ترکیب (۷) ہاتھوں کی سختی اور کھردرا پن کیسے دور ہو سکتا ہے (۸) [illegible] کی ترکیب (۹) عورت کی ڈھیلی اور گری ہوئی چھاتیوں کو سخت بنانے اور ان کی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کا طریق (۱۰) کیا عورت کا جسم [illegible] کی ترکیب (۱۱) عورت کا جسم اس کے جسم کی ساخت اور پوشیدہ مقامات کی تشریح تصویروں کے ساتھ (۱۲) حمل کس طرح قرار پاتا ہے (۱۳) مواصلت کے فوراً بعد حمل [illegible] (۱۴) خوبصورت اولاد پیدا کرنے کا راز یعنی جب چاہو بچہ پیدا ہو نہ چاہو نہ ہو (۱۵) بانجھ عورت کس طرح اولاد کے قابل ہو سکتی ہے (۱۶) مواصلت کے مختلف طریقے (۱۷) [illegible] مفید اور نقصان دہ ہیں؟ یہی وہ راز ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے [illegible] جوانی میں بوڑھے ہو گئے اور اپنے [illegible] (۱۸) جسم پالش کرنے کے [illegible] ایک ایسی ترکیب جس کی بدولت بڈھے بھی جوان ہو سکتے ہیں (۱۹) دائم المریض اور قوت باہ کے لئے اشتہاری دواؤں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرنے والے بھولے بھالے انسانوں کے لئے [illegible] (۲۰) سو سال کی عمر تک جوان [illegible] ایسی کتاب ہے اس قسم کی [illegible] سوال کا حل کیا ہے کیا کوئی ایسی ترکیب ہے [illegible] ۴۰-۵۰ سال کی عمر میں بھی وہ ۱۸-۲۰ سال کی جوان معلوم ہو۔ اس کی [illegible]

[illegible]

حصہ دوم کے مضامین

کی مختصر فہرست ملاحظہ (۱) [illegible] (۲) [illegible] کی شناخت کرنے کی خصوص علامات (۳) [illegible] کی شناخت کرنے کی مخصوص علامات (۴) [illegible] (۵) دولہا دلہن کا انتخاب [illegible] (۶) [illegible] (۷) عورتوں کی خوبصورتی اور جوانی قائم رکھنے کے زریں اصول [illegible] (۸) [illegible] (۹) [illegible] (۱۰) [illegible] (۱۱) [illegible] (۱۲) [illegible] (۱۳) [illegible] (۱۴) [illegible] (۱۵) [illegible] (۱۶) [illegible] (۱۷) [illegible] (۱۸) [illegible]

[illegible]

لوگ کیا کہتے ہیں؟

(۱) [illegible] (۲) [illegible] (۳) [illegible] (۴) [illegible]

منیجر رسالہ عامل کامل پوسٹ بکس ۱۳۲ - لاہور

مضمون اشتہار و ترکیبیں رجسٹری شدہ ہیں

دسترخوان کی لذتیں

رجسٹرڈ

اس کتاب میں سینکڑوں قسم کے لذیذ اور دلپسند کھانے انواع و اقسام کی ترکاریاں، دالیں، پکوان، میٹھے و نمکین پلاؤ، حلوے، موہن بھوگ، چٹنیاں، اچار، مربے، رائتے اور قسم قسم کی مٹھائیاں بنانے کی ترکیبیں کچھ ایسے سیدھے سادے ڈھنگ سے عام فہم اردو میں لکھی گئی ہیں کہ کم لیاقت کی عورت بھی بغیر کسی دوسرے کی مدد کے ہر ایک چیز کو اپنے آپ تیار کر سکتی ہے جس عورت کے پاس یہ کتاب ہو گی اس کو میکے اور سسرال والے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ شوہر اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی رسوئی کے بغیر دوسرے کے ہاتھ کا کھانا اپنا حرام سمجھے گا اور ہمیشہ اسکا مطیع اور حلقہ بگوش ہو کر رہیگا۔ اس کتاب کو ایک دستکاری نے لکھا ہے۔ اس لئے یہ کوئی عام بازاری کتاب نہیں بلکہ نئی نئی قسم کے کھانے جو بادشاہی محلوں میں پکتے ہیں اس کتاب میں آپکو ملیں گے۔ تین سو سے زیادہ کھانوں میں سے صرف چند ایک کی فہرست بطور نمونہ ملاحظہ ہو۔ ① ہر قسم کے سالون، سبزیوں، اناجوں، پھلوں اور چوپایوں کے دودھ کے خواص، کس چیز کا کیا تاثیر ہے یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ② کیا عورت کا دودھ اکسیر حیات ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر کی بالکل نئی دریافت۔ اسی سال کا بڈھا بیوی کا دودھ پی کر کس طرح گبھرو جوان بن گیا ③ آلو کا بھرتہ بنانے کی ترکیب۔ ایک نئی بیاہی بیوی نے اپنے شوہر کو کسی کے ہاتھ سے کس طرح نجات دلائی۔ آلو کے بھرتے نے بازاری عورت کا دل پانی کر دیا ④ خربوزہ، کھیرا، پیٹھا، شکرقندی، سنگھاڑا، امرود، بانس اور ببول کی پھلیوں کی ترکاری بنانے کی ترکیبیں۔ اتنی لذیذ کہ جو ایکبار چکھے گا عمر بھر یاد رکھیگا ⑤ زعفرانی دال بنانے کی ترکیب ⑥ دلپسند چاول بغیر پانی کے بنانے کی ترکیب۔ ارہر کی کھچڑی، جہانگیری کھچڑی اور آلو کی کھچڑی بنانے کی ترکیبیں ⑦ مختلف قسم کی لذیذ روٹیاں بنانے کی پچاس ترکیبیں مثلاً ڈبل روٹی، شیرمال روٹی، خمیری روٹی، روغنی روٹی اور اچھوتی روٹی وغیرہ وغیرہ ⑧ لذیذ چٹنیاں بنانے کے بیسیوں طریقے مثلاً دہی اور ادرک کی چٹنی، آلو بخارا کی چٹنی، امرود کی چٹنی، انناس کی چٹنی، ٹماٹر کی چٹنی وغیرہ ⑨ انواع و اقسام کے رائتے بنانے کی ترکیبیں مثلاً کھیرے کا رائتہ، گاجر کا رائتہ، گلابی رائتہ، خربوزے کا رائتہ وغیرہ ⑩ قسم قسم کے اچار بنانے کی ترکیبیں مثلاً ادرک کا اچار، کریلے کا مسالہ دار اچار، منقہ کا اچار، نارنگی کا اچار، [illegible] کے پتوں کا اچار وغیرہ ⑪ دلپذیر مربے۔ ادرک کا مربہ، کیلے کا مربہ، پیٹھے کا مربہ، آلو کا مربہ وغیرہ ⑫ دودھ سے بھانت بھانت کی نعمتیں تیار کرنا یعنی امرت روپی بنانا جس کے روزانہ استعمال سے انسان ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ کر سو سال تک بھرپور جوانی اور تندرستی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ باجرہ، ناریل اور آلو کی کھیر پکانے کی ترکیبیں وغیرہ ⑬ موہن بھوگ حلوے، چنے کی دال کا حلوہ، ادرک کا حلوہ، پیٹھے کا حلوہ، الائچی کا حلوہ، انڈے کا حلوہ، پپیتہ کا حلوہ وغیرہ ⑭ مزیدار پیلاں، پاپڑ، کچوری، مولی کی بڑی، دہی کی بڑی، آلو کی بڑی، مسالہ دار پاپڑ، میٹھے پاپڑ، خربوزہ کی کچوری، کریلے کی کچوری، گوار کی پھلی کی کچوری وغیرہ ⑮ بیسیوں قسم کی من موہنی مٹھائیاں مثلاً نارنگی کی برفی، پیٹھے کی برفی، چنے کی دال کی برفی، آلو کی برفی، ملائی کی پوڑی بنانا، دہی کی پوڑی بنانا، چم چم، رس گلا، پھلوں کا گلاب جامن، سندیش، پھلوں کے رس کا عرق بنانا وغیرہ ⑯ منہ میں پانی بھر لانے والی نمکین و سوندھی چاٹیں، اروی کی چاٹ، ککڑی کی چاٹ، امرود کی چاٹ، ناشپاتی کی چاٹ، شکرقند کی چاٹ اور انناس کی چاٹیں وغیرہ وغیرہ۔ الغرض کتاب کیا ہے ہندوستانی کھانوں کا خزانہ ہے اور آپ نعمت خانہ۔ [illegible] گھر میں اس کی موجودگی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دال بھاجی میں نمک کی۔ اگر آپ روزانہ ایک ہی قسم کی دال بھاجی کھا کر تنگ آ گئے ہیں اور دستر خوان کی بے شمار نعمتوں سے پوری پوری لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپکی خواہش ہے کہ آپ کی بھوک بڑھ جائے، قبض کی شکایت باقی نہ رہے، طبیعت میں شگفتگی اور بشاشت رہے اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ عمر بھی بڑھ جائے تو اس کتاب کو منگا لیجئے۔ قیمت فی جلد ۱۲ آنے محصولڈاک ۵ ر

[illegible]

[illegible]

[illegible] قیمت صرف [illegible] علاوہ محصولڈاک

[illegible]

کر بیٹھے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ بڑی بڑی فلم کمپنیوں کے مالک آپ سے ملاقات کرنا باعث فخر خیال کریں گے [illegible] کا مطالعہ کیجئے معلوم کر کے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی [illegible] سینکڑوں روپے ماہوار [illegible] ترقی کر لی؟ ہر [illegible] کا آدمی کس طرح [illegible] بن سکتا ہے [illegible] کی باقاعدہ تعلیم کہاں ملتی ہے؟ بمبئی اور کلکتہ کے [illegible] حالات فلم کمپنیاں کس قسم کے مرد و عورتوں کو بطور [illegible] منتخب کرتی ہیں [illegible] اور فلمی زندگی اختیار کر کے آپ ہزاروں روپیہ ماہوار کی آمدنی پیدا کرنے کے علاوہ ہندوستان کے کونے کونے میں مشہور ہو جاتے ہیں [illegible] فی زمانہ جبکہ روزگار کے تقریباً تمام راستے بند ہو چکے ہیں فلمی لائن ایک نہایت ہی کامیاب اور منافع بخش لائن ہے اور اس کو اختیار کرنے کیلئے کسی خاص محنت اور لیاقت کی بھی ضرورت نہیں۔ [illegible] ماہوار تنخواہ حاصل کر رہا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ فلمی دنیا میں کامیاب نہ ہوں۔ یہ کتاب آپکی [illegible] روشن کر دیگی

منیجر [illegible] بک ڈپو [illegible] لاہور



ہندوستان کے سنیاسیوں کی کرامتیں

جڑی بوٹیوں کی عجیب و غریب تاثیریں مردے زندہ ہوگئے

زندگی میں ایسا موقع اُن حضرات کو اکثر ملا ہوگا جن کا کوئی عزیز کسی سنگین اور پیچیدہ بیماری میں مبتلا ہوا اور رائج الوقت حکیموں ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کے باوجود بھی صحت حاصل نہ ہو سکی۔ مگر پھر خوش قسمتی سے کسی سادھو مہاتما سے انکی مڈبھیڑ ہوگئی۔ اس نے مریض کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر ترس کھایا اور اپنی جھولی سے ایک جڑی نکال کر دی جس کے کھلانے سے مریض کو آناً فاناً شفائے کلی حاصل ہوگئی اور وہ بھلا چنگا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ سادھو سنیاسیوں کی جڑی بوٹیوں میں سچ مچ ایسی ہی تاثیریں ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ اس قسم کے فقیروں کی خدمت میں گذرا ہے اور جڑی بوٹی کے جس ماہر سنیاسی سے میری بھینٹ ہوئی اس نے پتہ نہیں میرے ستارۂ قسمت کے زیر اثر یا کیوں اپنی عمر بھر کی کمائی کو اپنے سینے کے راز کو کمال کشادہ دلی کے ساتھ میرے حوالہ کر دیا۔ میں بھی خدا رسیدہ بزرگوں کی ان قیمتی امانتوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا۔ صرف خلق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اور یہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائیگا۔ جب لاد چلیگا بنجارہ۔ اگر میرے ذریعہ سے کسی دم توڑتے ہوئے بدقسمت انسان کی زندگی بچ گئی تو میں اپنی کمائی اور اپنی زندگی کو کامیاب سمجھونگا۔ اس لئے اے لوگو! جو اس لفظ بلفظ سچے اشتہار کو پڑھو پہنچا دو اس خبر کو گھر گھر میں مستحق اور حاجتمند بیماروں کے پاس کہ ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اب بھی کچھ نہیں بگڑا جب تک سانس تب تک آس جڑی بوٹی کے سنیاسا نہ علاج سے انکی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں اور وہ پرماتما کی کرپا سے ایکبار پھر زندگی اور جوانی کی بے انتہا نعمتوں سے لطف حاصل کر سکتے ہیں میرے پاس ایک بوٹی دافع بخار کی ہے بخار چاہے کس قسم کا اور کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو اس جڑی کی چھ سلائیاں تین تین دن کے وقفہ کے بعد آنکھ میں لگانے سے دفع ہو جاتا ہے ایک بواسیر کی جڑی ہے اسکے اوپر چاندی کا خول بشکل انگوٹھی چڑھا کر انگلی میں پہنایا جاتا ہے! اور چند یوم میں بواسیر کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ایک اور مفرد چیز ہے جو کم و بیش ستر بیماریوں کے دفعیہ میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے کیسی عجیب بات ہے کہ وہ چیز دست آور ہے اور دست بند بھی کرتی ہے۔ صرف اس کے استعمال کا طریقہ ہر مرض کیلئے جدا جدا ہے۔ نامردی کیلئے ایک بوٹی کے رس میں گولیاں تیار کی جاتی ہیں۔ انکی تاثیر یہ ہے کہ چالیس یوم میں بالکل گئے گذرے اور ناکارہ مرد کو قابل فخر مرد بلکہ شیر مرد بنا دیتی ہیں اس کے جذبات جوانی میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور دل میں لہراتا شباب کی امنگیں سمندر کی طوفانی لہروں کی طرح ٹھاٹھیں مارنے لگتی ہیں۔ علاوہ ازیں جریان، احتلام، آتشک، سوزاک، دمہ، کہنہ تپ دق، ذیابیطس یعنی پیشاب میں شکر کا آنا۔ ہسٹریا (عورتوں میں غشی کے دورے) اور پاگل پن وغیرہ وغیرہ کے دفعیہ کی درجنوں بوٹیاں میرے پاس موجود ہیں اور ہر شخص اپنے مرض کی پوری کیفیت لکھ کر مشورہ اور تین دن کی دوائی مفت حاصل کر سکتا ہے۔ جڑی بوٹی کے علاج میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے۔ کہ بالکل بے ضرر ہے اور اسمیں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں۔ مشورہ کیلئے ایک ٹکٹ برائے جواب اور دوائی منگانے کی صورت میں ۵ پیسے کے ٹکٹ برائے محصولڈاک آنا ضروری ہیں امیر لوگ جو اپنے اپنے شہر میں خیراتی ہسپتال کھولکر زندگی بھر مفت دوائی تقسیم کرنے کا عہد کریں۔ ان کو نسخے بتلانے میں بھی مجھے عار نہ ہوگا۔ پتہ

ایڈیٹر رسالہ ہمت قلندر لاہور

[illegible]

یارب یہ کس کا جلوہ؟ ان انکھڑیوں میں چھپ چھپ کے کون جھانکتا ہے؟ حسن، خوبصورتی کیسے پیارے لفظ ہیں! اور حسین اور خوبصورت چہرے دیکھ کر دل کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ اگر آپ کو حسن پرستی کا شوق ہے؟ اور آپ اپنی فرصت کے اوقات رنگین گھنٹوں کو نظارہ بازی میں گذار کر ان سے مستی اور روحانی حظ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے۔ کہ آپ کی طبیعت ہمیشہ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ رہے اور غم بیماری یا موت آپ سے کوسوں دور ہو تو آج ہی خط لکھ کر یکصد حسین ترین عورتوں کا مجلد اور لاجواب البم صرف عہ کے وی۔ پی سے منگائیں۔ اس البم میں دنیا بھر کے مقابلہ حسن میں منتخب شدہ عورتوں کی منہ بولتی تصویریں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی حسین و جمیل فلم ایکٹرسوں کے اصلی اور رنگین فوٹو بھی ہیں جنکو آپ کئی مرتبہ اسٹیج پر دیکھ چکے ہیں مگر حسن و جمال کی ان پیاری پیاری اور رسیلی بھالی صورتوں کو عالم تنہائی میں دیکھنے کی حسرت ابھی آپکے دل میں باقی ہے۔ مزید لطف یہ کہ ہر ایک پری جمال فلم ایکٹرس کی تصویر کے ساتھ ساتھ اسکے حالات زندگی خود اسی سے لکھوا کر چھاپ دیئے گئے ہیں۔ نیز اس سے ملاقات کرنے یا خط لکھنے کے لئے اسکا مکمل پتہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ فوٹو البم کی یہ خوبصورت اور رنگین تصویریں اتنی جاذب نظر اور صاف ہیں کہ آپکو ایک نظر دیکھ کر اصل کا دھوکا ہوگا۔ آپ معاملہ دیں گے کہ ان میں جان ڈالنے کی کسر رہ گئی ہے یہ ارزانی نہیں سراسر لوٹ ہے کہ صرف عہ میں سو حسین عورتوں کا البم گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ پھر بھی آپ خاموش رہیں تو سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ

ان شوخ حسینوں پہ جو مائل نہیں ہوتا ❖ کچھ اور بلا ہوتی ہے وہ دل نہیں ہوتا

طوائف کی سرگذشت ۔ اسرار لندن عہ ایک حسین لڑکی کی سرگذشت

فن بوسہ بازی کے اسرار

(اُردو میں پہلی مرتبہ) اس کتاب کو ایک امریکن سیاح نے تین صد حسین و جمیل عورتوں سے کورٹ شپ کرنے کے بعد اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر لکھا ہے۔ بوسہ بازی ایک باقاعدہ آرٹ ہے اور ایسے دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپکو معلوم ہوگا کہ صنف لطیف کی تسخیر کے لئے بوسہ ایک بے پناہ ہتھیار ہے۔ تیر تلوار کا وار خالی جا سکتا ہے مگر ایک کامل فن استاد کا مہذب بوسہ زندہ قیامت سے خالی نہیں اس کتاب میں بوسہ کے ذریعہ تالیف قلوب اور تسخیر کے سائنٹیفک طریقے لکھے گئے ہیں۔ اور بتلایا گیا ہے کہ شوہر کس طرح اپنی بیوی کو تابع میں رکھ سکتے ہیں۔ نیز ① بوسہ کی قسمیں ② محبت کی کشیدگی میں کس قسم کا بوسہ پتھر سے زیادہ سخت دل بیوی کو موم کی طرح نرم بنا سکتا ہے ③ بوسہ کس طریق سے لینا چاہئے۔ ④ کیا بوسہ لینے سے عمر میں ترقی ہوتی ہے ⑤ کیا نسوانی حسن و خوبصورتی کی افزائش کے لئے بوسہ ایک ضروری چیز ہے؟ ⑥ کامیاب بوسے کتنے ہیں؟ ⑦ انگلستان، فرانس اور امریکہ میں بوسہ بازی کے کلب اور ان کے بوسہ کنندہ حالات وغیرہ قیمت عہ

عامل کامل بک ڈپو پوسٹ بکس [illegible] لاہور

[illegible]

اب کوئی شخص محبت کے امتحان میں کبھی فیل نہ ہوگا

[illegible]

کالا علم اور اُلو کے معجزے

[illegible]

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۶ء اور رسالہ موج زندگی با تصویر پورے حالات بتانے والا فالنامہ مفت دیا جائیگا

نقلی کتابوں سے بچو
دیگر

وہ لاثانی کتاب جس کے سامنے دنیا بھر کے تنتر منتر جنتر منتر کچھ قیمت نہیں رکھتے

تسخیر ہمزاد خفیہ المعروف طلسم خورشید

وہ نادر و نایاب کتاب جس میں امریکہ۔ فرانس۔ یورپ۔ عرب۔ ایران۔ توران۔ یونان اور ہندوستان کے طلسمات شعبدہ بازی منتروں جنتروں۔ تعویذوں۔ مسمریزم۔ ہپناٹزم۔ منتر تنتر جنتر۔ ودیا۔ کالا علم۔ علم تسخیر علم قیافہ۔ علم سامدرک یعنی ہاتھ دیکھ کے قسمت بتانا علم سرودھا۔ ناقص گرہ کے اپائے وغیرہ وغیرہ۔ لاکھوں روپیہ خرچ کرکے بھی نہ حاصل ہونے والے۔ زمانہ قدیم سے یوگیوں۔ تیاگی سادھوؤں۔ جٹا دھاری سنیاسیوں۔ کراماتی فقیروں اور درویشوں کے سینہ بسینہ چلے آنے والے خفیہ راز و عملیات کا انمول خزانہ بھرا پڑا ہے۔ جسے پڑھ کر ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی اسکے عملوں کو سیدھا کرکے دنیا بھر کی دولت کا مالک بن سکتا ہے۔ منہ مانگی مراد دے سکتا ہے۔ جو چاہے بنا سکتا ہے۔ ہزاروں مریضوں کو پل بھر میں تندرست کر سکتا ہے۔ دشمن سے اکیلے مقابلہ کرکے مطیع کرنا۔ تمام خلق کو دیکھنا اور خود نظر نہ آنا۔ کئی آدمیوں کی خوراک ایک ہی برتن میں مہیا کرنا۔ آدمی کا گھوڑا۔ بلی۔ کتا۔ شیر۔ گیدڑ وغیرہ نظر آنا۔ جس عورت کو حمل نہ ٹھہرے اسے حمل کا ٹھہرنا۔ جن یا بھوت دور کرنا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے مفید راز درج ہیں جو ہزاروں روپے خرچ کرکے بھی نہیں مل سکتے اور جن سے ہر مذہب کا آدمی پورا پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یقیناً ایسی مفید اور کارآمد کتاب دنیا بھر کے کسی کتب خانہ میں نہیں چھپی۔ ہماری اس کتاب کو حاصل کرکے آپ دوسری ایسی قسم کی کتابوں کو دھوکہ کی ٹٹی بتا دیں گے۔ اس کتاب کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ چھٹی بار چھاپ کر بیچ رہے ہیں۔ آج ہی منگوا لو ورنہ ساتویں بار کا انتظار کرنا پڑے گا۔ چھپائی نہایت صاف مع جلد بندھی ہوئی۔ قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ محصولڈاک وغیرہ الگ۔

منگوانے کا پتہ منیجر اقبال بکڈپو و اقبال عالم جنتری (۳۶ جی) رام گلی۔ لاہور (پنجاب)

افسوس! کہ میری جوانی تباہ ہو رہی ہے

پیارے! [illegible] سر جیون بوٹی طلسمی رس [illegible] استعمال کرو [illegible]

سر جیون بوٹی طلسمی رس

جسم میں از سر نو روح پھونک کر انسان کو با مراد بنا دیتی ہے۔ اسکے چند دن کے استعمال سے ہی جوانی عود کر آتی ہے۔ اگر قوت باہ کی کمزوری۔ نامردی۔ جریان۔ احتلام کی شکایات ہوں یا خواہش ہوتی ہے مگر طاقت نہیں ہوتی۔ بیوی کے پاس جا کر شرمندگی سے لاجواب ہونا پڑتا ہے [illegible] تو آج ہی اصلی سر جیون بوٹی طلسمی رس منگوا کر استعمال کریں۔ [illegible]

منگوانے کا پتہ منیجر کارخانہ اصلی سر جیون بوٹی طلسمی رس (۳۶ جی) راما سٹریٹ لاہور

یہ تینوں گھڑیاں مفت

انڈیپنڈنٹ قلم

تین شیشی عطر گلاب فیس۔ خاتمین ٹکیاں اصلی داد کی دوائی جو 12 گھنٹے میں داد کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ ایک شیشی روغن طلا جو ہر قسم کی نامردی کو دور کرتا ہے۔ ایک شیشی جوہر مراد جو جریان احتلام وغیرہ امراض کو ۲۱ دن میں کاٹتی ہے۔ اور ایک عدد اصلی انڈیپنڈنٹ قلم۔ ان تمام اشیاء کی قیمت صرف تین روپیہ ہر ایک چیز کا پرچہ ترکیب استعمال ساتھ ملے گا [illegible] ساتھ مفت دی جائینگی۔ ایسا ستا مال کہیں نہ ملے گا۔ گودام خالی کرنا مقصود ہے۔

ملنے کا پتہ } رائل سٹورز نیڑ دربار [illegible] روڈ۔ لاہور پنجاب

جشن سلور جوبلی ملک معظم شہنشاہ جارج پنجم کی تقریب کی خوشی میں عظیم الشان رعایتی اعلان و انعام

نصف قیمت

اعلیٰ نمونہ کی قابل دید
سنہری گولڈن دستی گھڑی

نصف قیمت

[illegible]

منگوانے کا پتہ } اقبال سوس واچ کمپنی (۳۶ جی) پارسن روڈ۔ لاہور (پنجاب)

ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں ۱۹۳۶ء مع رسالہ علم زندگی باتصویر اور سچے حالات بتانے والا فالنامہ تحفۃً دیا جائے گا۔



جنگ کا فیصلہ اور گھڑیوں کا پھر عام اعلان

دوستو! ہم نے پچھلے سال اعلان کیا تھا کہ دو سال کی جنگ کے بعد خاص شرائط پر گھڑیوں کی بھاری تعداد دینے کے لیے قیمتوں میں بھاری کمی کرا لی گئی ہے۔ جو کمی کرائی گئی وہ سب کی سب خریداروں کو گھڑیوں کی قیمتوں پر رعایت کر دی گئی تھی۔ جس سے ۱۹۳۵ء میں ہمارے بیشمار مہربانوں نے ہم سے گھڑیاں منگوا کر بے حد نفع حاصل کیا تھا۔

چونکہ ولایت والے گھڑیوں کی قیمت سونے کے سکہ میں لیتے ہیں اور آجکل سونے کی قیمت زیور میں سے بھی زیادہ ہے اس لئے ولایتی کارخانہ داروں نے گھڑیوں کی قیمتیں اور بڑھا دی تھیں۔ اس حالت میں بڑھی ہوئی قیمتوں پر گھڑیاں خریدنا خریداروں کو بہت دشوار تھا۔ اس لئے ہم نے خریداروں کی اس تکلیف کو محسوس کر کے گھڑیوں کے ولایتی کارخانہ داروں سے قیمتوں میں کمی کرانے کے لئے پھر جنگ شروع کر دی تھی۔ پورے ایک سال کے جھگڑے کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ سونے کا نرخ بڑھ جانے سے قیمتوں کا جو اضافہ ہوا تھا ایک بہت بڑی گھڑیوں کی تعداد منگوانے کی شرط پر وہ سب کا سب چھوڑ دیا گیا ہے۔ گویا اس وقت ہم کو سابقہ قیمتوں پر ہی گھڑیاں پڑ رہی ہیں۔ چونکہ کم منافع پر زیادہ مال بیچ کر اپنی تجارت کو بڑھانا ہمارا اصول اول ہے۔ لہذا پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل بہار دکھلا دینے والی اعلیٰ درجہ کی مشینری اور جواہرات کی طرح چمکنے والے پرزوں سے آراستہ، بے حد پائیدار خوبصورت مضبوط اصلی گھڑیاں جو سوائے ہمارے کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتیں۔ ذیل کے کم کئے ہوئے تقریباً لاگت کے داموں پر دی جا رہی ہیں۔ جن صاحبوں نے تجارت کے لئے یا خود استعمال کے لئے گھڑیاں منگوانی ہوں اپنے آرڈر جلد بھیج دیں۔

کئی صاحب جنہوں نے پچھلے سال ایک بار ہم سے مال منگوایا تھا بوجہ عمدگی مال فوراً فروخت ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ کیونکہ سستی اور عمدہ گھڑیاں ہونے کی وجہ سے ہمارے گودام سے ایکدم بک گئی تھیں۔ اور دوبارہ طلب کرنے پر ہم نہیں بھیج سکے تھے۔ اس لئے اب کی بار زیادہ سے زیادہ جسقدر منگوا سکیں منگوا لیویں تاکہ پھر مایوس نہ ہونا پڑے۔

ہر ایک گھڑی پورا پورا امتحان اور اطمینان کر لینے کے بعد مع مستقل گارنٹی پرچہ کے روانہ کی جاتی ہے۔ ناپسندیدگی کی صورت میں بغیر استعمال کئے واپس کر دینے پر نقد قیمت واپس کر دی جاتی ہے۔ (نوٹ) ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اعلیٰ گھڑیاں سوائے ہمارے دوسری جگہ ہرگز ہرگز نہیں مل سکتیں۔ دوسرے اشتہاروں کی چکنی چپڑی عبارت پڑھ کر اپنا روپیہ مفت ضائع کر لیں ← اور نیچے چھپے ہوئے پتہ پر آرڈر بھیج کر اصلی مال منگوا کر فائدہ اٹھائیں۔

ہر ایک پاکٹ یا رسٹ واچ کے ساتھ [illegible] مفت

ایک دم تین گھڑیاں خریدنے سے [illegible] مفت انعام

ہر ایک گھڑی کے ہمراہ فینسی چین [illegible] بلا قیمت دیا جاوے گا

اصلی رسکوپ سیم پاکٹ لیور واچ

گارنٹی ۱۰ سال

نہایت نفیس انگلش فیشن رسٹ واچ

ہمارے اکثر معزز خریداروں کو مضبوط فیشن ایبل اور کم قیمت گھڑی کی تلاش رہا کرتی تھی۔ چنانچہ ہم نے یہ لیور چال کی سیکنڈ والی گھڑی نہایت مضبوط [illegible] تیار کرائی ہے۔ [illegible] گارنٹی ۱۰ سال

نمبر ۳۱۰ گارنٹی ۵ سال

نمبر ۳۱۱ گارنٹی ۵ سال

نمبر ۳۱۲ گارنٹی ۵ سال

نمبر ۳۱۳ گارنٹی ۵ سال

نمبر ۳۱۴ گارنٹی ۵ سال

نمبر ۳۱۵ گارنٹی ۱۰ سال

نمبر ۲۲۵ لیور

نمبر ۲۵۰

رسٹ واچ

منگوانے کا پتہ:- محمد اسمٰعیل ابو حمید اینڈ سنز ہول سیل اینڈ ریٹیل مرچنٹس - ابو حمید بلڈنگس ۳۶/۱۲ جی لاہور (پنجاب)

نفیس چین - [illegible] ہر گھڑی کے ہمراہ مفت

نیو پیٹنٹ رسٹلٹ واچیں کلائی کی نفیس اور نایاب گھڑی



گھڑیوں کے ایجاد ہوتے ہی جو کامیابی اور ناموری اس گھڑی کو نصیب ہوئی ہے اُسکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر چند جنٹلمین گھڑیاں لگانے موجود ہوں تو غالباً دو کی جیب میں تو جیبی گھڑیاں ہونگی اور باقی سب کے ہاتھوں میں یہ خوبصورت باریک تسمے والی نیو فیشن رسٹلٹ گھڑیاں ہی زیب دیتی ہونگی۔ کیونکہ اس گھڑی کی خوبصورتی اور دلکش شیپ نے پبلک کے دلوں پر ایسا اثر کیا ہے کہ جنٹلمین تو اس گھڑی کی موجودگی میں دوسرے نمونے کی گھڑی کو پسند نہیں کرتے۔ اور مستورات طلائی زیورات کے مقابلے میں اس گھڑی کو زیب تن کرنا فخر سمجھتی ہیں۔ اسکی مشین بڑھیا اور وقت بھی ہمیشہ صحیح رہتا ہے۔ قیمت عمدہ خوبصورت باریک تسمہ لگا ہوا کیس سفید پختہ [illegible] بڑھیا [illegible] ریڈیم ڈائل [illegible] بڑھیا [illegible] سنہری کیس [illegible] بڑھیا [illegible] ریڈیم ڈائل [illegible] چاندی کا کیس [illegible] ریڈیم [illegible]۔ ان داموں مفت سے منگوا کر شوق پورا کریں۔

آٹھ روزہ شیپ کی اصلی پائدار بڑھیا پاکٹ لیور واچ



یہ نفیس گھڑی مشین کی نفاست اور مضبوطی میں بے مثل ہے۔ ڈائل بہت ہی خوبصورت بیل بوٹے دار دلفریب ہے۔ ایک بار کی خریدی ہوئی تمام عمر کام دیگی۔ سچا وقت دینے میں اپنی آپ نظیر ہے۔ سیکنڈ کے مقام پر بال کمانی کا پہیہ سامنے رقص کرتا ہوا بہت بھلا معلوم دیتا ہے اور نفیس کیس لیور سے مضبوطی، پائداری، خوشنمائی اور ارزانی کی وجہ سے مقبول عام ہے۔ قیمت مع خوشنما زنجیر صرف چار روپیہ بارہ آنہ للعہ

R 4/12/-

چھ خریدنے پر ساتویں مفت ملے گی۔

نہایت مضبوط شاک پروف پاکٹ لیور واچ



تمام شوقین مزاج دفتروں کے بابو کلرک کالج اور پولیس کے جوان جو بالکل ٹھیک وقت پر اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا چاہتے ہیں ایسی گھڑی لیں جو گرنے سے چوٹ کھانے پر بھی نہیں بگڑتی اسی لئے اسکا نام شاک پروف ہے۔ ٹھیک وقت دینے والی قیمت بہت ہی کم صرف تین روپے بارہ آنہ ۳/۱۲

سینٹر سیکنڈ پاکٹ لیور واچ



اس گھڑی میں سیکنڈ کی سوئی سب سے اوپر گھومتی ہوئی ایسی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ ہر وقت دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک ہی بار نظر ڈالنے سے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ تک صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ خاص کر فوجی افسر [illegible] ڈاکٹروں اور سواریوں وغیرہ کے لئے نہایت کارآمد تحفہ ہے۔ موجودہ [illegible]

اصلی سونے کی بڑھیا فل جیول لیور اسپیشن نہایت خوشنما پائدار رسٹ واچ



یہ سونے کی رسٹ واچیں [illegible] وضع کی نہایت خوشنما اور مضبوط پائدار ہیں انکی خوبی دیکھنے ہی پر منحصر ہے۔ خاص کر امیر رئیسوں اور بیگمات کے لئے نایاب تحفہ ہے۔ قیمت ۲۲/- و ۲۰/- و ۱۹/- رولڈ گولڈ کیس کی ۱۴/- و ۱۲/- گارنٹی ۲۰ سال

حیرت انگیز نو ایجاد ریڈیم لیور واچ



ایسی جیبی رنگ [illegible] خوبی [illegible] کی جتنی [illegible] لیور چال خوشنما شیپ وقت کی پکی ڈائل پر اعلیٰ ریڈیم جس سے اندھیرے میں بجلی کی طرح چمک کر وقت بتاتی ہے شیشہ کی حفاظت کے لئے پردہ [illegible] بلا ریڈیم [illegible] اسکی گارنٹی کی [illegible]

تقسیم انعامات

جنتری ۱۹۳۵ء کے اعلان کے مطابق جن اصحاب کو ۲۵۰/- روپے کے انعامات تقسیم کئے گئے ہیں۔ انکی فہرست الگ چھپائی گئی ہے جو صاحب فہرست انعام حاصل کنندگان دیکھنا چاہتے ہوں جوابی کارڈ یا تین پیسے کے ٹکٹ بھیجکر فہرست منگوا لیویں۔ بلا جوابی کارڈ یا ٹکٹ [illegible] نہیں کی جاتی۔ نیازمند مینیجر

نمبر ۲۱۸ خاص آرڈر سے بنوائی ہوئی قابل دید فیشن رسٹ واچ



نکل ملمع کیس کی نیو فیشن رسٹ واچ عورت مرد سب کو برابر زیب دیتی ہے

یہ رسٹ واچ نہایت ہی خوبصورت اور مضبوط ہے بیسوں سال کام دینے والی اور بہت صحیح وقت بتانے والی ہے۔ نیو فیشن فینسی تسمہ مفت دیا جاتا ہے۔ [illegible] اور نفیس [illegible] والی گھڑی کی اگر ضرورت ہو تو منگا لیں قیمت [illegible] ریڈیم [illegible] گارنٹی ۱۲ سال

ایسا پائدار [illegible] کلاک



[illegible]

بڑھیا مضبوط ٹائم پیس



[illegible] مقدار [illegible] بھی [illegible] وقت میں [illegible] کا فرق نہیں پڑتا [illegible] الارم [illegible] ۲/۱۲ [illegible] بڑھیا [illegible] ریڈیم [illegible] الارم [illegible]

بیاہ شادی اور تحفہ تحائف میں دینے والی سنہری فینسی رسٹ واچیں معہ تسمہ

قیمت ہر ایک کی



منگوانے کا پتہ: — محمد اسلم اینڈ سنز ہول سیل ڈیلر واچ مرچنٹس (پی ۳۶) آہوجہ بلڈنگس لاہور (پنجاب)

[illegible]

مفت۔ ہر ایک خریدار کو جنتری کلاں [illegible] و مسد رسالہ موج زندگی باتصویر اور بچے کے حالات بتانے والا فالنامہ مفت دیا جائے گا۔

صنعت و حرفت طب قانون انجینئری موٹر ڈرائیوری سکھانے والی اور دولت بنانے والی مقبول عام کتابیں

جن کی دھوم چار دانگ عالم میں مچ چکی ہے اور جن سے کروڑہا اصحاب فائدہ اٹھا کر مالا مال بن چکے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک ان سے محروم ہیں تو آج ہی منگا کر دولت مند سیٹھ ساہوکار بن جایئے۔ یہ کتابیں ہر شخص کے کار آمد اور مفید مطلب ہیں۔ قیمت بھی زیادہ نہیں۔ محصول ڈاک ہر کتاب کا ذمہ خریدار ہوگا۔

بجلی کا کارخانہ باتصویر مکمل

اس کتاب میں ہر قسم کی بجلی کی مشینوں کی تصویریں اور بجلی کے تمام پرزوں کے انگریزی نام [illegible] ماہر انجینئروں [illegible] قیمت [illegible]

ایک ہزار روپیہ ماہوار پیدا کرنا

اس کتاب کا نام [illegible] درج ہیں ان سے ہر ایک آدمی گھر بیٹھے ہزاروں روپیہ ماہوار پیدا کر سکتا ہے۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ

بھان متی کا پٹارہ

مشہور [illegible] ہندوستان [illegible] کا پٹارہ ہے۔ جس میں سینکڑوں [illegible] درج کر کے بہت آسان [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

تحفۂ حکیم

مردوں اور عورتوں کے تمام پوشیدہ امراض اسباب [illegible] بے اولادی کے علاج اور کشتہ جات ہر قسم کے [illegible] درج ہیں قیمت [illegible]

قانون عشرت

ایک کتاب ہے جسکی تمام لذت سے ہر ایک [illegible] اس میں متعدد [illegible] اور مفصل ہیں قیمت ایک روپیہ

طلسمی عجائب خانہ

اس میں طلسم درج ہیں جن سے [illegible] قیمت [illegible]

جامع حکمت

[illegible] قیمت [illegible]

جادو کے منتر

جنتر منتر تنتر تعویذ نقش [illegible] درج ہیں [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

مکمل اندر جال قیمت [illegible]
چین کا جادو [illegible] تحفۂ لقمان [illegible]
بنگال کا اصلی جادو [illegible]
مردوں سے ملاقات [illegible]
مکمل صابون سازی [illegible]

مکمل موٹر کار ڈرائیوری

موٹر سائیکل باتصویر۔ اس کتاب سے موٹر چلانا سیکھنے انجن اور [illegible] مرمت کرنے کی ترکیبیں درج ہیں [illegible] قیمت دو روپیہ

لائق بیرسٹر

قانون کی لاجواب اور قابل خرید کتاب ہے [illegible] قیمت سادی جلد [illegible]

چشمہ جوش

اس میں جوش کے [illegible] قیمت ریشمی جلد [illegible]

مکمل خزانہ کیمیا

ہر قسم کی دھاتیں کیمیائی طریق سے سونا چاندی بنانے [illegible] قیمت [illegible]

انگریزی مٹھائیوں کا کارخانہ

ہر قسم کی انگریزی مٹھائیاں بنانے والی کتاب ہے قیمت مجلد [illegible]

روح کرامات باتصویر مجلد

اس میں [illegible] کے مکمل حالات [illegible] آسن [illegible] قیمت مجلد [illegible]

مکمل فن گھڑی سازی باتصویر

اس میں گھڑیاں [illegible] قیمت [illegible]

سائیکل [illegible]

ہر قسم کی مرمت۔ صفائی وغیرہ [illegible] قیمت [illegible]

ناول اکبر کلاں [illegible]

مشکل کشا

یہ جیب جادو [illegible] کرنے والی بے خطا کتاب ہے۔ [illegible] دشمن کو زیر کرنا یا افسر کو مہربان کرنا معمولی بات ہے۔ [illegible] دل کا مطلب ہوگا سب پورا ہوگا قیمت فی جلد دو روپیہ

عملیات سفلی و طلسمی

اس میں ہر قسم کے عملیات [illegible] قیمت [illegible]

اردو لغات

یہ کتاب [illegible] اس میں اردو الفاظ [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

[illegible] اکاسی بیوپار

اس میں [illegible] درج ہیں [illegible] قیمت ایک روپیہ [illegible]

ہر قسم کی بیڑیاں بنانے کی مکمل کتاب

اس میں ہر قسم کی [illegible] بیڑیاں بنانے کی ترکیبیں درج ہیں [illegible] قیمت فی جلد دو روپیہ

انجینئر آف دی [illegible]

ہر قسم کی [illegible] اس کتاب سے [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ

مکمل رنگ سازی

تیار ہو کر ہندوستان میں [illegible] اس کتاب میں [illegible] کارخانہ [illegible] قیمت مجلد دو روپیہ

سیکریٹ آف انگلش ریمیڈیز

مشہور انگریزی پیٹنٹ ادویات [illegible] دامول فروخت ہوتی ہیں [illegible] اصلی نسخے بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کئے ہیں [illegible] قیمت ڈھائی روپیہ

مکمل طب حکمت باتصویر

حکمت کی تمام کتابوں کا [illegible] ہر ایک مرض [illegible] علاج [illegible] دیگر تمام حالات [illegible] قیمت [illegible]

مجموع الطب

اس میں یونانی و ویدک [illegible] ڈاکٹری [illegible] تمام امراض کے علاج [illegible] قیمت دو روپیہ

مکمل گنجینہ حکمت

حکیم [illegible] مشہور عام کتاب [illegible] قیمت مجلد دو روپیہ

مکمل آئل انجن بک باتصویر

ہر قسم کے آئل انجنوں [illegible] چلانے [illegible] قیمت مجلد [illegible]

بالر انجن بک باتصویر

انجنوں اور پرزوں کی تصویریں [illegible] قیمت مجلد دو روپیہ

ایگریکلچر سٹیم فائر انجن باتصویر

اس میں ایگریکلچر [illegible] کھیتی باڑی [illegible] سٹیم انجنوں [illegible] حالات درج ہیں۔ قیمت [illegible]

مصر کا جادو

مصر کے جادو کی اصلی کتاب ہے [illegible] مشہور و معروف جادو کی اصلی کتاب ہے [illegible] قیمت اردو [illegible] ہندی [illegible]

ہنسی کا گول گپا مکمل

یہ [illegible] کتاب چٹکلے و لطیفے [illegible] قیمت [illegible]

لوکوموٹو انجن باتصویر

ریلوے لائن پر چلنے والے انجنوں کے تمام حالات [illegible] قیمت صرف ایک روپیہ چار آنہ

میرین انجن بک باتصویر

پانی سے چلنے والے انجنوں کی مکمل اور باتصویر قابل دید کتاب قیمت مجلد ایک روپیہ

لینڈ انجن بک باتصویر

اس میں تمام قسم کے [illegible] انجنوں کے بالتشریح حالات درج ہیں قیمت فی جلد صرف [illegible]

ہائی سپیڈ انجن بک باتصویر

اس میں تمام قسم کے تیز رفتار انجنوں کے مکمل حالات [illegible] سوالات و جوابات درج ہیں قیمت صرف [illegible]

مکمل انجینئرنگ گائیڈ یا رہنمائے انجن ڈرائیوری حصہ اول باتصویر

ہر قسم کے انجنوں کی بناوٹ اور انکے پرزوں کے مکمل حالات [illegible] تمام قسم کے انجنوں اور انکے پرزوں کی تصویریں درج ہیں جن سے ہر شخص انجن ڈرائیوری بآسانی سیکھ سکتا ہے [illegible] قیمت تین روپیہ

مکمل انجینئرنگ گائیڈ حصہ دوم

اس میں سٹیم تیار کر کے کام لینا اور تمام قسم کے سٹیم انجنوں کو فٹ کرنا، پرزوں کی مرمت وغیرہ مفصل حالات درج ہیں قیمت مجلد دو روپیہ چار آنہ۔ حصہ اول و دوم ایک ساتھ منگانے سے صرف [illegible]

ملنے کا پتہ منیجر اقبال ہندی بک ڈپو و اقبال عالم جنتری (۳۶ جی) اوجہ بلڈنگ۔ رام گلی۔ لاہور (پنجاب)

[illegible] ان کے علاوہ اور ہر قسم کی درسی و مذہبی کتابیں آرڈر آنے پر روانہ ہو سکتی ہیں۔

غلط ثابت کرنے پر ہزار روپیہ ۱۰۰۰ انعام۔ ساتویں بار چھپ کر بک رہا ہے جلد منگوالیں

دنیا میں سب سے بہتر لاثانی
دلفریب۔ قابل دید اور بہت ہی نایاب 200
ہفت رنگی تصاویر اور آٹھ ہاف ٹون فوٹوز رنگین بلاکس اور 354 بڑے صفحے والا
باتصویر
کوک شاستر
مکمل ۳ حصے
ہمارے کوک شاستر کے بڑے ۳۵۴ صفحے ہیں
قابل دید لائق خرید
جھوٹی تقلید سے فرضی کوک شاستر کی خریداری سے بچیں
ہر شخص کو مفید مطلب
بار بار پڑھنے قابل
کشمیری

شریمان کوکہ پنڈت وزیر اعظم ریاست کشمیر کی اصلی بیاض کا معہ آنکی سوانحعمری کے صحیح عام فہم ترجمہ

اس کوک شاستر کو پڑھنے سے وہ عجیب باتیں معلوم ہونگی جو عورتوں اور مردوں کے متعلق جاننی ضروری اور مفید ہیں۔ نقلی تصویروں اور چند صفحوں کے قصے کہانیوں والے کوک شاستر دیکھ کر تو آپ اپنی دولت کھو چکے۔ آئیں اب ہم اپنے خاص ہفت رنگی تصویروں والے اصلی کوکہ پنڈت کے بنائے ہوئے کوک شاستر کی زیارت کرائیں جس میں دنیا بھر کے باکمال مصوروں کی کاریگری کے منہ بولتے فوٹو۔ عورتوں اور مردوں کی خاص حالتوں کی پوری اور مفصل تصویروں کے نمونے جنکے لئے آپ مدت سے ترس رہے تھے اور ہزاروں روپے خرچ کرنے پر بھی آپ کو نہیں ملیں۔ اور وہ راز جنکے لئے کوکہ پنڈت نے تمام خلق کو گرویدہ بنا رکھا تھا ہمارے اس کوک شاستر میں درج ہیں۔ ہمارا یہ وہ کوک شاستر ہے جسکی ہر وقت ہر شخص کو ضرورت ہے۔ فہرست مضامین حسب ذیل ہے۔

(۱) کوک شاستر کیوں مشہور ہے کیا ورکس عہد میں ہوا۔ اسکا اثر موجودہ کون ہے اور کیونکر بنایا گیا۔
(۲) برہمچریہ اور اسکے فائدے۔ سنگ کے قواعد بازاری و غیر عورت اور جلق کے نقصانات۔
(۳) بیوہ عورتوں کو ہدایات۔
(۴) پدمنی۔ چترنی۔ سنکھنی عورتوں کے بیانات
(۵) کن کن عورتوں سے … عورتوں کی خواہش [illegible]
(۶) شوہر پرست عورتوں کی خاصیتیں۔
(۷) حیض کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت یا ہونے کا … کے ٹھیک وقت پر نہ آنے کے علاج۔ اچھے اور برے خون کی پہچان۔ ایام ماہواری سے پاک و صاف ہو کر کیا کرنا چاہیے۔ آغاز حیض ایام کا بجوم حمل کے مہینے کا نتیجہ۔
(۸) قدرتی قانون کا وقت۔
(۹) قرار حمل۔ حمل کا دن معلوم کرنا۔
(۱۰) اپنی مرضی سے لڑکا لڑکی پیدا کرنے کے طریقے
(۱۱) حاملہ کی پہچان۔ حاملہ کے خاص نشانات حمل میں لڑکا لڑکی اور جڑواں بچے کی پہچان۔
(۱۲) مطابق کام شاستر شناخت حمل۔
(۱۳) حمل کے بعد عورت کو کیا کرنا چاہیے۔
(۱۴) اولاد کی خاطر قدرتی قانون کا وقت۔
(۱۵) انسان کے دل کو کھینچنے والی مستورات اور اُس کے نشانات۔
(۱۶) چاند کے حساب سے عورتوں کی خواہشات کا پورا حال اور آسنوں کا کلی بیان۔
(۱۷) سولہ [illegible] رشتہ کے اصول کرہ کیسا ہونا چاہیے
(۱۸) گر [illegible] دان کا طریقہ۔ فلسفہ [illegible] پانی پینے کے فوائد۔
(۱۹) [illegible] عورتوں کے اوصاف۔ عورتوں کی چال ڈھال دیکھ کر سب حال دریافت کرنا۔
(۲۰) [illegible] کام شاستر عورتوں کے اوصاف۔ پریم شاری۔ عورت کا [illegible] منتر خوشی بڑھانے کے طریقے۔ بیان شادی۔
(۲۱) عورت کا خاندان کیسا ہونا چاہیے
(۲۲) نزدیک اور دور شادی کرنے کے فوائد
(۲۳) شادی کس عمر میں کرنی چاہیے۔ عورت کی عمر بیاہ کے لائق جوڑہ۔
(۲۴) بیان حمل۔ حمل کی شکل۔
(۲۵) اوائل سے لیکر بچہ پیدا ہونے تک کے حمل امراض اور انکا مفصل تیر بہدف علاج۔
(۲۶) پیدائش کا دن اور وقت معلوم کرنیکا صحیح نقشہ
(۲۷) بچہ پیدا ہونے کے دن اور وقت سے بچہ کی کل زندگی کے حالات کا نقشہ جس سے فوراً معلوم ہوگا کہ بچہ کس عمر کا ہوگا اور والدین کی کیا خدمت کریگا [illegible] علاج [illegible]
(۲۸) پرورش اطفال معہ تشریح امراض و علاج۔
(۲۹) بچہ [illegible] منتر [illegible] کیا کرنا چاہیے۔
(۳۰) [illegible] کی ہدایات۔ [illegible]
(۳۱) [illegible] ادویات بال [illegible] بال اڑانے کے [illegible] افزا ادویات [illegible]
(۳۲) حاملہ کے بخار [illegible] جریان [illegible] سیلان الرحم [illegible] قرار حمل کا مکمل علاج [illegible] عفونت [illegible] کا بہتر بنانیکی ترکیبیں۔ [illegible] قائم رکھنے کے نسخے۔ دودھ بڑھانے کی ادویات
(۳۳) حمل سے لڑکا ہی ہو۔
(۳۴) ہر قسم کی بانجھ عورت کے علاج۔ حیض کی تکلیف دور کرنے کے طریقے۔
(۳۵) سیاہی پاک۔ سفید بال کا علاج۔
(۳۶) چاروں قسم کے مرد ششک۔ مرگ۔ اسو۔ [illegible] کی شناخت اور چال [illegible] کی پہچان
(۳۷) جریان کی تشریح و علاج۔ علاج نامردی احتلام [illegible] منتر [illegible] آتشک۔ سوزاک وغیرہ تمام مہلک امراض [illegible] کا مکمل علاج۔
(۳۸) ہر قسم کے کشتہ جات کے مکمل طریقے۔
(۳۹) کسی کی شادی کا [illegible] مطابق [illegible] شادی کرنے کے منتر اور مفصل بیان۔
(۴۰) علاوہ ازیں اور دلچسپ [illegible] کوکہ شاستر [illegible] قسم کے عجیب و غریب حالات جن کا بیان کرنا مناسب نہیں درج ہیں۔

خوب یاد رکھیں کہ وہ یہی اصلی کوک شاستر ہے جسکے لئے مدت سے آپکی آنکھ ترس رہی تھی۔ اگر اصلی کوک شاستر کی خواہش ہے تو پتہ ذیل سے ہی مل سکتا ہے کیونکہ اس میں ضروریات کے مطابق ۲۰۸ ہفت رنگی دلچسپ تصویریں موجود ہیں جن کے آپ خواہشمند ہیں۔ اس لئے اسکے منگوانے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کریں (۱) قیمت ۳ رنگہ فوٹو ٹائیٹل بلاک والی جلد صرف ایک روپیہ آٹھ آنہ عہ (۲) قیمت ۳ رنگے فوٹو ٹائیٹل بلاک والی بڑھیا فینسی پختہ سنہری جلد سے سجا ہوا اور بڑھیا کاغذ دو روپیہ عہ (۳) پختہ ریشمی جلد دو روپیہ آٹھ آنہ [illegible] ہندی اور گورمکھی الگ الگ چھپی ہوئی قیمت دو روپیہ عہ پختہ ریشمی جلد ڈھائی روپیہ [illegible] محصولڈاک ہر کتاب کا ۸ر بذمہ خریدار۔

منگوانے کا پتہ مینیجر اقبال ہند بک ڈپو واقبال عالم [illegible] لاہور (پنجاب)

شکست نامرد کو جوانمرد اور مرد کو قوی ہیکل بنانیوالی

طاقت کی طلسماتی سنہری گولیاں

مجرب تیر بہدف زود اثر بلا ضرر

ان طلسماتی سنہری گولیوں کے استعمال سے مردہ قوت لوٹ آتی ہے۔ کمزور اور لاغر انسان لوہے کی لاٹھ کی مانند طاقتور ہو جاتا ہے اور [illegible] مردمی ہمیشہ کے لئے عود کر آتی ہے اور تمام قوائے روحانی۔ جسمانی اور اعصابی میں غیر معمولی تحریک پیدا ہوتی ہے سستی۔ کاہلی۔ گھبراہٹ۔ سردرد۔ اور منی کی تمام بیماریاں۔ جریان۔ احتلام۔ رقت منی۔ خواب میں ناپاکی وغیرہ ایک ہی شیشی کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو خود ہی تباہ کر بیٹھے ہوں اور درد سر۔ درد کمر۔ دل کی دھڑکن۔ دھات کے گرنے اور دیگر تمام ایسی تکلیفوں سے نجات چاہتے ہوں تو ان طلسماتی سنہری گولیوں کو ضرور استعمال کریں۔ کیونکہ یہ گولیاں ایسے تمام مریضوں کے لئے اکسیر اعظم ثابت ہوئی ہیں اور منی کو بھاری تعداد میں پیدا کرتی ہیں۔ [illegible] جن باتوں کے لکھنے اور بتانے میں آپ جھجکتے ہیں یہ گولیاں ان کا تیر بہدف علاج ہیں اور تمام جلدی امراض کو دور کر کے طبیعت کو بشاش اور [illegible] بناتی ہیں۔ گویا خشک درخت میں آبحیات کا پانی پہنچ جاویگا۔ قیمت فی شیشی ۲۵ گولیاں صرف ایک روپیہ محصولڈاک پیکنگ وفیس منی آرڈر [illegible] تین شیشی [illegible] محصولڈاک [illegible] چھ شیشی [illegible] محصولڈاک وغیرہ [illegible]



سرمہ سنیاسی کو ہمیشہ آنکھوں میں لگائیے

یہ سرمہ ایک سنیاسی صاحب سے بصرف زر کثیر حاصل کیا ہے جسکی ہزاروں پڑیاں مفت بانٹنے سے مفید اور بیش بہا تحفہ ثابت ہوا ہے۔ جو صرف جنگلی جڑی بوٹیوں کی ملاوٹ اور سرمہ کو قاعدہ کے مطابق پاک صاف کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اسے تندرست آنکھوں والے لگا دیں تو آنکھ کو کوئی بیماری نہ ہو۔ جو لوگ دماغی محنت اور [illegible] کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جانے سے عینک لگاتے ہیں انکے لئے یہ سرمہ واقعی مفید ثابت ہوا ہے۔ اور خاصکر تمام امراض چشم ضعف بصارت۔ دھند۔ جالا۔ غبار۔ پڑوال۔ ناخونہ۔ خارش۔ کھوپلا۔ سرخی چشم۔ آنکھوں سے پانی بہتے رہنا۔ تاریکی چشم وغیرہ۔ [illegible] آنکھوں کے امراض دور کر کے دن کو تارے دکھاتا ہے۔ [illegible] اور دماغی کام کرنے والے لگا دیں تو عینک کی عادت چھوٹ جائے۔ جو ابھی عینک لگانے کے عادی نہیں انکو عینک کی ضرورت نہ پڑیگی۔ یہ سرمہ ہر فرد بشر کی پاکٹ میں ہر وقت رہنا چاہئے۔ قیمت سوا تولہ کی شیشی صرف [illegible] محصولڈاک وفیس منی آرڈر [illegible] کل [illegible] ماشہ کی شیشی [illegible] محصولڈاک وغیرہ [illegible] کل [illegible] ڈھائی تولہ یا زیادہ کے خریدار کو محصول [illegible]

سانڈھے کا تیل

سانڈھے کی اکڑ کبھی توڑ دی جاتی ہے پھر بھی وہ دیسے کا دیسا ہی اکڑا رہتا ہے۔ ناکارہ عضو مخصوص پر اگر اس تیل کی مالش کر دی جاوے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ فی شیشی [illegible] محصولڈاک [illegible]

کیا اب موت کی دعا مانگنی پڑیگی!

نہیں۔ ہرگز نہیں

خدا کے فضل سے مایوس مت ہو اور ورمن اوشدھالیہ سے طلسمی روح حیات امرتی خرید کر استعمال کیجیئے۔ اور قدرت خدا کا تماشہ دیکھیئے۔ تمام اندرونی و بیرونی بیماریاں۔ مثلاً سردرد۔ آنکھ۔ پیٹ اور کان کا درد۔ بہرہ پن۔ زکام۔ کھانسی۔ درد دانت۔ [illegible] ہیضہ۔ بدہضمی۔ پیچش۔ درد گردہ۔ بواسیر۔ آتشک۔ سوزاک۔ جریان۔ نامردی۔ حیض کی خرابی۔ بخار۔ پلیگ۔ نمونیا۔ تپ دق۔ [illegible] پھوڑے پھنسیاں۔ بچھو۔ سانپ وغیرہ کا ڈنک وغیرہ وغیرہ تمام امراض پر صرف یہ ایک ہی دوائی آبحیات کا کام دیتی ہے۔ عقلمند وہ ہے جو ہر وقت اسکو پاس رکھتا ہے۔ رعایتی قیمت بڑی شیشی ایک روپیہ نمونہ کی شیشی [illegible] محصولڈاک وغیرہ [illegible]

آتشک کی گولیاں

آتشک و خبیث

[illegible] یہ بیماری پشت تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس لئے اس مرض کو چھپانا نہ چاہئے۔ [illegible] آتشک کے مادے کو نکال [illegible] محصول [illegible]



جریان الرحم

یعنی ان تمام امراض میں اکسیر ہے۔ عورتوں کے رحم سے سفید رطوبت کا گرنا جسکو پردر روگ کہتے ہیں۔ اسی سے دل کا دھڑکنا۔ سر چکرانا اور درد کرنا۔ [illegible] منہ خشک ہونا۔ بھوک نہ لگنا۔ غشی کا ہونا۔ سستی کا بڑھنا۔ حرارت کا رہنا۔ بلکہ آخر میں تپ دق ہو جاتا ہے۔ ہماری اس مجرب دوا سے یہ مرض [illegible] قیمت [illegible] کی دوا [illegible] محصولڈاک

پیاری پاک

مستورات کے پوشیدہ امراض کا خاص علاج ہے مثلاً حیض کا درد سے آنا یا کم آنا۔ زیادہ آنا۔ سفید رطوبت کا جاری رہنا۔ درد کمر۔ درد سر۔ [illegible] بھوک نہ لگنا۔ حد سے زیادہ کمزوری۔ حمل نہ ٹھہرنا۔ اولاد نہ ہونا۔ [illegible] شکایات کو دور کر کے تندرست بنا دیگا۔ اولاد نرینہ پیدا ہوگی [illegible] دن کی خوراک [illegible] محصول [illegible] دن کی [illegible] محصولڈاک ۱۲ [illegible]

[illegible] دوا

[illegible]

افیم چھڑانے کی گولیاں

اگر آپ کا کوئی عزیز افیم کھاتا ہو تو ان گولیوں کو استعمال کرائیے اس سے بلا تکلیف افیم کھانے کی عادت چھوٹ جاویگی قیمت ۵۰ گولیوں کی [illegible] محصولڈاک [illegible]

[illegible]

یہ گولیاں امیروں [illegible] ناکارہ لوگوں کے لئے تیار کی ہیں جو [illegible] خواہشات کو ترستے ہوں۔ [illegible] بجلی کی مانند طاقت پیدا کر دیتی [illegible] ۲۵ گولیاں [illegible] محصولڈاک [illegible]

سر گنج کی دوا

[illegible] گنج کو دور کر کے بال [illegible] قیمت ۱۲ [illegible] محصولڈاک [illegible]

منگوانے کا پتہ ☞ پروپرائٹر ورمن اوشدھالیہ۔ پارسن روڈ (۳۶ جی) لاہور (پنجاب)

دھوکہ نہ کھائیں۔ دیگر اشتہار دہندگان کیمرہ کے ہمراہ سات یا آٹھ میوٹ گھڑیاں مفت دے رہے ہیں۔ جو صرف بچوں کی ہوتی ہیں۔ اور بازار میں ایک آنہ درجن بکتی ہیں۔ خبردار دھوکہ نہ کھائیں

اعلیٰ کوالٹی کی سینما بائیسکوپ اصلی مشین



یہ وہی بڑھیا مشین ہے جسکا تماشہ رات کو دکھا کر لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ فلم چڑھا کر مشین چلاؤ تو چلتی پھرتی ہوئی تصویریں بیسیوں قسم کے ڈرامے۔ دریا، پہاڑ۔ جانور۔ حسین لیڈیوں کی تصویریں۔ مشہور نظارے۔ اور فوجی نظارے بائیسکوپ کمپنی کی طرح تماشہ کرتی ہوئی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں۔ معاش اور تفریح ایسی دونوں موجود ہیں۔ جس سے بے روزگار لوگ تھوڑے سرمایہ سے بہت کما سکتے ہیں۔ قیمت چھوٹی مشین معہ ایک فلم صرف -/5 بڑھیا معہ ایک رنگدار فلم و تین عدد سلائیڈ -/7 مجھولی معہ ایک رنگدار فلم و سات تصاویر -/11 بڑھیا معہ ایک بڑی رنگدار فلم اور نو عدد بڑی بڑی تصاویر -/15 بڑی مشین معہ دو عدد فلم اور ۳ عدد تصویر دلربا گہرے ہوئے سلائیڈ قیمت -/21 ایسی ہی اور بڑی -/25 و -/28 درجہ اعلیٰ -/30

چلتی پھرتی تصویروں والا پاکٹ بائیسکوپ

جب دل چاہے پاکٹ سے نکال کر خود بھی تماشہ دیکھئے اور دوستوں کو بھی دکھائیے۔ لیمپ اور پردہ کی ضرورت نہیں۔ رعایتی قیمت ۱۲؍

مانند سونے کے جھمکیل سنہرے کڑے

ہیرہ دار کڑے مانند سونے کے
پھولدار کڑے مانند سونے کے

بہو بیٹیوں کی کلائی میں بڑا لطف دیتے ہیں

سنہرا انوکھا ہار



[illegible]

بٹن دباؤ اور تصویر لو

نہایت صاف اور چمکدار فوٹو کھینچنے والا بڑھیا کیمرہ

ایک کیمرہ آپ ضرور منگائیے

ہم نے یہ فوٹو کیمرہ سپیشل آرڈر دے کر اعلیٰ درجہ کا تیار کروایا ہے جو صاحب کیمرہ کا بٹن دبانا بھی نہیں جانتے وہ بھی بے حد دلچسپ نظارے اتار کے اپنی شہرت اور قسمت چمکا سکتے ہیں۔ اس سے چلتے پھرتے مرد عورت بچے۔ دوڑتی ریل۔ اڑتے جانور۔ گھوڑ دوڑ۔ باغ باغیچے۔ ہر قسم کے سین سینریاں۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندری نظارے۔ بڑی بڑی عمارات وغیرہ کی عمدہ اور صاف تصویریں نہایت آسانی سے ایک آن واحد میں اتر آتی ہیں۔ ہمارے اس کیمرہ نے بازار کے تمام کیمرے مات کر دیئے ہیں۔ ہر ایک کیمرہ کے ساتھ چار عدد فلمیں۔ ایک درجن چھاپنے کے اعلیٰ درجہ کے کاغذ۔ بڑھیا لینز دھونے کے مصالحہ جات اور ترکیب کی آسان کتاب اردو میں چھپی ہوئی مفت دی جاتی ہے۔ قیمت صرف دو روپیہ آٹھ آنہ بڑھیا قسم تین روپیہ چار آنہ ہے۔ محصولڈاک معاف۔ صرف پیکنگ و ٹیکس منی آرڈر خریدار کے ذمہ ہے۔ جلد منگا لیجئے۔

یارنگ



نرالی ڈیزائن نئی چال یارنگ کے اصل کو شرمانے والے چمکدار نگینوں سے آراستہ اعلیٰ کیمیکل گولڈ کے خوبصورت پائدار [illegible] جسن کی بہار لوٹتے ہیں پہنا کر [illegible] فی جوڑہ ۱۲؍

تھیٹر سوانگ تماشے اور بہروپ کیلئے بڑھیا بال

ہم سے اچھے بال اور کہیں نہ ملیں گے آزمائش شرط ہے محصولڈاک الگ

زنانہ بال

یہ بال مانند اصلی کے تھیٹر میں لڑکے لگا کر عورتیں معلوم ہونے لگتے ہیں سیاہ بال ۱۴؍ سفید بال [illegible] لال بال [illegible]

لمبی داڑھی

ایسے لگانے سے شکل بالکل بدل جاتی ہے اصل نقل میں تمیز نہیں ہوتا بڑھیا سیاہ داڑھی [illegible] لال یا سفید ۱۲؍ داڑھی فرنچ کٹ عمدہ سیاہ قیمت ۱۲؍

شہزادی کے بال

یہ خوبصورت [illegible] بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں شہزادی کے روپ میں کام آتے ہیں [illegible] بڑھیا [illegible]

چوٹی



یہ زنانہ چوٹی سوانگوں میں بہت کام آتی ہے سیاہ گندھی ہوئی [illegible] کھلی ہوئی [illegible] سرخ رنگ کی [illegible]

داڑھی گول

مانند اصل کے خوبصورت سیاہ قیمت ۱۸؍ سرخ یا سفید ۱۲؍ پنجابی سکھی داڑھی و مونچھ [illegible] عمدہ سیاہ ۱۲؍

قشقہ جٹا

مانند اصلی کے [illegible] سیاہ [illegible] لال یا سفید [illegible] شیو جی کی [illegible] جٹا لال یا سفید [illegible]

ہر دوا لے

یہ پٹے خوشنما و جوان کے پارٹ میں کام آتے ہیں قیمت سیاہ [illegible] بابری خوشنما جو شہزادے کے پارٹ میں بڑا لطف دیتی ہے۔ قیمت [illegible]

مونچھیں



یہ مانند اصلی کے ہیں جو سوانگ تماشے میں بہت کام آتی ہیں نمبر ۱ [illegible] نمبر ۲ [illegible] نمبر ۳ [illegible] قیمت ۹؍

زنجیر

گلے میں پہننے کے لئے بہت [illegible] قیمت [illegible]

چمپاکلی

اسکی کلیاں اور جگمگ کرتے نگینوں سے آراستہ ہیں گلے میں پہنتی ہیں قیمت صرف [illegible] روپیہ آٹھ آنہ

جڑاؤ رانی ہار



پہناتے ہی حسن ناچنے لگتا ہے۔ نفاست قابل دید چمکتے سونے کا ملمع کیا ہوا رنگ برنگے آبدار نگینوں سے آراستہ۔ چار سو روپے کے ہار سے بڑھ چڑھ کر [illegible] قیمت [illegible]

سنہرے جڑاؤ کرنپھول جھمکے

سنہرے کرنپھول جھمکے مانند سونے کے ہیں [illegible] بیبیاں [illegible] اپنے کان میں پہنتی ہیں فی جوڑہ [illegible]

اعلیٰ درجہ کا سنہرا جڑاؤ گلوبند



[illegible] عورتوں کے گورے گورے گلے میں بڑا لطف دیتا ہے مانند سونے کے [illegible] قیمت بڑھیا [illegible]

کشیدہ کشی کی اصلی مشین

شریف بیگمات اور عزیز لڑکیوں کو کشیدہ کا کام سکھانے چست و سلیقہ مند بنانے کا عجیب تحفہ ہے۔ اسکے ذریعہ ہر قسم کے خوبصورت بیل بوٹے دار کشیدہ کاری ہے سوتی و اونی ریشمی تکیے غلاف رومال۔ میز پوش۔ ٹوپیاں۔ تکیوں کی جھالر وغیرہ پر گلکاری کا کام ترکیب کی کتاب پڑھنے سے سیکھا جاتا ہے۔ کتاب ترکیب ہندی اردو انگریزی جو ہر ایک مشین کے ساتھ ملے گی۔ قیمت اعلیٰ [illegible] محصولڈاک معاف

وکیل بیرسٹر ڈاکٹر وغیرہ

کے استعمال کے قابل مضبوط اور دیرپا خودبخود سیاہی بھرنے والے فینسی فونٹین پن۔ زیادہ تعریف فضول ہے۔ سونے کا نب والے [illegible] دوسرے اعلیٰ درجہ کے [illegible] ۱۲؍

پاکٹ غلیل

[illegible] قیمت ۱۴؍ محصولڈاک [illegible]

اعلیٰ درجہ کی اصلی دوربین



بڑھیا لینز والی [illegible] سینما ہوائی جہاز اور قدرتی نظارے دیکھنے کے لئے بہت کارآمد ہے قیمت [illegible] محصول [illegible]

ریشم کی طلسمی چھیلا



[illegible] کی تندرستی کی بہتری محافظ اور [illegible] زندگی کے حاصل کرنے کا ذریعہ [illegible] بیماری سے بچاتا ہے قیمت [illegible]

نر ہے یا مادہ



اسکے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا ہے یا لڑکی۔ قیمت [illegible] محصولڈاک صرف [illegible]

ہر قسم کا پتہ۔ مینیجر دی امپیریل جنرل سپلائی سٹور۔ پارسن روڈ (۳۶ جی رام گلی) لاہور (پنجاب)

5000 پانچ ہزار اصلی گھڑیاں ولایت کے نرخ پر مُفت برابر

ایک گھڑی کے خریدار کو سالانہ مفت

جو صاحب ان گھڑیوں کو برت چکے ہیں ان کی خوبیوں کی وجہ سے کبھی دوسری گھڑی کا نام نہیں لیتے اور اپنے دوستوں کو بھی ہم سے یہی گھڑیاں منگوا کر دیتے ہیں۔ اور دیکھنے و آزمائش کرنے کے بعد مفت برابر قیمت دیکھ کر نہایت تعجب کرتے ہیں۔ ہم پہلے یہ گھڑیاں صرف سینکڑوں کی تعداد میں منگوایا کرتے تھے مگر ان کی زیادہ بڑھی ہوئی مانگ نے مجبور کر دیا ہے کہ بھاری تعداد میں منگوا کر لاگت کے داموں فروخت کی جاویں تاکہ خریدار صاحبان کو سستی پڑیں اور ان کی بکری بھی زیادہ ہو اس لئے ہم نے اس بار یہ گھڑیاں پہلے سے بہت بڑھیا میٹریل لگوا کر اپنے سپیشل آرڈر سے پانچ ہزار کی تعداد میں منگوائی ہیں

اتنی تعداد منگوانے سے کارخانہ کے مالک نے ہم کو خاص کمیشن دیا ہے اور اس کمیشن کو ہم نے اپنا منافع سمجھ کر زیادہ بکری اور کم منافع کے اصول کو مد نظر رکھ کر صرف لاگت ہی کے داموں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گویا اسوقت یہ قیمتی گھڑیاں آپ کو ولایت کے نرخ پر مفت برابر مل رہی ہیں۔ اس لئے آپ بلا کسی سوچ بچار کے ان گھڑیوں کو منگوا لیں۔ کیونکہ آپ کے لئے یہ سنہری موقع ہے۔ ان گھڑیوں کی چند خوبیاں درج ذیل ہیں ملاحظہ فرماویں۔ اس مشہور اور شہرۂ آفاق گھڑی کی مشین لیور ہے۔ جو تمام دیگر گھڑیوں کی مشینوں سے عمدہ ہے۔ اور دیکھنے میں پچیس روپیہ کی گھڑی کا مقابلہ کرتی ہے۔ مضبوط ایسی کہ دادا خریدے اور پوتا برتے۔ اسکے نمبروں اور سوئیوں پر اعلیٰ درجہ کا ریڈیم لگا ہوا ہے جس سے گھپ اندھیری رات میں بھی بجلی کی طرح چمک کر دن کی طرح وقت بتاتی ہے۔ اسکا کیس پختہ نکل سلور کا ہے جو نہایت مضبوط اور کبھی نہ گھسنے اور نہ ٹوٹنے والا ہے۔ وقت کا بالکل صحیح ہے۔ اسکا جنٹلمین سائز بھی عام پسند ہے۔ خاص کر فوجی افسر۔ محکمہ تار اور ڈاک اور دیگر دفتروں کے بابو۔ سکول ماسٹر و دیگر سب چھوٹے بڑے عہدہ داروں کے لئے یہی ایک دلفریب گھڑی تحفہ ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسکی اتنی کم قیمت ہوتے ہوئے بھی اسمیں سیکنڈ کی سوئی موجود ہے۔ پائیدار ایسی کہ اچانک گرنے پر کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی قیمت سفید ڈائل والی کی صرف چار روپے آٹھ آنے Rs 4/8/- اور سیاہ ڈائل والی کی صرف چار روپیہ بارہ آنہ Rs 4/12/- رکھی گئی ہے جو کہ اتنی خوبیوں والی گھڑی کے لئے کچھ بھی نہیں۔ دونوں میں سے جو درکار ہو منگا لیں۔ نوٹ (۱) ہر ایک گھڑی کے ہمراہ ۸ سال کی گارنٹی کا پرچہ اور فینسی بکس مفت روانہ ہوگا (۲) محصولڈاک وغیرہ ذمہ خریدار

دیکھئے ہماری پانتداری کی نسبت خریدار کیا کہتے ہیں۔

(۱) جناب بسم اللہ صاحب ضلع امرتسر سے تحریر فرماتے ہیں کہ بیچک نمبری ۱۸۹۸ کے مطابق چیزیں دیکھ کر دل کو خوشی حاصل ہوئی۔ آپ کے مخلص ایماندار ہونے کی وجہ سے میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے پھر ایک ویسٹ اینڈ کمپنی کی قیمتی گھڑی منگاؤں۔ (۲) جناب خدا بخش صاحب کشمیر سے تحریر کرتے ہیں کہ "آپ کے کارخانہ کو خداوند کریم ہمیشہ آباد رکھے۔ کیونکہ جو چیزیں منگائی تھیں سب درست ہیں۔ (۳) انہیں صاحب کا دوسرا خط آپ کی دیانتداری کے باعث میں سات سال سے آپ کا گاہک ہوں۔ خداوند کریم آپ کے کارخانہ کو دن بدن ترقی پر رکھے (۴) جناب عثمان خاں صاحب ضلع مراد آباد سے تحریر فرماتے ہیں کہ ریسٹ واچ منگائی تھی۔ عمدگی کے لئے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک اور گھڑی کی مرحمت فرمائیے۔ (۵) مسٹر منو لعل جی نے اپنے جہلم سے انگریزی میں تحریر کیا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی ریڈیم ریسٹ واچ بہت عمدہ نکلی جسکا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ التجا ہے کہ ایک اور روانہ کیجئے۔ یہی نہیں بلکہ بے شمار سرٹیفکیٹ موجود ہیں جو بوجہ عدم گنجائش درج نہیں ہو سکے۔ سچائی کے لئے اتنے ہی کافی ہیں۔

منگوانے کا پتہ:۔ مینیجر ٹی۔ این۔ انڈیا اینڈ کمپنی ہول سیل واچ ڈیلرز (۳۶ جی) پارسن روڈ۔ لاہور (پنجاب)

لوہے کی لاٹھ یا سنیاسی کرامات عُرف ورسلین

اٹھ نادان لوگوں کی باتیں نہ سن یہ ورسلین استعمال کر تیری تمام بیماریوں

یہ سنیاسی کرامات یا سنیاسی کا نچوڑ جادو اثر دوائی حلق سے اترتے ہی طاقت مردی کا زبردست طوفان پیدا کر دیتی ہے۔ مردہ جسم میں نئی روح ڈال کر شیر مرد قوی ہیکل اور لوہے کی لاٹھ بنا دیتی ہے۔ بچپن کی بد پرہیزی اور ناتجربہ کاری سے جو لوگ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کر چکے ہوں انکے لئے یہ دوائی آبحیات اکسیر اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ اسکے استعمال سے پیدائشی نامردی کو چھوڑ کر ہر قسم کی نامردی۔ سستی۔ جریان۔ احتلام وغیرہ تمام بیماریاں دور ہو کر وہ سب خواہشات پوری ہوتی ہیں جو ایک جوان مرد میں ہونی لازمی ہیں۔ اور ان بیماریوں سے پیدا شدہ تکلیفات مثلاً نقصان اور طبیعت پژمردہ رہنا۔ بیماری سے جو صدا بیٹھنا اور اداسی اور مایوسی نے ڈیرہ ڈالے رکھنا۔ چہرہ زرد مرجھا کر بے رونق ہو جانا اور سر درد۔ گرد ہوتے رہنا۔ دل کی دھڑکن کمزوری دماغ۔ آنکھوں کا اندر دھنس جانا۔ اور بینائی کم ہو جانا۔ جگر کی خرابی سے غذا کا ہضم نہ ہونا۔ پیشاب در دار و پیشاب کم زیادہ یا قطرہ قطرہ آنا۔ گردوں میں تکلیف محسوس ہونا۔ بدن پتھر کی طرح بھاری رہنا۔ یا تمام بدن پیلا ہو کر سوکھنے لگنا اور ...... ٹیڑھا ہو کر تمام رگیں سبز رنگ کی نمودار ہونے لگنا۔ اور کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو جانا۔ تھوڑا چلنے سے تھک جانا اور چلنے پھرنے یا کسی سے بات کرنے سے جی چرانا۔ بدن ہر وقت ڈھیلے رہنا وغیرہ سینکڑوں امراض دور ہو کر خون صالح پیدا ہوتا ہے۔ چہرہ مانند پھول گلاب اور کندن کی طرح چمک کر پر رونق ہو جاتا ہے۔ دل میں سرور آنکھوں میں نور برستا لگتا ہے۔ بدن چست و چالاک و پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ ثقیل اور سخت سے سخت اشیاء غذا ہضم ہو کر طاقت بخشتی ہیں۔ جو لوگ شرم کے مارے اپنی حالت کسی پر ظاہر نہ کرتے ہوں اور عورت کو منہ دکھانے کے بالکل ناقابل ہوں وہ ضرور ہی اس دوائی کو منگوا کر استعمال کریں۔ کیونکہ اسکے استعمال سے ایسا ہر ایک مریض شریفانہ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو کر اولاد نرینہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہر عمر اور مذہب کے لئے یہ دوائی مفید ہے۔ اسمیں خلاف مذہب اور ایمان کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی اور نہ کسی کشتہ کی آمیزش ہے بلکہ جنگل کی جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ سردی گرمی اور برسات ہر موسم میں استعمال ہو سکتی ہے اور کسی قسم کے خاص پرہیز کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے ان امراض کی ادویات استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہیں تو ہماری یہ آخری دوائی بھی استعمال کریں۔ خدا کے فضل سے ضرور فائدہ ہوگا۔ قیمت اس دوائی کی برائے نام صرف دو روپیہ چار آنہ Rs 2/4/- معہ محصولڈاک ہے۔ اگر عورتوں کو بھی ایسی بیماریوں کی شکایت ہو تو ان کو بھی یہ دوائی ضرور استعمال کراویں۔ انکی تمام تکالیف دور ہو کر طاقتور اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔

منگوانے کا پتہ ورسلین ڈپو۔ برانڈرتھ روڈ۔ لاہور (پنجاب)

ملذذ صلار قیمت عہ نمونہ ۳ر کے ٹکٹ بھیجکر منگواؤ

اگر آپ کو اپنی پیاری بیوی سے محبت ہے تو زیادہ اولاد کے بوجھ سے اسکی صحت کو برباد نہ کریں

اس کساد بازاری کے زمانہ میں زیادہ اولاد ناقابل برداشت بوجھ ہے

برتھ کنٹرول یعنی اختیاری اولاد

ایک دو یا تین سال یا ہمیشہ کیلئے اولاد پیدا نہ کرنیکی خواہش ہو تو مشہور دوائی

نومور

کا استعمال کریں۔ اس دوائی نے اٹھانوے فیصدی کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی لئے ناکامیابی کی صورت میں قیمت واپس کرنے کی گارنٹی ہے۔ ایک سال کی رکاوٹ کے لئے صرف تین دن دوائی کھلانی پڑتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں یا بیمار عورتیں بھی اس دوائی کو استعمال کرسکتی ہیں سسٹم میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی نقصان ہوتا ہے۔ قیمت ایک سال کے لئے ایک روپیہ پانچ سال کے لئے تین روپیہ اور ہمیشہ کے لئے پانچ روپیہ علاوہ محصولڈاک

اس دوائی کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے ہر بڑے شہر میں ایجنسیاں قائم ہو چکی ہیں۔

اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو

یا ہو کر مر جاتی ہو۔ تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا ایشورا اور واہگورو کا نام لیکر آج ہی ہماری دوائی کا استعمال شروع کردیں۔ آپ کی مراد بر آئے گی۔ ہزاروں ویرانے گھر اس دوائی کے استعمال سے آباد ہوگئے۔ قیمت مکمل کورس تین روپیہ آٹھ آنہ محصولڈاک علاوہ۔

لڑکا ضرور پیدا ہوگا

جن کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور وہ اولاد نرینہ کو ترستے ہیں۔ ان کو فوراً ہی ہماری مندرجہ بالا دوائی منگوا کر استعمال کرنی چاہئے۔ یہ دوائی حمل کے دوسرے یا تیسرے مہینے عورت کو کھلائی جاتی ہے۔ یقیناً لڑکا پیدا ہوگا۔ قیمت فی پیکٹ صرف دو روپے علاوہ محصولڈاک۔

جریان الرحم یعنی لیکوریا کا قطعیہ علاج

اس نامراد مرض سے عورت زندہ درگور ہو جاتی ہے اس کے علاج میں دیری ہرگز نہ کرنی چاہئے سفید پانی کے دھبے کیا ہی کیوں نہ پڑتے ہوں اس دوائی کے استعمال سے رک جاتے ہیں اور تندرست توانا ہو جاتی ہے قیمت فی پیکٹ دو روپے چار آنے علاوہ محصولڈاک

سدا جوانی فارمیسی (سدا جوانی بلڈنگ سدا جوانی سٹریٹ) راوی روڈ لاہور

ان نئی نئی ایجادوں نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے !

(اگر فائدہ مند ثابت نہ ہوں۔ تو دام واپس کر دینے کی گارنٹی)

بال کالا تیل
बाल काला तेल
DR. VYAS'
GREY KILL
دائمی شباب کی مخصوص ایجاد

SOLD
EVERY WHERE

برف جیسے سفید بالوں کو سیاہ کرنے والا

بال کالا کرنیکا تیل

برسوں کی محنت اور تجربہ کے بعد بالوں کو سیاہ کرنیوالا تیل بنانے میں صرف ہم ہی کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری کامیابی کو دیکھکر کئی نقال پیدا ہوگئے ہیں۔ یہ بالکل بے ضرر اور زمانہ حاضرہ کی بالکل نئی ایجاد ہے اس کے استعمال سے بال جڑ سے سیاہ پیدا ہوں گے جس جگہ کے بال سفید ہوں۔ معمولی تیل کی طرح ملکر بالوں پر لگاویں۔ آپ کے دیکھتے دیکھتے بال سیاہ مانند بھونرے کے ہو جائیں گے قیمت باوجود ان خوبیوں کے صرف دو روپے علاوہ محصولڈاک۔

نقالوں سے بچیں

طلائے سیماب یعنی پارہ کا تیل !

مادرزاد نامرد کو بھی مرد کامل بنانے کی طاقت رکھتا ہے

یہ طلا معمولی طریقہ پر طیار نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اسکی تیاری میں مہینے نہیں بلکہ سال لگ جاتے ہیں۔ پارہ کو پہلے جڑی بوٹیوں کی امداد سے کشتہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کشتہ سے کیمیاوی طریقہ پر جوہر اڑایا جاتا ہے اور پھر اس جوہر کا تیل نکالا جاتا ہے اس تیل کی مالش سے مادرزاد نامرد بھی مرد کامل بن جاتا ہے۔ یہ تیل آبلہ یا زخم ہرگز نہیں ڈالتا۔ تیل کی پرکھ یعنی پہچان اس کی چند بوندیں کسی مردہ گوشت کے ٹکڑے پر ڈالیں۔ وہ ٹکڑا اس کی تاثیر سے حرکت کرنے لگ جاویگا۔ بس آپ سمجھ جائیں کہ کس قدر طاقت رکھتا ہے۔ زیادہ تعریف بالغ اخلاق ہے

نوٹ۔ باوجود انتہائی کوشش کے اس قدر بھی بہت کم شیشیاں طیار ہوتی ہیں اس لئے ضرورت مند اصحاب جلد منگوا لیں ورنہ کافی عرصہ انتظار کرنا پڑیگا۔ گرمی سردی کے موسم میں قابل استعمال ہے قیمت فی شیشی [illegible] روپے علاوہ محصول

دمہ کی مجرب دوائی اس نامراد مرض سے [illegible] مریض مستفید ہو کر کارخانہ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ دمہ خواہ پرانا ہو چار روز کے استعمال سے ہی کافور ہو جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کیلئے نزدیک نہیں آتا قیمت مکمل خوراک [illegible] علاوہ محصول

چھلہ بواسیر یہ چھلہ بواسیر اس قدر مقبول ہو چکا ہے کہ اس کی تعریف ہی فضول ہے بغیر دوائی کھلانے ہی بواسیر کو آرام آ جاتا ہے بس اس چھلہ کو پہن لیں اور پھر اس گندی مرض سے ہمیشہ کیلئے چھٹکارا حاصل کریں۔ قیمت فی چھلہ صرف ایک روپیہ علاوہ محصولڈاک۔

پارہ کی گولی یوں تو آپ نے پارہ کی گولی کے بیشمار اشتہار دیکھے ہوں گے مگر ہماری پارہ کی گولی نرالی خاصیت رکھتی ہے اس گولی کو پہلے دودھ میں ابالا جاتا ہے اور پھر اس ابلے ہوئے دودھ کو پیا جاتا ہے۔ روزمرہ لگاتار ایسا دودھ پینے سے جسم میں حیرت انگیز توانائی اور قوت پیدا ہو جاتی ہے اور جریان و احتلام کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو جاتا ہے اور طبیعت میں غضب کا جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ گولی ہے جس کو وقت ضرورت منہ میں رکھا جاتا ہے اس گولی میں دھاگہ پرویا ہوا ہے مفصل ترکیب استعمال کا پرچہ ہمراہ گولی روانہ ہوگا باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف ایک روپیہ علاوہ محصولڈاک اور ایک ہی گولی ہمیشہ کیلئے کام دیتی ہے یہ گولی کبھی گھستی نہیں ہے۔

کارخانہ دیو آشرم سنیاسی جڑی بوٹی پوسٹ بکس ۱۸۲ لاہور

قسمت کا چارٹ نامی کتاب ۲؍ کے ٹکٹ بھیجکر منگواؤ

1000! 1000! 1000

ایک ہزار روپیہ کے ۳۹۲ انعامات کون کون خوش قسمت اصحاب لینگے

ایک انعام ایک سو روپیہ کا	100
دو انعامات پچاس پچاس روپیہ کے	100
چار ,, پچیس پچیس روپیہ کے	100
پانچ ,, بیس بیس ,,	100
دس انعامات دس دس روپیہ کے	100
بیس ,, پانچ پانچ ,,	100
پچاس ,, دو دو ,,	100
تین سو ,, ایک ایک ,,	300
کل رقم ایک ہزار روپیہ	1000

آپکی قسمت میں کیا لکھا ہے؟

لیڈیز اینڈ جنٹلمین! سال بھر کا برش پھل اور آنیوالے حالات جن میں بارہ ماہ کا نفع و نقصان۔ کس تجارت میں فایدہ رہیگا کس ذریعہ سے روپیہ ملیگا۔ روزگار کب ملیگا۔ ملازمت۔ ترقی۔ تبادلہ۔ تنزل۔ عورت و اولاد کا سکھ و دکھ۔ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش۔ تندرستی۔ بیماری۔ دور دراز کا سفر۔ مقدمات و امتحانات میں کامیابی یا ناکامیابی۔ سگائی۔ شادی۔ زمین۔ جائداد۔ کاشتکاری کیسی ہے نیا بیل یا کشتی۔ سٹہ۔ لاٹری یا کسی نامعلوم ذریعہ سے دولت کا ملنا۔ معشوق کی خوش خبری۔ غرضیکہ ہر قسم کے دنیاوی حالات۔ ماہواری برش پھل کے حساب سے **بالکل مفت** بھیجے جاتے ہیں۔ آپ کسی پھول یا پھل کا نام جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہے لکھکر بھیجدیں۔ سال بھر کا برش پھل آپ کو مفت نذر ہوگا۔ مگر **یاد رہے** کہ اسی لفافہ میں **چار آنہ** (۴؍) کے ٹکٹ جو اخراجات اشتہارات اور ڈاک ضروری آنے چاہئیں ورنہ کوئی جواب نہیں دیا جائیگا۔

ہر ایک خریدار کو ایک **انعامی کوپن** ہر ایک برش پھل کے ساتھ مفت بھیجا جائیگا جس کی رو سے وہ مندرجہ بالا انعامات میں حصہ لے سکیں گے۔ انعامات کا نتیجہ اگلے سال کی جنتری میں شائع کیا جائیگا۔ یا اگر آپ پیشتر منگوانا چاہیں۔ تو ایک آنہ کا ٹکٹ بھیجکر منگوا لیں۔ انعامات کی رقم خوش قسمت اصحاب کو ۳۱۔ اگست ۱۹۳۶ء کو تقسیم کی جائے گی۔

تعویذ سکندری اگر آپ ہر کام میں فتحیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو۔ تو ہمارا تعویذ سکندری منگوائیں آپ اس کی تاثیر سے حیران ہو جائیں گے۔ قیمت فی تعویذ دو روپیہ آٹھ آنہ (۲؍۸)

مُردہ رُوحوں سے ملاقات

اپنے عزیزوں سے بات چیت کرو جو آپ سے اس دنیا میں بچھڑ چکے ہیں۔ نیا امریکن طرز کا آلہ ارواح جس کے ذریعہ گمشدہ کا پتہ لگانا۔ سربمہر لفافوں کی عبارت کو جان لینا۔ لاعلاج امراض کے نسخہ جات معلوم کر لینا۔ لاٹری یا سٹہ کا نمبر دریافت کر لینا۔ دفینہ کا حال معلوم کر لینا۔ حاکم یا معشوق کو زیر کر لینا اس آلہ میڈیا ڈی اسپرٹش MEDIA DE SPIRITSE کا ادنٰی کرشمہ ہے۔ قیمت رعایتی دو روپے (۲؍) محصولڈاک ۸؍۔ دوسرے جہان کی اسیر نامی کتاب آلہ کے ہمراہ مفت بھیجی جائیگی۔

انگشتری سلیمانی اس مرزم کی انگوٹھی کے ذریعہ خفیہ رازوں کا پردہ اٹھ جاتا ہے۔ اور نہایت عجیب و غریب روحانی کرشمہ جات نظر آتے ہیں۔ قیمت فی انگوٹھی صرف ایک روپیہ محصولڈاک ۸؍

المشتہر

آئی جی پرنس اینڈ کو پوسٹ بکس ۱۸۲ لاہور

فرنچ لیدر مردانہ قیمت ۸ر فی عدد

آلہ مردمی

جرمنی کی حیرت انگیز ایجاد

اب کوئی شخص نامرد نہیں رہ سکتا خواہ ساٹھ ستر سالہ بڈھا ہی کیوں نہ ہو۔ بغیر کسی قسم کی دوائی لگانے کے چند ہی دنوں میں مرد بلکہ جوانمرد بن جاتا ہے۔ اس آلہ کا موجد ایک جرمن سائنسدان ہے جس کا دعوے ہے کہ کیسا ہی گیا گذرا نامرد کیوں نہ ہو۔ پہلے ہی روز یعنی

JUVINATOR

استعمال کے چند سیکنڈ بعد ہی اپنے اندر طاقت مردمی کا احساس کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ طاقت لحظہ بہ لحظہ بڑھتی جاتی ہے۔ حتی کہ چند دنوں میں مریض اپنے آپ کو ایک قابل فخر مرد کامل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں یہ عجوبہ روزگار آلہ لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکا ہے۔ اور فی زمانہ نامردی کا بہترین علاج تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اگر اب بھی آپ یا آپکا کوئی دوست رشتہ دار نامرد رہے۔ تو اس کی بدقسمتی میں کوئی شک نہیں ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف

پندرہ روپے (۱۵)



مگر آپ اس آلہ کو نصف قیمت پر بھی حاصل کر سکتے ہیں

زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے استعمال کے بعد مریض کو اس آلہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ اس کے استعمال سے طاقت کا بے انتہا اور نہ ختم ہونے والا خزانہ ہاتھ آجاتا ہے۔ اس لئے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد (زیادہ سے زیادہ تین ماہ کے اندر) یہ آلہ ہم کو واپس کر دیں۔ ہم آپ کو اس کی نصف قیمت یعنی ساڑھے سات روپے ([illegible]) بذریعہ منی آرڈر ارسال کر دیں گے۔ گویا ساڑھے سات روپیہ میں آپ نامرد سے مرد کامل بن گئے۔ اس رعایت کا جلد فائدہ اٹھائیں۔

آلہ مانع احتلام

مرض احتلام نامردی کا پیش خیمہ ہے۔ اس مرض کا جتنی جلدی قلع قمع کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ورنہ جڑ پکڑنے کے بعد یہ خوفناک مرض نامردی کی خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ دوائی کا استعمال بعض طبیعتوں کو موافق نہیں ہوتا مگر آلہ کا استعمال پہلے ہی روز احتلام کو ناممکن بنا دے گا۔ اور پھر یہ مرض جڑ و بنیاد سے اکھڑ جائیگا۔ اور پھر پیدا نہ ہوگا۔ یہ بھی جرمنی کی بےنظیر ایجاد ہے۔ قیمت فی آلہ جرمنی دو روپے ([illegible]) یعنی ایک روپیہ ([illegible]) علاوہ محصولڈاک۔

جنرل منیجر آئی جی پرنس اینڈ کو پوسٹ بکس ۱۸۳ لاہور

[illegible] خوشخبری

حیرت انگیز رعایت

صرف تین روپے میں امریکن بڑھیا فوٹو مینڈ کیمرہ اور ولایتی سات فینسی گھڑیاں

امریکن کوڈک کمپنی کا اصلی کیمرہ — امریکن کوڈک کمپنی کا اصلی کیمرہ

اگر مکمل تصویر نہ اتارے۔ تو دوگنی قیمت معہ محصولڈاک واپس لیجئے

اس سنہری موقع کو ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دینا چاہیئے۔ کیونکہ ولایت میں روپیہ کی قلت اور مارکیٹ کے ڈاؤن ہو جانے کی وجہ سے ہم کو سستے داموں پر مال مل گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت مضبوط قیمتی اور اسٹیل کے فیشن کے مطابق ہے۔ اس کے ذریعے مرد عورت۔ جانور۔ ریل۔ فوجی جہاز۔ دریا۔ پہاڑ۔ سمندر کے نظارے اور بڑی بڑی عمارتوں کے عمدہ نہایت صاف تصویر ایک آن کی آن میں بڑی صفائی کے ساتھ اتاری جا سکتی ہے۔ دیگر ہر قسم کے مکمل فوٹو باآسانی اتر سکتے ہیں۔ اس کے ہمراہ سات عدد فینسی بیوٹ رسٹ واچیں ہونگی۔ یہ گھڑیاں چمکدار مضبوط اور معہ سلک بینڈ فینسی ہیں۔ اگر ہمارے اشتہار کے مطابق امریکن کیمرہ اور فینسی بیوٹ گھڑیاں غلط ثابت ہوں۔ تو دوگنی قیمت واپس منگوالیں۔ جلد آرڈر دیکر مشکور فرمائیں۔ کیونکہ یہ قیمت تو صرف کیمرہ ہی کی ہے۔

خاص نوٹ:۔ دیگر کیمروں اور گھڑیوں کے اشتہاروں سے بچو۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ نہ ملیگا۔ منگوا کر آزمائش کیجیے! اور آئندہ کیلئے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے پیکنگ اور محصولڈاک ایک روپیہ علاوہ ہوگا۔ نیز گھڑیوں کیمروں میں دوسروں سے مقابلتاً رعایت کی جاتی ہے آرڈر دیکر آزمائش کریں۔

بجلی کی عینک (نئی ایجاد) یہ جرمن سائنس کی نئی ایجاد ہے۔ لیمپ کی ضرورت نہ کسی لالٹین کی رات کو ضرورت کے وقت عینک نکالیں اور آنکھوں پر لگا کر جو کام کرنا چاہیں کریں کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ ہر ایک انسان استعمال کر سکتا ہے کمزور نظر کے لئے مفید ہے۔ جھوٹ یا غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس ملنے سوائے ہمارے دوسری جگہ سے نہ ملیگی۔ قیمت رعایتی فی عینک ۱۲ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا۔ محصولڈاک ۸ علاوہ ہوگا

ملنے کا پتہ:۔ **منیجر جنرل کمرشل ایجنسی ۲۰۱ بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

شہرہان پنڈت کوکا وزیر اعظم ریاست کشمیر کے خفیہ کوک شاستر کا اردو ترجمہ اصلی

تنہائی میں بیٹھکر پڑھنے کے قابل

اصلی شہنشاہی کوک شاستر فوٹو بلاک باتصویر

یہ سب سے نرالا اصلی پورا ۸۴ چکر ورتی اور مکمل ہے۔ اس میں عورت مرد کی پرشباب چوراسی آسن کے تمام حالات . . . . فوٹو بلاک و رنگین تصویریں لطف شباب حاصل کرنے کے طریقے۔ پنڈت کوکا کے ایسے خفیہ راز جن کا تحریر کرنا خلاف تہذیب ہے۔ دیگر اور عجیب وغریب باتیں جو عورتوں اور مردوں کو جاننی ضروری ہیں۔ اور وہ راز جن سے پنڈت کوکا نے تمام خلق کو گرویدہ بنا رکھا تھا۔ درج ہیں۔ یہ وہ کوک شاستر ہے جس کو آپ مدت سے ترس رہے تھے۔ سوائے ہمارے یہ اصلی شہنشاہی کوک شاستر دوسری جگہ نہ ملے گا۔ منگوا کر ملاحظہ فرمائیں۔ جھوٹ یا غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس کسی دوسری جگہ سے کم قیمت ابرہ وغیرہ کوک شاستر منگوا کر دھوکا نہ کھائیں۔ صرف شادی شدہ اصحاب منگوائیں۔ قیمت رعایتی دو روپے جیبی رنگین تصویر دار فی جلد بارہ آنہ محصولڈاک ۸ علاوہ خط و کتابت کو

ملنے کا پتہ:۔ **تلک راج منتری بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

غلط ثابت کرنیوالے کو یکصد روپیہ انعام

پارہ کی گولی

عاشق مزاج اصحاب کے لئے نایاب تحفہ ہے جس سے عورت خواہ وہ کیسی ہی پتھر دل مغرور اور سخت کلام کیوں نہ ہو ہمیشہ کے لئے تابعدار ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ ہونگے آپ سے ملنے کے لئے تڑپے گی جب بھی آپ اس کے سامنے جائینگے۔ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریگی اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش کریگی۔ جب آپ نے دودھ پینا ہو۔ اتنا خوب گرم دودھ لیں۔ اور حسب منشاء میٹھا ڈال لیں۔ پھر اس میں تقریباً پندرہ منٹ تک پارہ کی گولی رکھ چھوڑیں۔ بعد میں گولی نکالکر ضرورت سے دو گھنٹہ پہلے یہ دودھ پی لیں . . . . پھر آپ پانی جوش تک لطف اٹھا سکیں گے۔ ایک گولی چالیس روز کے استعمال کیلئے کافی ہے ضرورت پر ہم سے پھر منگوا سکتے ہیں۔ نیز یہ گولی جریان۔ احتلام۔ رقت وغیرہ کیلئے از حد مفید ہے۔ نام خط و کتابت پوشیدہ رکھی جاتی ہے قیمت رعایتی صرف دو روپے مکمل معہ پرچہ ترکیب ہمراہ گولی ارسال کیا جاویگا۔ محصولڈاک علاوہ ہوگا۔

شیر کی چربی کا طلا یہ طلا ہر قسم کی نامردی سستی۔ کمزوری کیلئے ازحد مفید ہے۔ یہ امراض خواہ بچپن یا کثرت مباشرت سے پیدا ہوں اگر یہ طلا [illegible] لاغری۔ ٹیڑھا پن وغیرہ کو دور کرکے اپنی اصلی حالت پہلے آ جاتا ہے۔ بیرونی استعمال کیلئے اس سے بہتر کوئی طلا نہیں تجربہ کیجئے [illegible] ہوگا قیمت [illegible]

ملنے کا پتہ:۔ **منیجر دار الشفاء گولیاں ۱۹ بٹالہ ضلع گورداسپور پنجاب**

رعایتی اعلان

اصلی قیمت ۵ روپیہ
رعایتی قیمت صرف ۱؎

جو چاہو گے ہو جائے گا!

عمل محبت کے شائقین جو سب طرف سے مایوس ہو چکے ہوں۔ آخری مرتبہ ہمارا شاہی جنتر گو سبر مراد منگا کر اپنے دل کی مراد کو حاصل کریں اسکو اپنے پاس رکھکر آپ اپنے دل میں جس کسی کا نام لیں گے۔ خواہ وہ کیسا ہی سنگدل کیوں نہ ہو جہاں کہیں بھی ہوگا۔ آپ سے ملنے کے لئے تڑپنے لگے گا اور جب بھی آپ اسکے سامنے جائینگے وہ آپ سے آپ محبت کا اظہار کریگا اور ہر وقت آپکے ساتھ رہنے کی خواہش کریگا ہر حاکم یا مالک کو اپنا بنانا اور دشمن کو زیر کرنا گمشدہ کی تلاش کرنا کسی کے دل کا بھید معلوم کرنا کسی چور کا پتہ لگانا۔ مردہ دل سے بات چیت کرنا غرض کہ آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو کہ باوجود کئی ہزار کوششوں کے بھی پوری نہیں ہوئی تو وہ بھی ہمارے جنتر کے پاس رکھنے سے گنتی کے دنوں میں پوری ہو جائیگی معاوضہ صرف ۵ ؍ ۱ علاوہ محصولڈاک نوٹ: غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔

ملنے کا پتہ: منیجر جرمن کمرشل ایجنسی (۱۴۱) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور۔ پنجاب

اصلی کوک آسن والا شاستر رنگین ۸۴ (رجسٹرڈ)

عورت مرد کی چوراسی آسن کی جوڑ دار پوشیدہ رنگین تصویریں اور چوراسی آسن کا تمام اصلی حالات درج ہے غلط ثابت ہو تو دام واپس ۸۴ تصویر دار رنگین۔ اصل قیمت ۲ روپیہ۔ رعایتی چودہ آنہ ۱۴ ؍

شیر کی چربی

اگر کمزور آدمی صرف ایک رات میں طاقتور ہو کر آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے شیر کی چربی استعمال کریں غلط ثابت ہو تو قیمت واپس اصلی قیمت ۲ رعایتی قیمت صرف ایک روپیہ۔ جلدی منگوا لیں۔

ملنے کا پتہ: منیجر جاپان نادری سٹور (۸۱) مقام پٹھان کوٹ گورداسپور پنجاب

مریضانِ سرعت انزال و شوقین مزاج اصحاب کیواسطے نادر تحفے

جو بوجہ اپنی خوبیوں و عمدگی کے گورنمنٹ آف انڈیا سے بمعہ مضمون اشتہار رجسٹرڈ ہیں!

امساک کی گولیاں

یہ گولیاں امساک کیواسطے لاجواب اور بالکل بے ضرر ہونیکے علاوہ مریضان سرعت انزال کو شرمندگی سے بچانے کا عجیب و غریب ایجاد اور تحفہ قلب محبوب کا لاثانی وسیلہ ہیں۔ یہ گولیاں کامنی مد بھنجن گولیوں کے نام سے صرف ہندوستان ہی تک نہیں تمام دنیا میں اسقدر مشہور و مقبول ہو چکی ہیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہوتی ہیں۔ وقت ضرورت یعنی خلوت سے ایک گھنٹہ پہلے صرف ایک گولی کھا کر آپ گھنٹوں لطف زندگی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ گولیاں اس قدر بہترین امساک پیدا کرتی ہیں کہ جب تک قدرے ترشی یعنی کھٹائی نہ کھائی جاوے۔ امساک برابر قائم رہتا ہے اور فراغت نہیں ہوتی۔ قیمت ۱۲ گولی دو روپیہ (عہ) ۲۵ گولیاں چار روپیہ (للعہ)

طلائے ملذذ

وقت ضرورت سے پہلے اس طلاء کی چند بوند مالش کرلینے سے طرفین کو اس قدر لطف حاصل ہوتا ہے کہ دونوں پر ایک پُرکیف بیخودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ امساک کی گولیوں کے ساتھ اس طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے۔ قیمت شیشی خورد ایک روپیہ چار آنہ (عہ) قیمت شیشی کلاں صرف دو روپیہ (عہ)
فہرست ادویات اوشدھالیہ بالکل مفت۔

کماری

کماری عورتوں کیواسطے لاجواب تحفہ ہے اس دوا کا پہلی ہی مرتبہ کا استعمال بوڑھی سے بوڑھی عورت کی جسمانی حالت کو تبدیل کر کے یعنی کنواری لڑکی کی طرح کر دیتا ہے۔ شائقین کیلئے لاثانی تحفہ ہے قیمت پیکٹ خورد ایک روپیہ آٹھ آنہ (عہ) پیکٹ کلاں تین روپیہ (سے) محصولڈاک علاوہ ہر چیز کا بذمہ خریدار ہوگا۔

منگانے کا پتہ: منیجر شری شنکر آنند اوشدھالیہ (مشہور پرانی) پوسٹ بکس ۱۱۶ دہلی

POST BOX No. 116
DELHI.

تین بے نظیر تحفے

عورتوں کے دو دو فٹ
لمبے بال کرنے والی
زورا بیوٹی رجسٹرڈ

بال گرنے سے روکتی ہے۔ سکری اور گنج کیلئے مفید ہے۔ سخت بالوں کو ملائم اور چمکیلے کرتی ہے۔ خاصکر پنجاب کی عورتوں کیلئے ایک تحفہ ہے۔ نہایت خوشبودار ہونیکے علاوہ بالوں کو ہمیشہ سیاہ رکھتی ہے۔ لگانے سے اگر دو دو فٹ لمبے بال نہ ہوں تو دام واپس۔ قیمت فی بوتل عہ علاوہ محصولڈاک

طلسمی الائچی رجسٹرڈ

شوقین مزاج دوستوں کیلئے نہایت عجیب تحفہ ہے۔ وقت ضرورت سے ایک گھنٹہ پیشتر صرف دو الائچی پان میں کھائیں اور جوانی کا لطف اٹھائیں۔ ممسک بے خطا ہے۔
قیمت :- عہ فی پیکٹ علاوہ محصولڈاک ۶ر

صرف ایک ہفتہ میں پکے رنگ سے بال رنگتا ہے
کالے کرنیکا تیل
بال کالے کرنیکا تیل
نیور گرے رجسٹرڈ
NEVER GRET
کمار صاحب کی نئی ایجاد

یوں تو بھولی بھالی پبلک کو دھوکہ دینے کیلئے کئی بال کالے کرنیکے تیل تیار ہوئے ہیں۔ کوئی چھ شیشیاں استعمال کرنیکو کہتا ہے اور کوئی چار پانچ۔ دوستو مفت میں روپیہ برباد نہ کرو۔ ہندوستانی جڑی بوٹیوں کا کچھ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو تو کمار صاحب کے نیور گرے کی صرف ایک شیشی استعمال کرو۔ چار پانچ کی چنداں ضرورت نہیں۔ خوبی یہ ہے کہ نہ داغ دیگا نہ جلن پیدا کریگا۔ بیشک خضاب کی شیشیاں توڑ دو۔ جو بھائی آگے نقلی تیل استعمال کر چکے ہیں۔ وہ ضرور اس کی ایک شیشی استعمال کریں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو دام واپس۔ قیمت دو روپیہ فی بوتل علاوہ محصولڈاک ۸ر نصف شیشی ایک روپیہ محصولڈاک

نوٹ :- قیمت جلد بڑھا دیجائیگی۔ کتاب ہر زندگی مفت منگائیں۔

پتہ :- جنرل مینیجر سمت اینڈ کو بازار وچھووالی۔ لاہور

آپ ہر قسم کی کھانسی سے نجات حاصل کیجئے

گنیش کف بام جو گورنمنٹ انڈیا سے رجسٹری ہو چکا ہے۔ آپ کی خدمت کیلئے موجود ہے۔ نئی و پرانی کھانسی خشک بلغمی۔ نزلہ۔ زکام۔ دمہ کے لئے نہایت مجرب دوائی ہے۔ ہزارہا اور ملت کے آدمی اسے استعمال کرتے ہیں پچ صدی سے پرچلت ہے۔ آج ہی ایک شیشی خرید فرمادیں۔ لیکن بہتر ہوگا۔ کہ محصول ڈاک کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک سے زیادہ شیشی کا آرڈر بھیجیں۔ قریباً ہر ایک دوائی فروش سے مل سکتی ہے آپ براہ راست آرڈر بھیجکر مندرجہ ذیل پتہ سے طلب کریں۔
قیمت فی شیشی دس آنے (۱۰ر)

علاوہ ازیں سب بیماریوں کی مجرب دوائیاں ہمارے ہاں مل سکتی ہیں اور ہر طرح کی خط و کتابت پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ یہ ادویات بالکل بے خطا اور بے ضرر ہیں۔ پانچ روپے کا آرڈر بھیجنے والے کو ایک شیشی کریم مفت بھیجی جاتی ہے۔ تین روپے کا آرڈر آنے پر منجن دندان کی ایک شیشی مفت ارسال کی جاتی ہے۔

گنیش ٹانک رجسٹرڈ ایک بوتل بارہ اونس۔ قیمت تین روپے دماغی کام کرنے والوں کیلئے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ طلباء وکیل و استاد صاحبان وغیرہ وغیرہ کیلئے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے کے بعد جسقدر محنت کی جائے تھکاوٹ معلوم نہیں ہوتی۔ (۲) ذیابیطس زدیابیطس کی شیشی چار روپیہ۔ فہرست طلب کرنے پر مفت بھیجی جاتی ہے

ملنے کا پتہ :- گنیش داس دوارکا ناتھ مینوفیکچرنگ کیمسٹس دروازہ موچی لاہور

مشہور عالم رجسٹرڈ
چنتاہرن سدھ جنتر

یہ سدھ جنتر ہر ایک مراد کو پورا کرنے والا ہے پس اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو۔ نوکری نہ ملنا۔ روزگار میں نقصان ہو یا مال نہ بکنے۔ امتحان میں کامیابی ہونے۔ شادی نہ ہونے معشوق کے نہ ملنے۔ مقدمہ جیتنے۔ گھوڑدوڑ لاٹری وغیرہ سے اتفاق دھن پر کامیاب ہونے۔ اولاد کے نہ ہونے یا ہو کر مر جانے یا کسی امید کے پورا نہ ہونے وغیرہ کی وجہ سے دکھی ہیں تو ہمارا سدھ جنتر ایک روپیہ دس آنہ خرچ کر منگا کر اپنا منورتھ پورا کریں۔ اگر حسب تحریر ہمارے کامیاب نہ ہوں تو بجرنگ بلی کو شاہد کر کے کہتے ہیں۔ کہ دونے دام واپس کر دینگے۔

ملنے کا پتہ :- پنڈت بچان پرشاد ترپاٹھی ماسٹر مل آچاریہ
ڈاکخانہ کملاپور ضلع سیتاپور
(۴م)

صرف دو روپیہ تین آنہ میں سات گھڑیاں

ایک عدد اصلی جرمن ٹائم پیس دو عدد ٹائے پاکٹ واچ چار عدد ٹائے رسٹ واچ۔

یہ گھڑیاں ہم نے خاص طور پر ولایت سے بڑی بھاری تعداد میں منگوائی ہیں۔ مضبوطی اور پائیداری کے لحاظ سے یہ گھڑیاں اپنی نظیر آپ ہیں۔ اپنی فرم کی سالگرہ کی خوشی میں ہم نے صرف دس ہزار گھڑیاں اس رعایتی قیمت پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مقررہ مقدار کے ختم ہو جانے پر یہی گھڑیاں اس رعایتی قیمت پر فروخت کی جائیں گی اس لئے جلدی کریں۔ ورنہ ایسے نادر موقعہ بار بار ہاتھ نہیں آیا کرتے۔ محصولڈاک وپیکنگ پندرہ ۱۵ آنے الگ۔ ناپسند ہونے پر قیمت واپس

ملنے کا پتہ:۔ مینیجر جاپان ناولٹی سٹور (۸) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب

بال عمر بھر نہ اُگنے کا جوہر

اس کے استعمال سے نرم سے نرم اور نازک سے نازک جگہ کے بال خود بخود جھڑ جاتے ہیں اور پھر کبھی پیدا نہیں ہوتے بلکہ جگہ ریشم کی طرح ملائم نرم اور شفاف ہو جاتی ہے [illegible] دوائی ہے کہ استعمال کرتے ہی بال ہمیشہ کیلئے نیست و نابود ہو جاتے ہیں قیمت صرف ایک روپیہ

کالا تیل رجسٹرڈ

اس بال کالا تیل کے استعمال سے بال ہمیشہ کے لئے کالے ہو جاتے ہیں اور پھر تمام عمر کالے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بے نظیر سنیاسی تحفہ ہے۔ نقالوں کے دھوکے سے بچو قیمت صرف ۲ر علاوہ محصولڈاک تین شیشی تین روپیہ (۳) محصولڈاک معاف غلط ثابت ہونے پر قیمت واپس۔

ملنے کا پتہ:۔ مینیجر جاپان ناولٹی سٹور (۸) مقام پٹھان کوٹ ضلع گورداسپور پنجاب

مہاراج اودگھڑ کی مشہور کتاب | اعجاز ہدی حصہ اول المعروف کلیہ سٹہ | کلید جفر

انسان سب کی نظروں سے پوشیدہ وہ سب کو دیکھے اسے کوئی نہ دیکھے

دنیا میں تین چیزیں عنقا تھیں جانی بعض سٹہ کا نمبر کوئی نہیں بتلا سکتا تھا علم جفر کا مستحصلہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا عمل انسان نظروں سے پوشیدہ وہ سب کو دیکھے اسے کوئی نہ دیکھے کسی کو پتا نہ تھا۔ ان تمام چیزوں کو مہاراج سوامی پرمانند اور گرو [illegible] جاریہ فقیر [illegible] ملک کا گھاٹ [illegible] شہر بنارس سے حاصل کرکے اس کتاب میں دکھا دی ہیں۔ اس کتاب میں [illegible] کے ۲۴ آنے ہوتے ہیں حل کرکے دکھلائے ہیں اور معمولی حساب سے جسے فریب تعلیم تفریق سے کچھ واسطہ نہیں صرف دو دن کا نمبر پھیر اور الٹ پلٹ ہے اور خوبی یہ کہ ایک مہینہ میں ایک دفعہ بھی نہیں چوکتا [illegible] خالی نہیں جاتا۔ ہم حلفاً اور ایماناً خدا کو حاضر کرکے لکھتے ہیں۔ اگر ہمارے لکھے کے موافق ہمارا حساب [illegible] ایک دفعہ بھی چوک جائے یا خالی جائے تو کتاب کی قیمت واپس اور کتاب مفت دی جاوے گی۔ پھر [illegible] لکھ لو [illegible] طرح سے اس کتاب میں جفر کا تاریخی اور اخباری رو سے بیان کر دیا گیا مستحصلہ کی باریکیاں اور بھیدیاں ایسے بیان کی گئی ہیں کہ ایک بچہ بھی سمجھ لے اور فائدہ اٹھائے [illegible] عمل انسان نظروں سے پوشیدہ ہونے کا عمل [illegible] ہمزاد کو صرف تین یوم میں [illegible] کالی دیوی [illegible] کو سدھ کرنا [illegible] دو تین روز کے عملیات [illegible] دیا جو پہلے عاملوں نے پوشیدہ رکھا تھا۔ قیمت کتاب سات روپیہ مگر پہلے نصف قیمت تین روپیہ آٹھ آنہ لیا جاوے گی۔ اگر کتاب سچی ہو تو نصف قیمت [illegible] اس کتاب کا حصہ دوم جام جمشید کلیہ سٹہ قیمت [illegible] رسالہ [illegible] صرف [illegible] قیمت پیشگی آنے پر محصول معاف وی۔ پی منگانے والے صاحب ۸ کے ٹکٹ پہلے روانہ کریں ورنہ تعمیل نہ ہوگی [illegible]

مذاق کا کورس	لکھنوی طلسم حیرت	دُعا [illegible]	فیچر کا روزانہ نمبر	سٹہ لاٹری اور فیوچر نمبر
[illegible] دیوان [illegible]	شہزادہ [illegible] مثنوی [illegible] سال [illegible] قیمت [illegible] آنے کا ٹکٹ [illegible]	[illegible] یوم [illegible] تعویذ [illegible]	روزانہ نمبر پایا جاتا ہے۔ ایک آنا تا [illegible] قیمت ۱۲ رسالہ طبیب روحانی کے خریدار کو مفت کوئی قیمت نہیں لی جاتی ہے۔	رسالہ طبیب روحانی ماہوار رسالہ ہے۔ ماہوار سٹہ کے نمبر نکلتے رہتے ہیں۔ جو صاحب سٹہ کے شوقین ہیں دو روپیہ سالانہ چندہ بھیج کر خریدار بن جاویں اور فائدہ اٹھاویں۔ رسالہ کے خریداروں کو [illegible] کے تعویذ مجرب مفت دئے جاتے ہیں۔ [illegible] ادا کی جاتی ہے

دفتر طبیب روحانی ماہوار رسالہ ڈاکخانہ نانوتہ ضلع سہارنپور

ہمارے ہاں ہر قسم کی کتب مل سکتی ہیں فہرست ار کا ٹکٹ لکھ کر مفت منگاویں

تحفہ خوبصورتی :۔ گورے اور خوبصورت ہونے کی دوا قیمت ۱۲ ر

اسم اعظم کی سلیمانی ہمزادی انگشتری صرف اول ہی روز ہمزاد کی شکل ہاتھ میں بیٹھ کر دیکھ لو قیمت پانچ روپیہ چاندی کی ہوگی

(نوٹ) ہرگز ہرگز بلا پیشگی محصولڈاک آنے بغیر وی پی نہ ہوگا - خط لکھ کر ضائع نہ کریں

لڑکا ہی پیدا ہوگا

(دوائی اولاد نرینہ)

تین ماہ کا حمل مکمل ہونے کے بعد بچے کے الگ الگ اعضاء بننے لگتے ہیں پس حمل کے تین ماہ کے اندر اندر ہماری مشہور جگن والی بہت مشہور و مقبول دوائی پتر شاک حاملہ کو استعمال کرائیں تو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ زیادہ تعریف کرنا مناسب نہیں۔ کیونکہ آپ کو فائدے سے مطلب ہے۔ باتوں سے نہیں۔ قیمت صرف پانچ روپیہ۔ ڈاک خرچ ۵ر

پتہ۔ کویراج ہرنداس بی۔اے۔ لوہاری دروازہ لاہور

پریم فلسفیر کی غلط فہمی!

جب اشتہار پڑھتا ایک گدگدی سی ہوتی کہ منگاؤں پھر کہتا شاید کوئی بازاری کوک شاستر ہوگا کبھی کہتا مجھے اس کتاب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مگر اس دن ایک دوست کی تعریف سن کر منگا ہی لی کویراج صاحب! اصدق دل سے تحریر کرتا ہوں کہ

ہدایت نامہ خاوند

بلا مبالغہ بہترین کتاب ہے جو میرے مطالعہ میں آئی ہر پڑھنے والا اس سے بیحد فائدہ حاصل کریگا۔ محمد اقبال ایم۔اے۔ تاج محل ہوٹل بمبئی

ملنے کا پتہ۔ کویراج ہرنام داس بی۔اے۔ لاہور

قیمت سستا ایڈیشن ۸ر سب کتب فروش بیچتے ہیں

کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ جسم میں پیدا ہوسکتی ہے

بشرطیکہ طاقت کی اکسیر اعظم شہنشاہی گولیاں استعمال کریں

یہ گولیاں نامردی کا واحد اور مکمل علاج ہیں جلق لگانے والوں اور کثرت مباشرت کرنے والوں کیلئے اکسیر اعظم ہیں۔ اعضا کی کمزوری جریان، احتلام اور سرعت انزال کو دور کرنے میں لاثانی ہیں منی کو بکثرت پیدا کرکے شہد کی طرح گاڑھا بناتی ہیں منی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے قوت باہ بیحد بڑھ جاتی ہے [illegible] پیدا ہوکر جسم [illegible] بن جاتا ہے اگر تندرست آدمی بھی ان کا استعمال کریں تو بڑھاپا اور کمزوری نزدیک نہیں آنے پاتا ایک شیشی چالیس گولیاں جو کہ خوبصورت اور مشین سے تیار شدہ ہیں کی قیمت صرف ایک روپیہ (عہ)

برقی طلاء برقی طلاء ان لوگوں کے لیے جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے ہاتھوں اپنا آپ تباہ کر چکے ہیں اور تمام رگ پٹھے سست اور ناکارہ ہوکر اعضا میں کجی اور لاغری کی شکایت پیدا ہو گئی ہے اکسیر اعظم ہے۔ برقی طلاء کو تین روز مالش کرنے سے سست اور ناکارہ رگوں اور پٹھوں کی کمزوری رفع ہوکر پہلے سے بھی زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تندرست اور کڑیل جوان آدمی بھی اسکو استعمال کریں تو بڑھاپا اور کمزوری نزدیک نہیں آئیگا اور طاقت مردی برقرار رہیگی۔ برقی طلاء کے استعمال سے کسی قسم کی جلن نہیں ہوتی اور نہ آبلہ پڑتا ہے طاقت کی گولیوں کے ساتھ برقی طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیتا ہے قیمت فی شیشی صرف ایک روپیہ (عہ)

نوٹ۔ مندرجہ بالا ادویات سے متعلق کئی سرٹیفکیٹ موصول ہو چکے ہیں جنہیں بوجہ تنگی جگہ درج نہیں کر سکتے۔

ملنے کا پتہ۔ مہندرا میڈیکل ہال ۱۳ پی پی ۱۴۸ - لاہور

خفیہ نیا کوک شاستر مفت

ولائتی اصلی پچاس فوٹو کی تصویروں کا مکمل سٹ (گلزار حسن) عاشقانہ حسن وجمال کے صاف صاف.... پوشیدہ نظارے مرد و عورت کے جوڑ دار فوٹو بلاک کی رنگین تصویریں جنکو دیکھ کر آپ تمام بازاری کوک شاستر اور چوراسی آسن کی نئی ہوئی بھدی لکیر دار واہیات تصویروں کو ایکدم بھول جائیں گے یہی وہ فوٹو کی اصلی جوڑ دار تصویریں ہیں جنکی آپکو مدت سے تلاش تھی۔ رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر دیکھنے والی اصلی پچاس فوٹو کی تصویروں کا مکمل سٹ (گلزار حسن) شوقین مزاج اصحاب کے لئے نایاب تحفہ قیمت مکمل سٹ صرف ۱۲ر بارہ آنے محصول ڈاک ۶ر چھ آنے۔ ساتھ میں اصلی خفیہ کوک شاستر اور نئے سال کی جنتری بالکل مفت دی جاتی ہے۔ فوراً طلب فرمائیے۔ ایسی چیز ہے۔ ملنے کا پتہ

ایم ایچ نیو انڈین پکچر اسٹور چوک لکھنؤ۔

زمانہ حال کی مجلد طبی کتابوں سے اعلیٰ وارفع بینظیر ولاجواب مجربات کی بہترین کتاب۔

لُبُّ المجرّبات

مصنفہ

عالیجناب شفاء الملک بہادر حکیم دلبر حسن خان صاحب بھٹی صدر آل انڈیا یونانی طبی کانفرنس و مہتمم بھوپندر اطبیہ کالج پٹیالہ

[illegible]

اس کتاب میں سر سے پاؤں تک کی جملہ امراض کا عام فہم زبان میں مفصل بیان اور علاج تحریر کیا گیا ہے۔ علامات مرض کو ایسے مختصر پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ کہ معمولی اردو خوان بھی ہر ایک مرض کی بخوبی تشخیص کر کے علاج سمجھ کر سکتا ہے۔ پردہ دار عورتوں اور پوشیدہ امراض کے بیماروں کے لئے یہ کتاب نعمت غیر مترقبہ ہے اس میں ہر ایک نسخہ سو فی صدی مجرب ہونے کے علاوہ سہل الحصول، سہل الترکیب اور کثیر المنفعت لکھا گیا ہے۔ عام امراض کے علاوہ نامردی۔ جریان۔ احتلام۔ سوزاک۔ آتشک۔ بانجھ پن۔ سیلان الرحم۔ درد رحم۔ استحاضہ۔ قلت حیض۔ استسقاء۔ درد گردہ۔ ضعف۔ سہال۔ سنگرہنی۔ برص۔ جذام۔ وجع المفاصل۔ کھانسی۔ دمہ۔ بواسیر۔ ذیابیطس۔ سلس البول۔ قولنج۔ تپ دق۔ سل۔ چیچک۔ خسرہ۔ مرگی۔ سرسام۔ نسیان۔ خوبصورتی اور خضاب وغیرہ کے ایسے ایسے بے نظیر ولاجواب نسخے لکھے گئے ہیں کہ جن کا ہزار ہزار روپیہ میں بھی ملنا دشوار ہے۔ عالیجناب شفاء الملک بہادر نے اس کتاب کی تصنیف سے ملک پر احسان عظیم فرمایا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس نے ہزارہا انسانوں کو تباہی اور رنج سے بچایا ہے۔ یہ کتاب پہلے شائع ہوتے ہی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی تھی۔ اب دوسری دفعہ بہترین کاغذ پر نہایت خوشخط اور جلی حروف میں شائع کرائی گئی ہے۔ نسخوں کی آزمائش کرنے والے حضرات کی تصادیق بھی ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ چونکہ یہ کتاب بہترین ہونے کے علاوہ ایک ایسی ذمہ دار اور نامور ہستی کی تصنیف ہے۔ جسے شہرت عام اور بقائے دوام کے طبیب اعظم ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اس لئے اس کتاب کی اشاعت نہایت سرعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جو حکیم، وید، ڈاکٹر بہترین مجربات کے شائق ہوں۔ یا جن حضرات کو اپنے امراض کا خود تسلی بخش اور بے ضرر علاج کرنا مقصود ہو۔ یا جو اپنی شہرت، عزت اور نیک نامی کو چار چاند لگانا چاہتے ہوں۔ انہیں یہ کتاب ضرور بالضرور اپنے زیر مطالعہ رکھنی چاہئے۔ یہ کتاب ۲۲ ابواب اور ۱۰۵ فصلوں پر منقسم ہے۔ نسخوں کی تعداد ۵۱۲ اور حجم ۳۲۰ صفحات ہے۔ باوجود اس قدر خوبیوں کے اس کی رعایتی قیمت عہ اور خوبصورت جلد کی قیمت تین روپیہ مع محصولڈاک ہوگی۔ اس پر بھی پسند نہ آنے پر واپسی کی شرط ہے۔

بے نظیر دوائیں

افیون چھڑانے کی لاجواب گولیاں ان گولیوں کے چند روز استعمال سے پرانے سے پرانا افیون بلا دقت و قباحت چھوٹ جاتا ہے لطف یہ ہے کہ طبیعت میں کسی قسم کی سستی و کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہزارہا دفعہ کی آزمودہ و مجرب ہیں۔ ایک ماشہ روزانہ افیون کھانے والے کو ایک روپیہ کی ڈیڑھ سو گولیاں کافی ہیں۔ تین سو گولیوں کی قیمت ایک روپیہ چودہ آنہ۔ چھ سو کی قیمت تین روپیہ بارہ آنہ ٭

اکسیر جنون (مرگی، جنون اور اختناق الرحم کی بے خطا دوا) جو لوگ ان امراض کا علاج کرتے کرتے مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ اکسیر جنون کو ضرور آزمائیں۔ اس بے مثل دوا سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مایوس مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پہلی خوراک ہی اپنا اثر دکھاتی ہے اور چند روز کے استعمال سے بفضلہ کلی شفا ہو جاتی ہے۔ قیمت فی شیشی تیس خوراک صرف پانچ روپیہ (عہ) ٭

مقوی گولیاں ان گولیوں کا جزو اعظم کشتہ طلا ہے اور دوسرے اجزاء ایسے شامل کئے گئے ہیں جو اعلیٰ درجہ کے مقوی باہ ہونے کے علاوہ منی کو پیدا کرتے ہیں جن سے بڑھاپے میں جوش میں ایک خاص طاقت و سرور حاصل ہوتا ہے۔ سوئی ہوئی طاقتیں جگا دینا اور مردہ انسان کو مرد کامل بنانا ان گولیوں کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ تندرست انسان بھی انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ گئے گذرے انسان کو ۴ درجن اور تندرست انسان کو دو درجن گولیاں کافی ہیں۔ قیمت فی درجن (عہ) ٭

ٹیوبل تپ دق کیلئے اکسیر ٹیوبل کا بے قاعدہ نشوونما حاصل کر کے بیٹھ جانا یا مریض کو باریکی بے قاعدگی کے ساتھ بخار کا ہر وقت رہنا ان دواؤں کے استعمال سے بالکل درست ہو جاتا ہے۔ گزشتہ مہینے آتشک اور ناسور کے بیمار بھی اس اکسیر سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ٹیوبل کی تپ دق کی بے قاعدگی کے لئے بے نظیر ہے۔ قیمت فی شیشی ایک ماشہ تین روپیہ۔ خوراک ایک رتی صبح و شام ایک تولہ بالائی میں ملا کر دودھ سے کھانی چاہئے ٭

ہر شخص حالات مرض لکھ کر مفت مشورہ حاصل کر سکتا ہے۔ جواب کیلئے ٹکٹ آنا ضروری ہے۔ فہرست کتب و ادویات مع جنتری ۱۹۳۳ء کا کارڈ آنے پر مفت ارسال کی جاتی ہے ٭

خط و کتابت کا پتہ:۔ **جنرل منیجر شاہی مطب (رجسٹرڈ) ریاست پٹیالہ (پنجاب)**

بھوپندر اطبیہ کالج پٹیالہ کے پراسپکٹس درخواست آنے پر مفت بھیجے جاتے ہیں۔ داخلہ جون میں ہوتا ہے

آپ کی دلی

جو چاہو گے ہو جائیگا!

عمرو عیاری جنتری

عمل محبت کے شوقین ہمارا جنتر گوہر مراد منگوائیں۔ اسکو اپنے پاس رکھکر اپنے دل میں جس کسی کا نام لینگے۔ خواہ وہ کیسا ہی سخت دل، مغرور اور سخت کلام کیوں نہو۔ جہاں کہیں بھی ہوگا۔ آپ سے ملنے کیلئے تڑپنے لگیگا۔ اور جب بھی آپ اسکے سامنے جائینگے۔ وہ آپ سے محبت کا اظہار کریگا۔ اور ہر طرح آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش کریگا۔ نیز گمشدہ کی تلاش کرنا، کسی کے دل کا بھید دریافت کرنا، کسی چور کا پتہ لگانا۔ مردوں سے بات چیت کرنا وغیرہ۔ آپکے ہر سوال کا جواب بالکل خواب میں مل جائیگا۔ اور اگر آپکے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے۔ جو باوجود ہزار کوششوں کے بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بھی ہمارے جنتر کے پاس رکھنے سے گنتی کے دنوں میں پوری ہو جائیگی۔ معاوضہ صرف ۱۵ آنے۔ محصولڈاک علیحدہ۔ غلط ثابت کرنے والے کو ۵۰ روپیہ انعام ؎

چوراسی رنگین تصویر والا

اصلی خفیہ کوک شاستر (رجسٹرڈ)

عورت مرد کی چوراسی آسن کی جوڑ دار . . . پوشیدہ رنگین تصویریں اور چوراسی آسن کے تمام اصلی حالات درج ہیں۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ سے نہ ملیگا۔ ناپسند ہونے پر واپسی کی شرط۔ حجم ۸۰ صفحات۔ قیمت فی جلد ایک روپیہ بارہ آنے ۱۲/ علاوہ محصول معاف۔ کم قیمت والے کوک شاستر ملاکر دھوکا نہ کھائیں صرف رجسٹری شدہ منگوائیں

بال عمر بھر نہ اگینگے (رجسٹرڈ)

یہ دوائی بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے۔ صرف ایک دو مرتبہ لگانے سے بال ہمیشہ کے لئے اگنے بند ہو جاتے ہیں۔ جگہ ریشم کی مانند ملائم اور صاف نکل آتی ہے۔ بے ضرر اور پاک ہے۔ غلط ثابت ہو تو دام واپس۔ قیمت فی شیشی عمر محصول علیحدہ

تحفہ خوبصورتی (رجسٹرڈ)

اگر آپ اپنے چہرے کا رنگ کالے سے گورا تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یا اپنے مرجھائے ہوئے چہرے پر سے کیل، چھائیاں وغیرہ دور کر کے حسینی خواہش رکھتے ہیں تو ہمارا سائنس کے اصولوں سے تیار کردہ لنڈن بیوٹی لوشن استعمال کریں۔ آپکے چہرے کا رنگ مستقل طور پر گورا ہو جائیگا۔ قیمت فی شیشی عمر ایک روپیہ چار آنے۔ محصولڈاک معاف ہوگا۔

ملنے کا پتہ۔ منیجر امپیریل ٹریڈنگ ایجنسی۔ کراچی۔ سندھ

سرمہ گل بکاولی (رجسٹرڈ)

آنکھوں کی تمام امراض کے واسطے لاثانی ثابت ہو چکا ہے۔ قیمت فی شیشی ایک روپیہ۔ علاوہ محصول ڈاک۔

موہنی پارس (رجسٹرڈ)

احتلام۔ جریان۔ سستی۔ نامردی۔ کی مشہور دوا ہے۔ اس کی پہلی خوراک اگر اپنا اثر نہ دکھائے۔ تو دام واپس۔ ۱۱ دن کے کھانے سے کیسا ہی کمزور آدمی کیوں نہو نئی جوانی حاصل کرتا ہے۔ پوری خوراک کی قیمت پانچ روپے۔ نمونہ ۸/ علاوہ محصولڈاک

شاہی طبیب ڈاکٹر جیتلی صاحب گنج لیڈیسٹ چھبیلہ لاہور

سے طلب کریں

یکتا مفت

یہ مشہور کتاب یکتا مفت کوبراج سرداری لال وید آنجہانی کی ہزار اردو ہندی اور گورمکھی چھپکر مفت تقسیم ہو چکی ہے۔ روزانہ پاؤڈر کے پریمی صرف تین پیسہ کا ٹکٹ برائے خرچ ڈاک بھیجکر مفت منگالیں۔ اس روحانی تحفہ سے کسی پریمی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیئے۔ دیگر اس کے علاوہ ہم نے جسم کو تندرست و توانا بنانے کیلئے گولیاں فولاد تیار کی ہیں۔ جو طاقت توانائی کیلئے بے حد مفید ہیں۔ اور بدن میں خوشگوار حرارت پیدا کرتے ہیں۔ اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ چند روز کے استعمال سے ہی جسمانی کمزوری، کمی خون، دل کی دھڑکن۔ ضعف بصارت، دماغی کام سے نزلہ، سیرج کا پتلا پن، جریان، احتلام، کمزوری گردہ و مثانہ، کثرت پیشاب، سستی، ناطاقتی، تھوڑی سی محنت سے سانس پھول جانا۔ اٹھتے بیٹھتے آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا وغیرہ ہر ایک امراض کو دور کر کے جسم کو تندرست توانا بنا دیتی ہیں۔ خون بڑھانے اور صحت کو قائم رکھنے کیلئے اس کا سال میں ایک ماہ تک استعمال ہر ایک کو کرنا چاہیئے۔ قیمت فی شیشی ۴۰ گولیاں ایک روپیہ آٹھ آنے۔

—— چار شیشی منگانے پر محصول ڈاک معاف ——

ملنے کا پتہ:

کوبراج سرداری لال ویدیا سری امرت فارمیسی ڈسکہ ضلع سیالکوٹ

برانچ:- ناتھ فارمیسی بیرون بھاٹی گیٹ لاہور

بھرگو سنگھتا

جوگ سار پرکاش کنڈلی معہ ترجمہ

سمبت ۱۹۲۰ سے ۲۰۰۰ تک کے دنیا بھر کے آدمیوں کے زائچہ کا گذشتہ موجودہ آئندہ زندگی کا حال معلوم ہوگا۔ چار ماہ کے واسطے رعایتی قیمت ۱۰ روپیہ۔ ڈاک خرچ ۸ آنہ بعد کو سو روپیہ کو بھی نہ ملیگی۔

بھرگو سنگھتا کنڈلی کھنڈ

معہ ترجمہ اردو سمبت ۱۹۲۰ سے ۲۰۰۰ تک کے دنیا بھر کے آدمیوں کا زائچہ ان میں ملیگا۔ قیمت ۲ روپیہ ڈاک خرچ آٹھ آنہ

[illegible] ۲۵

شاہی حکیم محمد علی صاحب مرحوم، معالج خاندان شاہی ریاست جموں و کشمیر
کا ایجاد کردہ اور ۵۷ سال کا آزمودہ

روح جیون بوٹی

ایک مشہور عالم دوا ہے۔ ایک شیشی کے استعمال سے ایک مہینہ میں تین سیر صالح خون بدن انسان میں پیدا ہو جاتا ہے دودھ گھی جس قدر کھاؤ۔ ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے۔ بچپن کی غلط کاریوں۔ جوانی کی بے اعتدالیوں اور کثرت عیاشی کی وجہ سے ضائع شدہ طاقت کو واپس لا کر بڑھاپے میں جوانی کے منظر دکھا دیتا ہے۔ خاص کر پڑھے لکھے نوجوانوں اور ان نوجوانوں کے لئے جو چھوٹی عمر میں شادی ہونے کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصہ میں خطوط نفسانیہ سے جواب دے بیٹھے ہوں تیر بہدف ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جس کے استعمال سے لاکھوں کے گھر اولادیں اور نامردوں کی مرادیں حاصل ہو گئیں۔ چہرہ کی زردی۔ بے رونقی اور تمام بدن کے درد پٹھوں کی کمزوری رفع کر کے انسان کو طاقتور جوان بنا دیتا ہے۔ چانڈو۔ شراب۔ افیون وغیرہ منشیات کی عادات چھوٹ جاتی ہیں۔ خون کو صاف کر کے بدن کو چست و چالاک بنا دیتا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ تمام معجون۔ ماء اللحم۔ مقوی یاقوتیوں کا ڈیپو۔ تیل اور فاسفورس کے مرکبات سے بدرجہا بہتر ثابت ہوا ہے۔ قیمت اصل فی شیشی ۴ روپیہ۔ رعایتی ایک روپیہ

طلاء استغناء جن کے رگ و پٹھے سوائے مادرزاد نامردی کے شکست اور کمزور پڑ گئے ہوں۔ ان کو روح جیون بوٹی کے ہمراہ اس طلاء کا استعمال سونے پر سہاگہ کا کام دیگا۔ قیمت اصل فی شیشی ۵ روپیہ۔ رعایتی ایک روپیہ صدر

دفتر روح جیون بوٹی نمبر ۲۰ وارث روڈ لاہور

اپنا پتہ صاف اور خوشخط لکھیں۔ جنتری کا حوالہ ضرور دیں۔ جرمن ناولٹی سٹور۔ کراچی

لو دوستو!

سات گھڑیاں بالکل مفت!

ایک عدد اصلی جرمن ٹائم پیس، چار عدد ڈمی رسٹ واچ، دو عدد ڈمی پاکٹ واچ۔ یہ گھڑیاں ہم نے بڑی بھاری تعداد میں منگوائی۔ اپنی فرم کی سالگرہ کی خوشی میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص ہم سے طاقت مردمی کا طلسماتی جوہری کیپسول پرامسٹ جس سے گئی ہوئی طاقت پھر واپس آ سکتی ہے خرید کریگا ہم اسکو یہ سات عدد گھڑیاں مفت بکس کیپسول تحفہ ارسال کرینگے۔ اگر پسند نہ ہو۔ تو واپسی کی شرط ہے! ایسا ہی کوئی صاحب فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اسکی قسمت قیمت پورا بکس تین روپے آٹھ آنے۔ محصولڈاک پیکنگ وغیرہ علیحدہ ہوگا۔ اسلئے جلدی کیجئے۔ ورنہ یہ موقع بار بار ہاتھ نہ آئیگا۔ فوراً وی پی طلب کریں۔

جرمنی طلسمی آلہ

اگر بالکل کمزور آدمی صرف دو منٹ میں طاقتور ہونا چاہتا ہے۔ اور طاقت مردمی کا تماشہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بوقت ضرورت یہ آلہ استعمال کریں۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا۔ قیمت رعایتی فی آلہ دو روپے۔ غلط ثابت ہو تو دام واپس۔ محصولڈاک معاف

بجلی کی عینک

جرمن سائنس کی نئی ایجاد۔ نہ لیمپ کی ضرورت نہ کسی لالٹین کی ضرورت۔ رات کو جس وقت آنکھوں پر عینک لگا کر جو کام کرنا چاہیں شروع کریں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہر ایک انسان اسکو استعمال کر سکتا ہے۔ پرچہ ترکیب ہمراہ ہوگا۔ غلط ثابت ہو۔ تو دام واپس۔ سوائے ہمارے دوسری جگہ نہ ملیگی۔ قیمت دو روپے۔

کالا تیل رجسٹرڈ

اس کالا تیل سے بال ہمیشہ کیلئے کالے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تمام عمر سیاہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بےنظیر سنیاسی نسخہ ہے نقالوں کے دھوکے سے بچو۔ غلط ثابت ہو۔ تو دام واپس۔ قیمت ایک روپیہ۔ محصولڈاک علاوہ ہوگا۔ وی پی طلب کریں۔

ملنے کا پتہ:۔ ملیحہ دواخانہ ناولٹی سٹور کراچی

تندرستی سے بڑھکر دنیا میں کوئی چیز نہیں

ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں۔ کہ مندرجہ ذیل ادویات ویدک و یونانی گرنتھوں کے اسرار نہایت محنت و کوشش سے خالص اور تازہ جڑی بوٹیوں سے تیار کیگئی ہیں۔ اور ہزاروں مریضوں پر استعمال ہوکر مجرب ثابت ہوچکی ہیں۔ جو لوگ سب طرف سے مایوس ہوچکے ہوں۔ وہ ایک دفعہ ہماری ادویات منگوا کر ضرور استعمال کریں۔ ایک دفعہ کا معاملہ آپ کو ہمارا مستقل گاہک بنا دیگا۔ مفصل فہرست جس میں تمام امراض کی ادویات درج ہیں۔ مفت منگوا کر ملاحظہ کریں

مقوی باہ گولیاں انکے استعمال سے مردانہ قوت لوٹ آتی ہے۔ تمام قوائے جسمانی اور اعضائے رئیسہ کو از حد طاقت پہنچتی ہے۔ کمزور اور گیا گذرا انسان بھی نوجوان پہلوان ہوجاتا ہے۔ سستی۔ کمزوری کاہلی۔ تھکاوٹ۔ جریان۔ احتلام۔ دل دھڑکنا وغیرہ وغیرہ جملہ امراض اس کے استعمال سے حکمی طور پر دور ہو جاتی ہیں۔ قیمت (۴۰ گولی) دو روپیہ

ممسک گولیاں نام سے ہی ظاہر ہے۔ تعریف کرنا خلاف تہذیب ہے۔ منگوا کر تجربہ کریں۔ قیمت (۱۴ گولی) صرف ایک روپیہ (عہ)

سفوف نوجوانی جن لوگوں کے ویریہ میں کسی طرح کا نقص پیدا ہوگیا ہو۔ دھات پانی کی طرح پتلی ہوکر بہتی ہو۔ ہر وقت تھکان سستی اور کمزوری ہوگئی ہو۔ اور دنیاوی لذت سے محروم ہوگئے ہوں۔ وہ ہمارے اس سفوف کا استعمال کریں۔ جملہ قسم کے جریان وغیرہ کو رفع کرنے میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ قیمت دو روپیہ

طلسمی طلا جن لوگوں نے بچپن کی غلط کاریوں میں پھنس کر اپنے ہاتھو اپنے آپ کو تباہ و برباد کرلیا۔ اور زندہ درگور ہوگئے ہوں۔ ہمارے اس طلسمی طلا کو استعمال کریں۔ اس کی چند روزہ مالش سے مردے میں جان پڑجاتی ہے۔ تمام گذری طاقتیں ازسرنو بحال ہوکر انسان پہلے کی مانند ہوجاتا ہے۔ قیمت فی شیشی عہ

سوزاک و قرحہ اس جادو اثر دوائی سے دس دس بیس بیس برس کا پرانا سوزاک قرحہ جاتا رہتا ہے۔ جلن درد۔ پیپ آنا چند روز میں بند ہوجاتا ہے۔ نہایت مجرب ہے۔ قیمت صرف عہ

داڑھی مونچھ بڑھانے والا تیل

بغیر داڑھی اور مونچھ کے بھی آدمی کا چہرہ کیسا بے رونق اور بدنما معلوم ہوتا ہے۔ چہرہ کی خوبصورتی اس چیز کر جاتی ہے۔ ہمارا تیل داڑھی اور مونچھ کو بڑھاکر خوشنما بنا دیتا ہے۔ جن کو مونچھیں بڑھانے کا شوق ہو یا کسی کے بال نرم اگتے ہوں۔ تو اس تیل کے لگانے سے ہر جگہ کے بال اگ آتے ہیں۔ قیمت فی شیشی بارہ آنے (۱۲/)

کل دیپک
یعنی
گھر کا چراغ

جس گھر میں اولاد نہ ہو وہ گھر خانہ بے چراغ ہوتا ہے اولاد ہی دنیا میں ایک ایسی بے بہا نعمت ہے جس کے لئے ہزاروں لوگ منتیں مانتے۔ ناک مت رگڑتے اور جنگلوں بیابانوں میں سادھو مہاتماؤں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ پس ہم ایسے لوگوں کو جو اس نعمت بے بہا سے محروم ہیں۔ خوشخبری دیتے ہیں۔ کہ اگر وہ ہر طرف سے مایوس ہوچکے ہوں تو ہماری دوائی گھر کا چراغ منگوا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے تمام مانع حمل بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مرض اٹھراہ۔ اسقاط حمل۔ بانجھ پن کو شرطیہ دور کرتی ہے۔ جسکے گھر میں صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں۔ اسکے استعمال سے اسکے گھر میں ایشور کی کرپا سے لڑکے پیدا ہونگے۔ یہ دوائی بے اولادوں کو صاحب اولاد بنانے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ قیمت صرف پانچ روپیہ

کالی بلا افیون

ہماری ان گولیوں کے چند روزہ استعمال سے تولہ تولہ روزانہ افیون بھی بلا دقت و قباحت چھوٹ جاتی ہے۔ لطف یہ کہ طبیعت میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی پیدا نہیں ہوتی۔ ہزارہا دفعہ کی آزمودہ مجرب ہیں۔ ایک ماشہ روزانہ افیون کے لئے ڈیڑھ سو گولیاں کافی ہیں۔ قیمت (۱۵۰ گولی) دو روپیہ (عہ)

روغن الفت یہ دوا بطور طلا کے استعمال کی جاتی ہے اس قدر لذت بخش ہے۔ کہ اس کی کیفیت صرف میاں بیوی ہی جان سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جہاں استعمال کیا۔ مرد۔ عورت ایک دوسرے پر فریفتہ ہوجاتے ہیں۔ وہ لذت۔ وہ لطف اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کہ جادو ٹونے منتر وغیرہ سب ہیچ ہوجاتے ہیں۔ قیمت فی شیشی نصف شیشی عہ

روغن نوجوانی عورتوں کی چھاتیوں کا زیادہ بڑھ جانا بھی اُن کے لئے وبال جان ہوجاتا ہے۔ ہمارا یہ روغن مالش کرنے سے ڈھلکتی چھاتی اصلی حالت پر آجاتی ہے اور سخت کرتا ہے۔ قیمت فی شیشی عہ

سفوف شباب اس جادو کے سفوف کی ایک چٹکی وقت ضرورت سے چند منٹ پیشتر استعمال کرنے سے پچاس سالہ بڑھیا عورت کو پندرہ سالہ نوجوان بنا دینے کا اثر رکھتی ہے۔ شوقینوں کے لئے نایاب تحفہ نہایت مجرب ہے۔ قیمت دو روپیہ [illegible] کے لئے کافی ہے (عہ)

خوبصورت چہرہ اس دوائی کے چند روز ملکر چہرہ پر مل کرنے سے چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح ہوجاتا ہے۔ اور حسن دلفریب پیدا ہوتا ہے۔ چہرے کے داغ کیل۔ چھائیاں دور ہوکر سہانی صورت پیدا ہوتی ہے قیمت صرف بارہ آنے ۔۔ (۱۲/)

محافظ دندان اس منجن کے استعمال سے دانت موتیوں کی لڑی کی طرح سفید اور چمکدار ہوجاتے ہیں۔ منہ کی بدبو دور ہوکر خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ دانتوں کی تمام امراض۔ ماسخورہ۔ دانت درد۔ مسوڑے کا سوجنا درد دانت اور کیڑہ لگ جانے کو دور کرتا ہے۔ قیمت صرف آٹھ آنے (۸/)

سیلان الرحم یہ بڑی نامراد مرض ہے۔ عورتوں کے جسم سے ہر وقت سفید لیسدار پانی خارج ہوتا رہتا ہے۔ جس سے وہ دن بدن کمزور ہوکر آخر زندگی سے ہاتھ دھو لیتی ہیں۔ اولاد سے محروم رہتی ہیں۔ ہماری یہ دوائی اس مرض کے دفعیہ میں اکسیر سے بڑھ کر ثابت ہوئی ہے۔ قیمت صرف دو روپے (عہ)

کبھی بال پیدا نہ ہوں

ہماری اس دوائی کو نازک سے نازک جگہ پر چند مرتبہ ملنے سے بال ہمیشہ کے لئے دور ہوجاتے ہیں کسی طرح کا داغ دھبہ نہ پڑیگا۔ جگہ ریشم کی طرح صاف و ملائم رہیگی۔ نایاب تحفہ ہے۔ جو ہمیشہ کے لئے مصیبت سے نجات دیگا۔ قیمت دو روپیہ (عہ)

ملنے کا:- ویدرات پنڈت رگھناتھ داس ۱۲۵ سی ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

پیکنگ و محصول ڈاک سب کا خریدار کے ذمہ ہوگا

علمی مذاق کی بے نظیر کتابیں

ان کتابوں کے بغیر آپ کا کتب خانہ غیر مکمل ہے۔ ان کو پڑھ کر تمام علوم و فنون میں ماہر ہو جاؤ۔ استاد کامل بنکر ہزاروں روپیہ اور نام پیدا کرو

جوہر حکمت

ایک کتاب پچاس کتابوں کا کام دیگی۔ ڈاکٹری۔ ویدک یونانی۔ ہومیو پیتھی۔ کرومو پیتھی۔ وغیرہ تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اس کو پڑھ کر پھر کسی دوسری کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہ رہیگی۔ اس میں تمام بیماریوں کے نام معہ تشخیص ہر ایک زبان میں ادویات کے نام معہ تاثیر و شناخت ہر زبان میں جسم انسانی کے تمام رگوں پٹھوں کے نام اور ان کی تشریح ہر زبان میں تمام امراض کا علاج ڈاکٹری ویدک۔ یونانی وغیرہ طریقوں سے۔ حفظ صحت کے اصول۔ کھانے کی چیزوں کے متعلق طبی ہدایات ہر قسم کے کشتہ جات۔ جوہر۔ ایسنس۔ تیل بنانے کے طریقے۔ حکمائے قدیم کے مجربات نسخہ جات۔ امریکہ۔ جرمنی کی نئی تحقیقات انگریزی ادویات اور آلات کا مفصل بیان اس میں درج ہے۔ خوبصورت کپڑے کی جلد بنی ہوئی ہے قیمت فی جلد تین روپیہ (للعہ)

زچہ بچہ

عورتوں کی تمام اندرونی مخصوص بیماریوں کی تشریح اور ان کا علاج بقاعدہ یونانی۔ ویدک معہ مخفی نسخے دائیوں اور لیڈی ڈاکٹروں کے عملی تجربات حمل کی خرابیوں کا علاج۔ بانجھ پن کا دور کرنا۔ زچہ اور بچہ کی حفاظت۔ ایام حمل کا دستور العمل بچوں کی پرورش کے ہندوستانی و انگریزی اصول۔ بچوں کی بیماریوں کے علاج وغیرہ وغیرہ درج ہیں قیمت فی جلد ڈیڑھ روپیہ (عہ)

خوبصورتی

بدصورت چہرہ کو دلفریب بنانا۔ کالے رنگ کو گورا کرنا۔ جسم کو سڈول بنانا۔ دانت بال۔ خوشنما رکھنے کے نسخے۔ لباس کی وضع قطع۔ ہر قسم کے ناز و انداز اور حسن پیدا کرنے کے طریقے۔ چہرہ سے ہر قسم کے داغ دھبے مہاسے چھائیاں دور کرنا۔ غرضیکہ ایسے ایسے ہزاروں مضامین اس میں درج ہیں۔ قیمت سوا روپیہ (عہ)

علاج مستقل

ہر قسم کی بیماریوں کے لئے ایسی ادویات جو ہیں ایک کوڑی خرچ نہیں ہر مرض کا علاج۔ نرالے درختوں کے چھال پتوں اور جنگلی بوٹیوں سے جو ہر جگہ مل جاویں۔ فقیروں اور دیہاتی حکیموں کے بے خطا تیر بہدف نسخے درج ہیں۔ قیمت ۸ر

سکسوئیل سائنس

یعنی

عورت مرد کے باہمی تعلقات کی نسبت زمانہ حال و قدیم کی تحقیقات کا نچوڑ

اصلی کوک شاستر

علم النساء۔ کام سوتر کیمیائے عشرت مجربات بو علی سینا وغیرہ نایاب کتابوں کا مجموعہ۔ اس نام کی کتابیں تو آجکل بہت بک رہی ہیں لیکن ہماری اس کتاب کو کسے موافق نہیں۔ ہماری کتاب بالکل نئی ہے۔ اس میں وہ وہ باتیں درج ہیں جن کی آجکل کے نوجوانوں کو تلاش ہے مثلاً خود طاقتور اور جوان بنے رہنا۔ عورت کو تمام عمر نوجوان و خوبصورت بنائے رکھنا۔ حسب دلخواہ لڑکا لڑکی پیدا کرنا نامرد اور بانجھ عورت کو صاحب اولاد کرنا۔ بد تمیز دل یعنی پیدائش اولاد کو روکنا۔ عورت کو خوش اور قابو میں رکھنے کے عجیب و غریب نسخے اور مسالے۔ عورتوں مردوں کے اقسام ان کے جوڑے۔ مقابلات ثبوت پر جاندار بچوں کا اثر۔ اپنے جسم کو لمبا۔ موٹا اور مضبوط کرنا ہر قسم کے بلند۔ مسک طلا اور بال سیاہ رکھنے کے نسخے جات۔ ہر قسم کی زنانی و مردانی بیماریوں کا علاج۔ آسنوں کا بیان۔ غرضیکہ صدہا قسم کے مضامین جنکی نوجوانوں کو سخت ضرورت ہے۔ اس میں درج ہیں۔ اب کچھ نہیں بہا ذخیرہ ہے۔ اس کتاب سے کوئی گھر خالی نہ رہنا چاہیئے قیمت خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے صرف ڈیڑھ روپیہ

ملک عدم

ایک فرانسیسی فلاسفر کی نئی تحقیقات نے ملک بھی منکشف کیا دیا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں۔ خدا کے گھر کا پتہ۔ بہشت دوزخ کہاں ہے۔ مرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے۔ مردہ روحوں سے امداد حاصل کرنا۔ قیامت کا حال ایسے ایسے دقیق مسائل کا حل۔ سائنس کے مطابق کرکے دکھلایا گیا ہے۔ تمام فلاسفروں کے خیالات کا نچوڑ۔ قیمت ایک روپیہ چار آنہ (للعہ)

خزانہ کیمیا

کیمیاگروں کے قلمی نسخے۔ گورو گونشانہ کی سا کیمیا۔ پارہ کے مسکا بھسم۔ چاندی و اکسیر بنانے کی ترکیبیں۔ زندہ استادوں کے تجربات اس کتاب میں درج ہیں۔ قیمت دو روپیہ (عا)

عطائی نسخے

دیہاتی حکیموں کے چٹکلے۔ دہقانی ٹوٹکے۔ فقیری ٹکے و مجرب ادویات جو سینہ بسینہ چلی آتی ہیں بڑی محنت و کوشش سے تلاش کرکے اس میں درج کی گئی ہیں۔ قیمت صرف عہ

ہر فن مولا

تصنیف و حرفت کی بے نظیر کتاب قیمت عہ

علاج لورنگی

ہر مرض کا علاج لورنگی یعنی ویدک۔ ڈاکٹری۔ یونانی۔ ہومیو پیتھی وغیرہ وغیرہ کے ذریعہ لورنگیا طریقہ ۱۲ر

طبیب خلوت

نامردی جریان آتشک سوزاک

بواسیر وغیرہ ایسے امراض جن میں آجکل کے نوے فیصدی نوجوان مبتلا ہیں۔ اور مارے شرم کے وہ دوسرے سے اس کا علاج نہیں کراتے۔ اور زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ ان تمام امراض کی تشریح معلومات اقسام اور اسباب معہ علاج و پرہیز یونانی ویدک ڈاکٹری ہومیو پیتھی۔ عطائی و تقبیری طریقوں سے اس کتاب میں درج ہیں۔ تمام اعضاؤں کی بناوٹ ان پر بیماری کا اثر ہر ایک کے متعلق حکمائے قدیم اور زمانہ حال کے ڈاکٹروں کی رائیں اور جدید تحقیقاتیں درج ہیں۔ قیمت صرف ڈیڑھ روپیہ (عہ)

علاج بے دوا

نہ دوائی کھانے سے مطلب نہ لگانے کا کام۔ تمام بیماریوں کا علاج فاقہ سے پرہیز سے پچکاری سے مالش و ورزش ذریعہ قوت خیالی۔ جھاڑ پھونک۔ پرانا یام کے طریقوں سے۔ پانی اور سورج کی شعاعوں کے ذریعہ پھل اور رنگ سے کرنا لکھا ہے۔ حکما مشرق کے مخفی اصول اور زمانہ حال کی نئی تحقیقاتیں اس میں درج ہیں۔ قیمت عہ

دنیا کی سیر

چین۔ جاپان۔ روم۔ روس مصر۔ ایران۔ سیام برما۔ تبت۔ لنکا۔ امریکہ۔ حبش۔ افغانستان ترکستان وغیرہ وغیرہ تمام ملکوں کے دلچسپ حالات سیاحوں کے سفرناموں کا خلاصہ۔ ہر ملک کے عجیب و غریب رسم و رواج ہر ملک کے آدمیوں کے عادات و رائج قانون درج ہیں قیمت عہ

جوہر نباتات

ہر قسم کے چھوٹے بڑے درختوں کا بیان۔ انکی شناخت۔ اقسام۔ بلندی عمر۔ موسم و حفاظت دیسی و انگریزی نام۔ پھلدار۔ پھولدار درختوں کا بیان۔ آرائشی پودے۔ گملے کے پودے۔ بیلدار درخت ادویات میں کام آنے والے درخت ان سب کی تشریح و بیان مفصل درج ہے قیمت عہ

جوہر زراعت

ہر قسم کے پھل۔ سبزی۔ ترکاری۔ مصالحہ ساگ۔ غلہ وغیرہ کا مفصل بیان۔ کاشت کے طریقے۔ کھاد کا بیان اس کی شناخت۔ اصول کاشتکاری۔ وغیرہ وغیرہ کا مفصل بیان درج ہے۔ قیمت ۸ر

پتہ ملنے کا:- مدن موہن منوہر لال اینڈ برادرس سیلرز و پبلشرز شیرانوالہ گیٹ لاہور

محصول ڈاک ہر چیز کا ذمہ خریدار ہے

برف کی مانند سفید بال سیاہ بھنور ہو سکتے ہیں

اگر آپ ہمارا تیار کردہ

مہابھرنگراج یعنی خوشبودار خضابی تیل استعمال کریں

اس تیل کے لاثانی فوائد نے تمام عالم کو حیرانی میں ڈال دیا ہے

کئی مہاتما سنیاسی فقیروں کی خدمت گذاری اور درجنوں قلمی ویدک گرنتھوں کے مطالعہ کے بعد بال سیاہ کرنے کے لاثانی تیل کا یہ نسخہ دستیاب ہوا ہے۔ جو کہ بالکل بے ضرر دیسی ادویات مثلاً بھنگرہ سیاہ۔ فولاد۔ ترپھلا۔ مجیٹھ وغیرہ وغیرہ ڈال کر متواتر چھ ماہ محنت کرنے کے بعد تیار ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑے دنوں تک باقاعدہ استعمال کرنے سے برف کی طرح سفید بال سیاہ بھنور ہو جاتے ہیں۔ اور آئندہ کے لئے بال جڑ سے کالے نکلتے ہیں۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے بال کمزور ہو گئے ہوں۔ تو اس کے استعمال سے بال مضبوط۔ ملائم اور ریشم کی طرح چمکدار ہو جاویں گے۔ جن لوگوں کے بال ابھی سفید نہیں ہوئے اگر وہ بھی اس کو استعمال کریں۔ تو پھر بڑھاپے تک اُن کے بال سفید نہ ہوں گے +

قیمت فی شیشی - دو روپیہ - ۳ شیشی اکٹھی منگوانے پر پانچ روپیہ (صرر) محصول ڈاک بذمہ خریدار ہے

کالے گورے ہو گئے

کس طرح؟

خوبصورتی کا مکمل بکس خرید کر

اگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ ہمارے چہرہ کی رنگت سفید۔ چمکدار۔ نرم صاف اور رنگت گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے اور چہرہ پر کسی طرح کا داغ دھبہ نہ رہے۔ تو اس خوبصورتی کے مکمل بکس کو منگوا لیں۔ جس میں خوبصورتی کا صابن عرق کریم پوڈر وغیرہ وغیرہ مکمل سامان موجود ہے۔ حسب ہدایت تھوڑا عرصہ تک استعمال کرنے سے چہرہ کے تمام نقائص دور ہو کر رنگت گوری اور چہرہ خوشنما ہو جاوے گا۔ آزما کر دیکھو۔ قیمت مکمل بکس کی صرف دو روپیہ آٹھ آنہ عہ۸ر

وینس ہیئر گروور

یعنی

گنج کو دور کرنے کا تیل

جس جگہ بال پیدا نہ ہوتے ہوں۔ بال چٹ ہو گیا ہو۔ اس جگہ پر اس تیل کی مالش تھوڑے روز تک کرنے سے بال پیدا ہو جاوینگے۔ اگر بال گرنے شروع ہو گئے ہوں تو اس کے استعمال سے فوراً رک جاوینگے۔ اور گنجا پن بالکل دور ہو جاویگا۔ قیمت فی شیشی صرف عہ

صابن خارش

اس صابن کے استعمال سے تمام جلدی بیماریاں مثلاً داد چنبل خارش بہت پھوڑے پھنسیاں وغیرہ وغیرہ دور ہو جاتی ہیں۔ تمام جلدی امراض کیلئے اکسیر ہے۔ قیمت سہ ٹکیہ کا بکس عہ ایک ٹکیہ ۱۰ر

حسن افزا تیل

اس تیل کے استعمال سے چہرہ کے بدنما داغ۔ چھائیاں۔ کیل۔ پھنسیاں۔ زخم وغیرہ وغیرہ بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ نہایت خوشبودار ہے۔ تھوڑا سا روزانہ چہرہ پر ملنے سے چہرہ کو نہایت خوشنما۔ ملائم اور چمکدار بنا دیتا ہے۔ خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ عورتوں کے لئے نایاب تحفہ ہے۔ قیمت فی شیشی عہ

پوڈر مصفی دنداں

دانتوں کا پیلا اور بد رنگ ہونا بھی چہرہ کی خوبصورتی میں فرق لاتا ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ پوڈر روزانہ دانتوں پر ملینگے تو آپ کے دانت موتیوں کی طرح سفید چمکدار اور مضبوط ہو جاوینگے اور دانتوں کی کسی قسم کی بیماری بھی - ۸ر کی [illegible]

ملنے کا پتہ: ایم ایل بھنوت اینڈ کو بہار جوانی آفس ۱۲۵ سی ماڈل ٹاؤن (پنجاب)

شیر کی اصلی چربی قیمت فی تولہ ایک روپیہ - ریچھ کی چربی قیمت فی تولہ ۸ر - اصلی شدھ سلاجیت فی تولہ ایک روپیہ - برہمی بوٹی فی پاؤ ۸ر فی سیر تین روپیہ -

مفت! مفت!! مفت!!!

اصلی خفیہ بالتصویر کوک شاستر

ازدواجی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی یہ پہلی ہی کتاب ہے اس میں وہ پوشیدہ راز درج ہیں جن پر عمل کرنے والے بوڑھے سے بوڑھے اور کمزور سے کمزور خاوند پر بھی اس کی نوجوان بیوی پہلے ہی روز دل و جان سے قربان ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ عاشق مزاج احباب کے لئے خاص تحفہ ہے۔ عورت کے حسن اور مرد کے شباب کو قائم رکھنے حمل ٹھیرانے اور روکنے۔ اولاد نرینہ پیدا کرنے۔ عورت کو فریفتہ کرنے وغیرہ وغیرہ کے تمام پوشیدہ راز اسقدر واضح کر کے لکھے گئے ہیں کہ ایک دفعہ تو اس کتاب کو پڑھ کر آپکو یقین ہو جاویگا کہ اسکے جوڑ کی کتاب ہندوستان بھر میں ملنا ناممکن ہے۔ بازاری اور اشتہاری کوک شاستر اسکے سامنے ہیچ ہیں۔ علاوہ ازیں مردانہ و زنانہ پوشیدہ امراض کے وہ لاجواب مجربات اس میں درج ہیں جنکے اثر کو دیکھ کر بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر بھی دنگ رہ جاتے ہیں ایسی بیش قیمت کتاب صرف ان احباب کو مفت دی جاویگی جو اس جنتری کا حوالہ دیکر ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں لاگت اشتہار۔ پیکنگ و ڈاک خرچ کے لئے صرف چار آنہ کے ٹکٹ ڈاک بھیجکر طلب فرماوینگے۔ آگے پیچھے طلب کرنے والے اصحاب سے پوری قیمت یعنی ایک روپیہ (عہ) وصول کی جاوے گی ؛

ملنے کا پتہ:- یوجینکس پبلشنگ کمپنی ملا وچھووالی - لاہور

بے روزگاروں کے سچے دوست

گھر بیٹھے مالا مال بنا دینے والے صنعتی راز

یہ وہ قیمتی راز ہیں جنکو سینکڑوں روپیہ خرچ کرنے اور سالہا سال خدمت کرنے پر بھی ماہران فن سکھانے سے گریز کرتے ہیں ہم نے یہ راز نہایت جانفشانی اور زر کثیر صرف کر کے حاصل کئے ہیں۔ اگرچہ ایک ایک راز لاکھ لاکھ روپئے کا ہے تو بھی غریبوں اور بے روزگاروں کی امداد کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سب راز اس شخص کو مفصل لکھ کر بھیجے جاوینگے جو ہمیں صرف آٹھ آنہ کے ٹکٹ پیشگی بھیجدیگا۔ یاد رکھیں یہ راز آپکو قیمتی سے قیمتی بازاری صنعتی کتابوں میں نہیں ملینگے۔ اگر آپ گھر بیٹھے ہی پانچ سات روپیہ روزانہ کمانا چاہتے ہیں۔ تو آج ہی آٹھ آنہ کے ٹکٹ ارسال فرماویں ؛ (مختصر فہرست مضامین) دودھ کے مرکبات سے۔ آلوؤں سے اور مکئی کے سوکھے پودوں سے مختلف قسم کی کاغذ بنانا۔ چیزیں ٹالنے کے طریقے۔ صابن سازی۔ بلیو بلیک سیاہی۔ اصلی ولایتی خضاب۔ سنو کریم۔ ٹوتھ پاؤڈر۔ بال اڑانیکا تیل و پوڈر۔ چہرے کو گورا بنانے والی ولایتی کریم۔ خوشبودار تیل۔ بوٹوں اور کالا بوٹ پالش وغیرہ وغیرہ بیسیوں قیمتی نسخے ہیں ؛

ملنے کا پتہ:- یوجینکس پبلشنگ کمپنی ملا وچھووالی - لاہور

EUGENICS PUBLISHING Co., WACHHOWALI LAHORE

خالص ست شلاجیت

کون ہے جو خالص ست شلاجیت کے فوائد سے واقف نہیں۔ یہ وہ اکسیر ہے جو باطریقہ استعمال کرنے سے ایک بار تو تمام جسمانی۔ دماغی۔ اعصابی اور تناسلی کمزوریوں کو رفع کر کے لاغر سے لاغر انسان کو بھی فولاد کی مانند مضبوط بنا دیتی ہے لیکن بڑے بڑے تعریفی اشتہاروں کے ذریعہ بکنے والی شلاجیت سے یہ فائدے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ عموماً یہ اشتہار باز علم طب اور آیوروید سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے ست شلاجیت کو ٹھیک طور پر تیار ہی نہیں کر سکتے ہم چرک اور سشرت میں بیان کردہ طریقوں کے مطابق سورج کی دھوپ میں بڑی محنت سے اس کا ست تیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پہلی ہی خوراک یہ یقین دلا دیتی ہے کہ واقعی ہمارا ست شلاجیت تمام قسم کی سلاجیتوں کا سرتاج ہے۔ قیمت ۵ تولہ صرف دو روپیہ - ۱۰ تولہ ساڑھے تین روپیہ - ۲۰ تولہ چھ روپیہ ؛

ملنے کا پتہ:- ست شلاجیت ملا شیشہ موتی بازار - لاہور



فتق کی پیٹی

جن لوگوں کی آنت اتر جاتی ہے ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور اس بیماری کے باعث [illegible] نہیں ہو سکتا۔ اسکے استعمال سے [illegible] نہیں اترتی قیمت للعہ [illegible]

ربڑ کا جھاما

اس میں نہایت خوبصورت ربڑ کی ملائم تھیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس سے ہاتھ منہ دھوتے وقت جسم خوب صاف ہو جاتا ہے۔ نہایت مضبوط مدتوں کام دیگا۔ قیمت ایک روپیہ

قینچی مشین!

حجامت بنانے کی مشین

نہایت مضبوط اور اعلیٰ لوہے کی یہ اصلی مشین ہے۔ سر کے بال یہ مشین بڑی آسانی اور نہایت عمدگی سے کاٹ دیتی ہے۔ قیمت [illegible]

ربڑ کی بوتل

[illegible] کام آنے والی ربڑ کی بوتل [illegible] قیمت [illegible]

ٹھنڈے چشمے

ٹھنڈا چشمہ آپ کی آنکھوں کو دھوپ سے بچائے گا۔ قیمت مع بکس بارہ آنے [illegible]

نیو فیشن فینسی ڈائل رسٹ واچ

اس کی شکل نہایت خوبصورت اور پیاری ہے مشینری مضبوط اور پائیدار ہے کم خرچ بالا نشین ہے عورتوں کے لئے بڑی موزوں ہے۔ قیمت للعہ چار روپے گارنٹی پانچ سال

سنہری کیس رسٹ واچ

یہ شادی بیاہ میں بطور تحفہ دینے کے لئے نہایت شاندار اور موزوں گھڑی ہے۔ اس کی مشین نہایت خوبصورت و مضبوط ہے قیمت صرف چھ روپے گارنٹی نو سال

ملٹری رسٹ واچ

یہ رسٹ واچ نہایت مضبوط اور پائیدار ہے۔ خاص طور پر تیار کروائی گئی ہے۔ لیور مشین ہے۔ اعلیٰ جیول لگے ہوئے ہیں قیمت [illegible] چاندی کیس [illegible] روپے۔ گارنٹی دس سال۔

کروم کیس رسٹ واچ

یہ گھڑی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ پسینہ سے اسکی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا۔ بڑی مضبوط اور شاندار ہے قیمت صرف آٹھ روپے [illegible]۔ گارنٹی دس سال۔

فرنچ لیدر برتھ کنٹرول

اگر آپ اولاد کی پرورش اپنے دل کی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے اور آپکی شریک حیات کی جان خطرہ میں ہے تو آپ برتھ کنٹرول کا استعمال کریں عورت کی تندرستی بھی قائم رہیگی اور حمل بھی قرار نہ پائے گا۔ قیمت مردانہ [illegible] زنانہ [illegible]

نیو امریکن فیشن لیور رسٹ واچ

چار جیول والی رولڈ گولڈ قیمت [illegible] روپے۔ کرومیم [illegible] نہایت خوبصورت ہے۔ ہر عورت [illegible] دیتی ہے۔ بوجہ لیور ہونے کے وقت نہایت صحیح بتاتی ہے۔ قیمت صرف دس روپے۔ گارنٹی [illegible] سال

انگلش فیشن لیور رسٹ واچ

جیول والی۔ کرومیم۔ رولڈ گولڈ۔ اس گھڑی کی مشین لیور ہے بہتر کام دینے والی ہے۔ رولڈ گولڈ کیس ہمیشہ مثل سونے کے رہتی ہے۔ [illegible] جیول بھی لگے ہوئے ہیں۔ قیمت [illegible] بارہ روپے۔ گارنٹی دس سال۔

جنٹلمین پاکٹ واچ

[illegible] کی بادشاہ ہے۔ اسکی مشین نہایت مضبوط [illegible] اور [illegible] بڑی [illegible] نہایت صحیح بتاتی ہے قیمت صرف [illegible] روپے گارنٹی [illegible] سال

الارم ٹائم پیس

سوتوں کو جگانے والا [illegible] اگر آپ [illegible] وقت پر اٹھنا چاہیں [illegible] قیمت صرف [illegible] روپے گارنٹی [illegible] سال

ورزش [illegible]

فولادی [illegible] اگر آپ [illegible] ورزش کریں [illegible] تمام [illegible] بیماریوں سے [illegible]

حجامت بنانے کا دستی آئینہ

حجامت بنا کر [illegible] دیکھنے کا نہایت اعلیٰ آئینہ [illegible] جرمنی کی بالکل نئی ایجاد ہے قیمت [illegible]

ربڑ کا تکیہ!

شوقین مزاج لوگوں کی دل [illegible] سامان۔ ایک دفعہ استعمال کیجئے پھر سیر زندگی کا لطف آئے گا۔ نہایت کارآمد چیز ہے۔ کرسی پر رکھ کر بیٹھنے کے علاوہ سفر میں بھی کام آسکتا ہے قیمت صرف دو روپے

کپڑا سینے کی مشین!

[illegible] مشین [illegible] قیمت [illegible]

سیفٹی استرا

[illegible] قیمت [illegible]

مینیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور



دودھ میں سے پانی ناپنے کا آلہ

اگر آپ خالص دودھ بیچنے والے دکانداروں کے فریب سے بچنا چاہتے ہیں تو دودھ ناپنے کا یہ آلہ ضرور منگوائیں یہ دودھ میں پانی کی مقدار بتا دیگا قیمت ۱۰عہ



لوباہو

زکام کا واحد علاج

اس نلکی کو ہمیشہ جیب میں رکھیے جب زکام کا حملہ ہو اسکو سونگھ لیجیے فوراً آرام آجائیگا جرمن ایجاد ہے قیمت ۱۲ محصول



سستی استرے [illegible] بہترین [illegible]

فولادی قیمت [illegible] ہندستان [illegible]

کو تیز کرنے کی مشین قیمت چار روپے ۴



آٹو میٹک پستول

دیکھنے میں بالکل اصلی پستول معلوم ہوتا ہے پستول اپنی جان کا محافظ بنگال وغیرہ کے سوائے تمام ہندستان میں بلا لائسنس استعمال کیا جا سکتا ہے قیمت مع پچاس گولی کے ۴

فوٹو کیمرہ

اس کیمرہ کی مدد سے آپ ہر چیز کی تصویر اتار سکتے ہیں [illegible] قیمت [illegible] معمولی [illegible] فوٹو کے متعلق ضروری سامان بھی [illegible] طلب کریں





فٹ بال

بچوں۔ نوجوانوں کی ورزش کے لئے سب سے اچھی کھیل ہے سکولوں میں بچوں کو کھلائی جاتی ہے آپ بھی اپنے بچوں کیلئے ایک فٹ بال منگائیں۔ قیمت پانچ روپے۔ درجہ دوم چار روپے

فٹ بال میں ہوا بھرنے کی پچکاری



ٹارچ لائٹ

پاکٹ لیمپ ٹارچ بیٹری نہایت خوبصورت سو فٹ تک روشنی دیتی ہے قیمت نمبر اول [illegible] نمبر دوم [illegible]



پیمائش کا فیتہ

یہ فیتہ عمارت وغیرہ کی پیمائش کے کام آتا ہے۔ ۵۰ فٹ لمبا پاکٹ میں آجاتا ہے نہایت خوبصورت ہے قیمت دو روپے



مکھن نکالنے کی آہنی مشین

اس مشین کے ذریعہ دودھ میں سے مکھن بڑی جلدی نکل آتا ہے ویسے انڈے پھینٹنے کے کام بھی آتی ہے ہر گھر کیلئے مفید ہے قیمت ۱۲

مسہری

نہایت مضبوط خوبصورت



[illegible] کام دینے والی [illegible] اندر نہیں آسکتے نہایت آرام دہ [illegible] قیمت صرف چھ روپے



فونٹین پن سلف فلنگ

قلم جیب میں ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیئے جاپانی قلم جو عام بازاروں میں بکتی ہے نکمی ہوتی ہے ہمیشہ سونے کی نب والی قلم استعمال کریں جو برسوں کام دیگی نفیس مضبوط پائیدار قیمت چار روپے للعہ



حجامت برش

بنانے کا برش

نہایت مضبوط پائیدار خوبصورت قسم اول ۱۲ دوم ۸ اسکے علاوہ صابن شیشہ بلیڈ بھی [illegible]

دوربین

جرمنی کی نہایت عمدہ اور مضبوط دوربین دور کی چیز نزدیک نزدیک کی چیز دور دکھائی دیتی ہے



گھوڑ دوڑ جنگ وغیرہ دیکھنے کیلئے بیحد مفید ہے۔ قیمت پانچ روپے ۵



تعویذی قرآن مجید

اس ماشہ کا قرآن مجید ہمیشہ اپنے پاس رکھو دنیا کے ہر کام میں برکت الٰہی شامل ہوگی۔ ایک انچ مربع [illegible] کلاس دو روپے

ریشمی رومال



ریشمی رومال نہایت خوبصورت اعلیٰ ڈیزائن والے پھولدار اور ایک رنگ والے بھی قیمت [illegible]



مشین کشیدہ کاری

کپڑوں پر نہایت ہی خوبصورت بیل بوٹے بنانے والی نہایت سادہ مشین قیمت تین روپے مشین کے علاوہ بیل بوٹے بنانے کی کتاب یعنی کشیدہ کاری کی پہلی کتاب جس میں سینکڑوں قسم کے پھول جانور اور بیلوں کے ولایتی نمونے دیئے گئے ہیں اس مشین سے ریشمی اونی سوتی کشیدہ نکالا جا سکتا ہے قیمت [illegible]

ڈیٹ بلاک کیلنڈر



دائمی کیلنڈر سینکڑوں برس تک کام دیگا مہینہ دن تاریخ سب بتاتا ہے قیمت تین روپے

پرمس چولہا

سفری چولہا مٹی کے تیل سے



جلتا ہے دھواں نام کو نہیں دیتا آنچ خوب تیز ہر چیز بآسانی تیار ہو جاتی ہے قیمت اول [illegible] دوم [illegible]

سینما مشین

گھر بیٹھے رات کو سینما دیکھنے کی مشین نہایت مضبوط و کارآمد قیمت دس روپے



مینیجر جنرل سپلائی سٹورز لاہور



پوڈر ۔ غازہ ۔ گلگونہ

عورتوں کی دوائی

بال صفا پوڈر

مردوں کی گولیاں

جھولا

آرائش جمال یا سنگار دان

سنگار دان

برقی لاکٹ

برقی انگیا

منیجر جنرل سپلائی سٹور لاہور

فرانسیسی کوک شاستر

منہ بولتی تصویروں کے ذریعے اس کوک شاستر میں پیرس کی پریوں کی لطف اندوز زندگی کی داستان بیان کی گئی ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی اور کوک شاستر کی ضرورت نہیں۔ عورتوں کی مختلف حالتوں کا نقشہ آپ کے ذہن نشین کرنے کیلئے اس میں چالیس سے زائد مختلف تصاویر بھی دی گئی ہیں۔ [illegible] فرانسیسی کوک شاستر بے پناہ اور لازوال شہرت کی کتاب ہے یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ جوانی اور لذت شباب کے مضمون پر نہایت [illegible] بحث ہے جس کو پڑھ کر مرد [illegible] شباب بھرپور لذت حاصل کر سکتا ہے۔ عورتوں کو چاہئے کہ وہ اپنے حسن و جمال کے خزانہ کو محفوظ رکھنے کے راز سیکھیں فرانس والوں کی عیش پرستانہ زندگی شادی اور شادی کے بعد حرم حسن کی لطف اندوز حیات اور حقیقی ازدواجی مسرتوں کی تفصیل درج ہے اس کتاب میں نوجوانوں کو بداخلاقی سے بچانے کیلئے پوری کوشش کی گئی ہے [illegible] قیمت [illegible] رعایتی چار روپے [illegible]

کاشف رموز کیمیا یا کیمیاگروں کا استاد

اگر اس کتاب سے کیمیاگری [illegible] سیکھنا چاہتے ہو تو جناب علم کیمیا کی تاریخ کیمیاوی بوٹیوں کے فوائد و خواص کیمیا سازوں کے مخفی راز اکسیر اجساد و اجسام کے راز دل کا انکشاف [illegible] جواہرات سازی کا بیان بھی دیا گیا ہے کتاب ایشیا و یورپ کی کیمیاگری کا نچوڑ ہے۔ قیمت چار روپے [illegible] رعایتی تین روپے [illegible]

طب [illegible]

[illegible]

اولاد نرینہ یا میٹھا پھل

دنیا میں لاکھوں عورتوں کی گودیں اولاد جیسی نعمت سے خالی ہیں۔ ان سب عورتوں اور اولاد کے طالب مردوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب منگا کر پڑھیں۔ قیمت ۱۲ ر رعایتی نو آنے ۹

جادو کی پہلی سیڑھی

[illegible] قیمت ۱۲ ر رعایتی ۹ ر

معلومات بوسہ بازی

بوسہ کیا ہے۔ بوسہ کس طرح لینا چاہئے

بوسہ شہوت اور بوسہ محبت کا فرق۔ دنیا کے مختلف ممالک میں بوسہ بازی کے حالات۔ بوسہ بازی کے متعلق شعر بھی لکھے گئے ہیں۔ قیمت ۸ ر رعایتی ۶ ر

فن ہپناٹزم

[illegible]

علم ریکھا یا خط تقدیر

ہر انسان کے ہاتھوں پر قدرت نے اس کی تقدیر لکھ دی ہے۔ اس تقدیر کو پڑھنے کیلئے [illegible] علم ریکھا کی کتابیں تصنیف کی ہیں [illegible] تمہاری قسمت۔ بیماری۔ شادی۔ اولاد۔ عمر وغیرہ سب حالات [illegible] کتاب خط تقدیر علم ریکھا کی سب کتابوں کا نچوڑ ہے۔ قیمت ۱۲ ر رعایتی ۹ ر

آئینہ مسمریزم

[illegible]

حسن و صحت بڑھانے کے نسخے

[illegible]

کتاب حسن و صحت بڑھانے کے نسخے منگا کر پڑھیں اس میں جو نسخے حسن کے قائم رکھنے کے درج ہیں ان کو استعمال کریں۔ قیمت ۸ ر رعایتی ۶ ر

[illegible]

بازاری ادویات	[illegible]	نوکر نوکرانیاں	[illegible]
بنائے فن عطاری	[illegible]	خوبصورتی کی تندرستی	[illegible]
ذخیرۃ الاطبا	[illegible]	درازی عمر کے اسرار	[illegible]
قوت سامعہ یا کان	[illegible]	دوست یا دشمن	[illegible]
لکنت اور اس کا علاج	[illegible]	بچوں کی پرورش	[illegible]
طب کیمیائی	[illegible]	[illegible]	[illegible]
فادزہر سانپ کاٹے کا علاج	[illegible]	رسالہ چشم	[illegible]
صحت انسان	[illegible]	علاج النسا	[illegible]

[illegible]

اس دنیا میں ہر شخص کیلئے زمین میں خزانہ موجود ہے



فن زراعت و باغبانی کی بیش بہا کتابیں

آپ بھی ان کتابوں کے ذریعہ زمین سے دولت جمع کر سکتے ہیں!

کتاب الاثمار فی علم النبات نواب [illegible] صاحب مرحوم کی مشہور کتاب جس میں تمام میوہ دار درختوں کی کاشت اور نگہداشت کی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ کتاب باتصویر ہے اور اب بھی [illegible] طبع کی گئی ہے۔ قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

سبزی ترکاری اس کتاب میں ہندوستان اور ممالک غیر کی تمام ترکاریوں کی پیداوار کاشت اور کھادوں کا مفصل ذکر ہے۔ قیمت [illegible] رعایتی ۱۲

کاشت آلو آلو کی کاشت پیداوار سے دولت پیدا کرنے کے حالات [illegible] رعایتی [illegible]

میوہ جات میوہ دار درختوں کی پرورش کے حالات پیوند [illegible] کاشت کھاد۔ میوے لذیذ کرنے کا طریقہ میووں کی بیماریاں اور ان کے علاج قیمت [illegible] رعایتی ۱۲

کیمیائے زراعت اس کتاب میں تمام قابل کاشت غلوں ترکاریوں اور فصلوں کے بونے کے حالات [illegible] قیمت [illegible] رعایتی ۱۲

پھلواڑی ہر قسم کے پھولوں کی پیداوار اور کاشت کے مفصل حالات [illegible] رعایتی ۱۲

صنعت [illegible] [illegible] کی پیداوار کے مفصل حالات قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

علاج المویشی [illegible] گائے بھینس بکری وغیرہ پالتو جانوروں [illegible] امراض [illegible] اس کتاب میں درج ہیں قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

علاج اسپان گھوڑوں [illegible] تمام امراض [illegible] کا علاج قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

معالجات [illegible] [illegible] پرورش اور بیماریوں کے علاج قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

محب المویشی [illegible] قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

بھیڑ بکری کی پرورش [illegible] پالنے اور ان سے تجارتی نفع حاصل [illegible] کے مفصل حالات درج ہیں قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

شہد کی مکھی [illegible] شہد حاصل کرنے اور شہد کی تجارت کے فوائد [illegible] قیمت [illegible] رعایتی [illegible]

خرگوش کی پرورش [illegible] رعایتی [illegible]

ریشم کا کیڑا ریشم کے کیڑوں [illegible] مفصل حالات [illegible] رعایتی [illegible]

[illegible] اچار چٹنیاں [illegible] ہر قسم کے مربے اچار چٹنیاں [illegible] رعایتی [illegible]

خوان یغما مسلمانوں [illegible] پلاؤ زردہ قورمہ [illegible] ترکیبیں [illegible] رعایتی [illegible]

بھوجن پرکاش ہندوؤں کی مٹھائی پوری کچوری [illegible] کھانے مٹھائیاں وغیرہ بنانے کی مفصل ترکیب درج ہیں [illegible] رعایتی [illegible]

ناول ڈرامے افسانے تاریخی جاسوسی اور عشقیہ

- ناول منشی [illegible] حسین صاحب
- آستانے کی حور
- [illegible] کا چاند
- [illegible]
- فتح [illegible]
- حور عرب
- جنگ ایران
- [illegible]
- آفتاب عالم چار حصے
- ایران کی حسینہ
- جنگ صلیب و ہلال
- عرب کا چاند
- [illegible]
- مشرقی حور
- فتح [illegible]
- کابل کی شہزادی
- فتح ایران
- [illegible]
- شیر اندلس
- رومی شہزادی
- ناول مصنفہ [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- فردوس بریں
- [illegible]
- [illegible]
- دلچسپ قاتل
- حسن بن صباح
- شہید وفا
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- انگریزی بول چال
- فارسی بول چال
- [illegible] بول چال
- [illegible]
- [illegible]
- افغان بادشاہ
- [illegible]

- پھولوں کے گیت
- اسلامی کہانیاں
- [illegible] کہانیاں
- اسیر قفس
- ناول مصنفہ [illegible]
- سرگذشت [illegible]
- قدیم لندن کے اسرار دو حصے
- [illegible] لندن [illegible]
- وطن پرست
- عربی ترکی [illegible]
- معرکہ [illegible]
- [illegible]
- محبوبہ قریش
- [illegible] کربلا
- جنگ طرابلس
- جنگ سمرنا
- [illegible]
- معرکہ سمرنا
- عربی دلہن
- [illegible] بغداد
- [illegible] وطن
- [illegible]
- [illegible]
- جاسوسی ناول
- ناول [illegible]
- [illegible] قاتل
- نقاب پوش ڈاکو
- ہوائی بندوق
- خونی [illegible]
- خونی [illegible]
- خونی آقا
- خونی بہن
- خونی [illegible]
- خونی [illegible]
- خونی [illegible]
- خونی [illegible]
- خونی شہزادہ
- [illegible]
- قاتل کا قاتل
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] آنکھیں
- [illegible] محبت
- [illegible]
- [illegible]
- زندہ لاش
- [illegible] جاسوس
- عشقیہ ناول
- [illegible]

- دل فگار
- زن مرید
- چلتا پرزہ
- موتیوں کا جزیرہ
- دس پونڈ کا نوٹ
- [illegible]
- [illegible] کی نازنین
- [illegible] کی دولت
- [illegible] آتش
- [illegible]
- [illegible] کا قاتل
- عاشق شیطان
- سیتا
- پیرس کا غنڈا
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] دریا
- فریبی عورت
- [illegible] انجام
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- طوفان [illegible]
- [illegible]
- خوبصورت ناگن
- [illegible]
- شگوفہ محبت
- پریتم کی تلاش
- [illegible] شباب
- [illegible]
- [illegible] فاطمہ
- [illegible]
- [illegible]
- حسن پرست
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible] عاشق
- قانون عشق
- [illegible]
- [illegible]

- شہنشاہ عیاران
- طویلے کی بلا
- [illegible]
- [illegible]
- پراسرار شادی
- [illegible]
- روحوں کا اخراج
- وفادار بیوی
- [illegible]
- حکیم [illegible]
- طلسم بنگال
- جاسوسی عشقیہ ناول
- شہباز ڈاکو
- شہباز کی فراری
- شہباز کی بیٹی
- جوش انتقام
- [illegible] ڈاکو
- [illegible]
- عیاریاں
- خونی [illegible]
- حسرت دیدار
- نقلی تاجدار
- [illegible] دو حصے
- فرعون کی بیٹی
- آفتاب ایران دو حصے
- طلسمی قلعہ
- خونخوار [illegible]
- قلمی دستاویز کی چوری
- طلسمی انگوٹھی
- [illegible]
- [illegible] شہزادی
- [illegible]
- بہرام کی عیاریاں
- [illegible]
- داستان محبت
- ترکی شہزادہ
- چوری اور سینہ زوری
- باغی سردار
- [illegible] شہزادی
- [illegible] ڈاکو
- بیوی کا قاتل
- [illegible]
- جاسوسی کرشمہ
- پیا کی یاد
- مصری جادوگر

منیجر جنرل اسلامی سٹور لاہور

ہائے بیروزگاری تیرا ستیاناس! دنیا بیروزگاری سے تنگ آگئی اسکا واحد علاج یہ ہے کہ آپ ہماری دولت پیدا کرنیوالی کتابیں منگا کر پڑھیں۔ ملک میں صنعتی تحریک اور انقلاب پیدا کرنے کیلئے ہم نے یہ کتابیں طبع کی ہیں اور ملک نے انکا شاندار خیر مقدم کیا ہے!

کم سرمایہ سے تجارتیں قلیل سرمایہ سے معقول منفعت پیدا کرنے کی راہیں۔ چھوٹی چھوٹی تجارتوں سے ہزاروں روپیہ کمانے کے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

سبیل دولت دولت پیدا کرنے کے طریقے۔ مفلسی اور بیکاری کس طرح دور ہو سکتی ہے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

بیروزگاری کا علاج جو لوگ بیٹھے مفلسی کا رونا روتے ہیں انکو یہ کتاب منگا کر پڑھنی چاہیئے ۸ر رعایتی ۶ر

شاہراہ دولت امریکہ کے مشہور کروڑپتی مسٹر بارنم کا بچہ دولت پیدا کرنیکے اصول قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

مستند معاش کامیاب تاجروں کے حالات و تجربات معاش پیدا کرنے اور دنیا میں ترقی کرنیکے دو سو مختلف طریقے قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

حرفت و صنعت کا مکمل کورس آٹھ حصوں میں

بیروزگاری کا واحد علاج ہے۔ بیروزگاری نے ملک میں لاکھوں نوجوانوں کو تباہ حال کر دیا ہے۔ ہم نے یورپ، امریکہ اور جاپان کی تمام صنعتی کتابوں کا اس میں عرق کھینچ لیا ہے۔ اگر آپ بھی بیکار ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں قیمت حصہ اول عہ رعایتی ۱۲ر۔ دوم عہ رعایتی ۱۲ر۔ سوم عہ رعایتی ۱۵ر۔ چہارم عہ رعایتی ۱۵ر۔ پنجم عہ رعایتی ۱۵ر۔ ششم عہ رعایتی ۱۵ر۔ ہفتم ۴ر رعایتی ۳ر۔ ہشتم ۸ر رعایتی ۶ر۔ مکمل سیٹ ملے رعایتی [illegible]

مکمل مرغی خانہ

ہر مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو ہماری کتاب مکمل مرغی خانہ منگا کر پڑھیں۔ یہ کتاب پندرہ دفعہ چھپ چکی ہے ملک نے اس کو بے حد پسند کیا ہے۔ قیمت اصلی عہ رعایتی ۱۲ر

مرغبانی کا علاج مصنفہ نواب حاجی محمد اسمعیل صاحب آگرہ

مرغیوں کی پرورش تجارت علاج کے مکمل حالات رعایتی ۱۲ر

دندان سازی آپ اگر گھر بیٹھے دندان ساز بننا چاہتے ہیں تو ہماری دندان سازی منگا کر پڑھیں اسمیں مصنوعی دانت بنانے، دانتوں پر سونا چڑھانے، پالش چڑھانے جبڑا تیار کرنیکے مفصل حالات۔ عہ رعایتی ۱۲ر

مکمل صابن سازی ہر قسم کے دیسی انگریزی صابن بنانے کی مکمل ترکیبیں صابن کا کارخانہ بنانے اور اسکو تجارتی طور پر کامیاب کرنیکے حالات قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

اینملنگ یا تامچینی لوہے کے برتنوں اور سائن بورڈوں پر تامچینی چڑھانے کے طریقے۔ اینمل کا رنگ بنانے بھٹی کے ذریعہ رنگ چڑھانے کے مفصل حالات قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

کارخانہ دھلائی یا لانڈری سرد و گرم اور ہر قسم کے ریشمی پارچات دھونے ڈرائی کلین کرنے کی ترکیبیں دھوبی خانہ سے دولت کمانے کے حالات قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

گھڑی سازی گھڑیاں، ٹائم پیس، کلاک وغیرہ درست کرنے کا مکمل کورس اس کتاب کی مدد سے آپ بآسانی استاد گھڑی ساز بن سکتے ہیں۔ یہ کتاب باتصویر ہے قیمت عہ رعایتی ۱۲ر

داغ دھبے دور کرنا کپڑے، لکڑی، کاغذ، دھات وغیرہ سے داغ دھبے دور کرنے کے کیمیائی طریقے۔ ۲۲۵ مجرب نسخے انگریزی سے ترجمہ کر کے لکھے گئے ہیں۔ ہر گھر کیلئے یہ کتاب مفید ہے قیمت اصلی دس آنہ رعایتی ۸ر

گلٹ سازی بجلی کے ذریعہ مختلف دھاتوں پر گلٹ کرنیکے کیمیائی طریقے ۸ر رعایتی ۶ر

آتشبازی یورپین اور ہندوستانی آتشبازی بنانیکے ۵۰ مجرب طریقے جن سے آتشباز آتشبازی بناتے ہیں بارود فلیتہ وغیرہ تیار کرنیکی ترکیبیں ۸ر رعایتی ۶ر

تیل عطر بنانا ہر قسم کے خوشبودار تیل بنانیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

شربت سازی ہر قسم کے پھل پھولوں کے شربت بنانیکے طریقے ۸ر رعایتی ۶ر

دیا سلائی بنانا ہندوستان میں کروڑوں روپیہ کی دیا سلائی ہر سال باہر سے آتی ہے اس کتاب میں دیا سلائی کا کارخانہ بنانے مشین لگانے اور مختلف کارخانوں کے حالات درج ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

بسکٹ فیکٹری ہندوستان میں ہر سال لاکھوں روپیہ کے بسکٹ غیر ممالک سے آتے ہیں۔ ہندوستان میں بسکٹ بنانا کیمیاگری سے کم نہیں۔ ہر قسم کے بسکٹ، کیک، ڈبل روٹی بنانیکے مفصل حالات درج ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

ہر قسم کے روغن وارنش ہر قسم کے روغن وارنش بنانے، فرنچ اور جاپانی رنگ، بلیک جاپان وغیرہ تیار کرنیکے طریقے قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

وارنش پالش لکڑی، لوہا، پتھر، پیتل اور تانبہ وغیرہ پر پالش کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں قیمت ۸ر رعایتی ۶ر

رعایتی	اصل		رعایتی	اصل		رعایتی	اصل		رعایتی	اصل	
۴ر	۶ر	استاد فوٹوگرافی	۳ر	۴ر	[illegible]	۳ر	۴ر	سیلولائڈ یا پلاسٹک	۳ر	۴ر	مکمل ریوم گائیڈ
۳ر	۴ر	چھریاں چاقو بنانا	۶ر	۸ر	چینی کے برتن	۶ر	۸ر	[illegible]	۶ر	۸ر	دباغت چمڑا رنگنا
۳ر	۴ر	آئینہ سازی	۳ر	۴ر	نقلی جواہرات			مٹی کے برتنوں پر کلعی چڑھانا			روشنائیاں بنانا
۳ر	۴ر	فارمین بلٹ	۶ر	۸ر	[illegible]	۶ر	۸ر				مصنوعی دھاتیں
۶ر	۸ر	سیمنٹ بنانا	۶ر	۸ر	رسالہ خوشبویات بنانا	۶ر	۸ر	فوٹو گرافی	۶ر	۸ر	یا ملمع لگانا

رعایتی	اصل	
۶ر	۸ر	موم بتی بنانا
۳ر	۴ر	سلائی کی مشین
۶ر	۸ر	چینی مٹی اور
۱۵ر	عہ	اسکی مصنوعات
۱۲ر	عہ	آئینہ جواہرات

رعایتی	اصل	
۱۲ر	عہ	گھر کا درزی
۳ر	۴ر	لوہا ڈھالنا
۶ر	۸ر	رنگائی چھپائی
		کشیدہ کاری
۶ر	۸ر	استاد اشتہار نویسی

مطبوعہ ایم محمد حسین قریشی الیکٹرک پریس لاہور

منیجر جنرل سپلائی سنڈیکیٹ لاہور

محصول ڈاک بذمہ خریدار۔

خزائن الادویہ



خزائن الادویہ
آٹھ جلدوں میں

[illegible]

مجربات حفظ صحت

[illegible]

لطائف آشفتہ

[illegible]



[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	سلطان صلاح الدین	[illegible]	دیوان داغ	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	دیوان ذوق	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	دیوان غالب	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	دیوان [illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

طلسمات مسمریزم عرف کراماتی علم باتصویر

[illegible]

فن مسمریزم ہپناٹزم۔ روشن ضمیری علم الغیب و تھاٹ ریڈنگ پر ایسی نایاب و لاثانی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی

معزز شائقین! علم مسمریزم و ہپناٹزم کے سیکھنے سے بڑے بڑے عجیب و غریب حیرت انگیز کام کئے جا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے مراحل طے ہوتے ہیں۔ نئی نئی باتیں اور عجیبے دیکھنے میں آتے ہیں۔ انسان اس علم کے ذریعے ساحر اور اہل کشف و کرامات و باکمال جادوگر بن سکتا ہے اور بڑی بڑی پوشیدہ باتیں جان کر ساری دنیا کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ اس علم پر آپ نے بیسیوں بازاری و اشتہاری کتابیں دیکھی ہوں گی۔ مگر ہمارا دعویٰ ہے کہ فن مسمریزم و ہپناٹزم پر ایسی نادر الوجود مکمل و آسان عملی کتاب آج تک آپ کی نظروں سے کبھی نہ گذری ہوگی۔ کیونکہ اس میں ہندوستانی یوگیوں تارک الدنیا مہاتماؤں۔ سنیاسیوں و کراماتی فقیروں و امریکہ کے باکمال جادوگروں و مسمرائزروں کے سینوں کے راز جو کہ آج تک تحریر میں نہ آئے تھے۔ مسمریزم و جادو کے وہ راز جن کو اکثر ہندوستانی فقیر اپنے سینوں میں لیکر گوشۂ قبر میں چلے گئے مصنف نے ان رازوں کو بڑی محنت و جانفشانی سے حاصل کر کے اپنے ذاتی تجربات میں لا کر کتابی شکل میں ایسے عمل پیرایہ سے درج کیا ہے۔ کہ جن کو کند سے کند ذہن شخص بھی معمولی سمجھ والا بھی علم مسمریزم و باکمال جادوگر بن سکتا ہے۔ یہ کتاب کیا ہے۔ اسرار مسمریزم کا عملی و علمی خزانہ ہے۔ اس میں مسمریزم ہپناٹزم روشن ضمیری ٹیلی پیتھی و علم غیب دانی وغیرہ وغیرہ کے سینکڑوں عملیات و عملی اسباق معہ مکمل ہدایات کے ملیں گے۔ مختصر فہرست مضامین ملاحظہ ہو:۔ آغاز مسمریزم۔ مسمریزم کی ماہیت۔ مسمریزم کی تاریخ۔ یکسوئی قلب۔ یکسوئی دماغ۔ تصور۔ مسمریزم اور قوت۔ پھونک کا جادو۔ خیالات کا جادو و ساحر کے پردے۔ مشکلات سے چھٹکارا۔ پاگلوں کی نجات۔ کسی مجمع کو ہپناٹائز کرنا۔ ٹیلی پیتھی۔ مسمریزم کے ذریعے روپیہ کمانے کا طریقہ۔ بغیر ہوا تین دن تک زمین میں بند رہنا۔ انسان کو ہوا میں لٹکانا۔ انسان کو ہوا میں اڑانا۔ اڑتے ہوئے پرندہ کو مسمرائز کرنا۔ دوسرے کے دل کی بات آناً فاناً جان لینا۔ مدفون خزانوں کا پتہ دینا۔ مردہ روحوں سے ملاقات کے طریقے۔ انسان کو دوسرے قالب میں تبدیل کر کے دکھانا۔ دنیا کیسی [illegible] وقت کے لئے بیہوش کر دینا۔ کسی کو ڈاک و تار کے ذریعہ مسمرائز کرنا۔ مسمریزم کے ذریعے چوری کا سراغ لگانا۔ جادوؤں کو تسخیر کرنے کا طریقہ۔ گیان اندری کے درشن کرنا۔ بغیر غذا ایک سال تک زندہ رہ سکنا۔ مسمریزم کے ذریعہ سر سے لیکر پاؤں تک کی ہر ایک بیماری کا علاج بلا دوا کرنا اور گھر بیٹھے بیشمار دولت عزت و شہرت حاصل کرنا۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر دوسرے مقام کے آدمی کو ہپناٹائز کر کے تیسرے مقام کے آدمی سے عملی گفتگو کرنا۔ حب کے عملی سبق۔ تسخیر محبوب۔ ماہی بے آب کی طرح تڑپا دینے والا عمل۔ تسخیر قلب۔ ایرادی حسن۔ سنگدل کو موم بنانا۔ مقدمہ بازی و حاکم سے حسب منشاء کام نکلوانا۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل کا حال بتانے کا طریقہ۔ حلقہ بگوشی۔ ایک کو دوسرے پر فریفتہ کرنا۔ تسخیر محبوبہ جبکہ محبوبہ دور دراز کے علاقہ پر رہتا ہو۔ گذشتہ حالات جنگ کا نظارہ دکھلانا۔ مسمریزم کے ذریعہ کھائی ہوئی چیز بتا دینا۔ جن و آسیب کے اثر کو دور کرنا۔ ہمزاد کو دکھلانا۔ دماغی اجزا اور ان پر علم مسمریزم کے عمل کا نقشہ۔ ڈاکٹر [illegible] صاحب کے فلک شگاف تجربات۔ طلسم اولاد جن کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوتی ہو یا پیدا ہو کر مر جاتی ہو علم مسمریزم کے ذریعے حسب منشاء اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ علم غیب دانی کے تجربے دکھلانا۔ معمول کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسٹیج پر کھلا دینا۔ پھر وہ روشن ضمیر ہو کر حاضرین کے ہر سوال کا جواب و ہر ایک کے ہاتھ کی چیز فوراً جتلا دیگا۔ محض اسی کھیل کے ذریعے آپ کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ نظر بندی کے مختلف طریقے۔ دوسری دنیا کی سیر کرنا۔ وہ مقام پاک جہاں جا کے ظاہری ہوش و حواس کا پتہ نہیں رہتا۔ وہاں کے حالات قلمبند کرنا۔ ذاتی روشن ضمیری سے اپنے آپ کو طلسمی نیند میں سلا کر زمانہ گذشتہ و آئندہ کے حالات معلوم کرنا۔ ۱۰۰ سال تک تندرست و جوان رہنے کا راز۔ بدچلن کو نیک چلن بنانا۔ مرنے کا حال چھ ماہ پہلے معلوم کر لینا۔ مسمریزم کے ذریعے ہر قسم کی پیشگوئی یعنی آئندہ ہونے والے واقعات کو پہلے خواب میں معلوم کرنا۔ گمشدہ کا پتہ لگانا۔ بند صندوق کے اندر کی اشیاء بتلا دینا۔ کسی کے بالوں کو چھو کر اس کی بیتی ہوئی زندگی کے حالات بتلا دینا۔ چھڑی کو سانپ بنانا۔ مسمریزم کے ذریعے کاروبار کو ترقی دینا۔ فاصلے پر کھڑے ہو کر چراغ گل کر دینا۔ اندھیرے میں کتاب پڑھ لینا۔ مسمریزم کے آلے بنا کر سینکڑوں روپے کمانا۔ مسمریزم کا ایک کراماتی آئینہ تاکہ جس کو دیکھتے دیکھتے آپ روشن ضمیر ہو کر آپ اپنے آپ کو ایک فرحت افزا اور خوشبودار باغ میں پاؤ گے۔ اس کے درمیان سنگ مرمر کا ایک عالیشان محل واقع ہوگا۔ اس محل کے عین سامنے ایک بارہ دری واقع ہوگی۔ بارہ دری میں روحوں کا بادشاہ معہ ارکین کے جلوہ فگن ہوگا۔ وہاں سے ہر ایک سوال کا جواب ٹھیک ٹھیک ملیگا۔ خواہ تحریری خواہ زبانی۔ اس آلہ کو فروخت کر کے آپ سینکڑوں روپے کما سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے ساری دنیا کی سیر۔ مسمریزم کا ایک ایسا عمل جس کے ذریعے آپ رات کو سوتے وقت تمام ملکوں کی سیر۔ انگلینڈ۔ یورپ۔ افریقہ۔ امریکہ کی سیر بخوبی کر سکو گے جن سے آپ کو ایسی خوشی حاصل ہوگی۔ کہ اپنے آپ کو ہفت اقلیم کا بادشاہ سمجھنے لگو گے۔ مسمریزم کا آلہ پلانچٹ جس کے ذریعے مردہ روحوں سے بات چیت کی جاتی ہے جس کو وہ کا نظارہ یعنی چار روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ آپ بھی بنا کر فروخت کر کے روپیہ کما سکتے ہیں۔ مسمریزم کے ذریعہ بہشت کے درشن۔ دوزخ کا نظارہ۔ اسم اعظم مسمریزم کا وہ راز جس کو پا لیکر کوئی خواہش باقی نہیں رہتی ہے اس کے ذریعے عامل اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ [illegible] یعنی مسمریزم کے اس مشہور راگ کا نام ہے جس پر ساری دنیا فریفتہ ہے۔ جو انتہا درجہ کا مؤثر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس کے سنتے ہی انسان ایسا مست ہو جاتا ہے۔ کہ اسے دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ اس راگ کے حاصل کرنے کا مکمل عمل و سبق و ہدایات ہماری کتاب میں ملیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کے سینکڑوں طلسمات ہماری کتاب میں ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش چند ایک کا ذکر بیان کر دیا گیا ہے۔ زیادہ تو کتاب دیکھنے پر منحصر ہوگی۔ سچ پوچھو تو [illegible] کی مشہور کتاب [illegible] بھی ہماری کتاب طلسمات مسمریزم سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ممالک غیر [illegible] افریقہ۔ یورپ و امریکہ میں دو فیصدی آدمی اسی علم کے ذریعے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آرڈر کے ہمراہ رازداری کے علاوہ اس قسم کی ایک حلفیہ تحریر آنی چاہئے۔ کہ آپ ہمارے بتلائے ہوئے طلسمات و عملی اسباق سے ناجائز فائدہ ہرگز نہ اٹھائیں گے۔ ورنہ تعمیل نہ ہوگی۔ وجہ یہ کہ طلسمات مسمریزم کوئی اشتہاری یا بازاری کتاب نہیں ہے۔ جو کہ سراسر لغو اور بے بنیاد ہوتی ہیں۔ طلسمات مسمریزم کے عملیات بالکل آسان سہل الحصول اور زود الاثر ہیں۔ کسی دوا کے کرنے کی [illegible] پرہیز [illegible] نہ ہی کسی قسم کا نقصان و خطرہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی یہ علم [illegible] یا جنتر منتر وغیرہ سے ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کتاب طلسمات مسمریزم عرف کراماتی علم باتصویر مجلد عمدہ صرف [illegible] روپے جو کہ محنت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ تقریباً ہر ایک طلسم و سبق کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھلائی گئی ہیں تاکہ عامل ہر ایک بات آسانی سے سمجھ سکے۔ کاغذ عمدہ اور خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے۔ کتاب بہت ہی محنت و جانفشانی سے تیار کرائی گئی ہے۔ آج ہی طلب کرو۔ ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑیگا۔ اسکی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

پتہ:- دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس ۵ ملتان شہر

بیسویں صدی کا عجیب و غریب حیرت انگیز سب سے بڑا اندرجال بزبان اردو موسومہ

ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو باتصویر

تنتر ودیا پر مکمل اور لاثانی کتاب اس سے بڑھ کر دنیا بھر میں آپ کو کہیں سے نہ ملیگی

معزز ناظرین! اب جنتروں منتروں کا زمانہ گذر چکا ہے۔ ہر طرح سائنس نے ہر قسم کی مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ جو کام جنتروں منتروں کی کئی قسم کی تکلیفوں مصیبتوں اور عرصہ دراز کی محنتوں اور مشقتوں و چلہ کشی وغیرہ سے ہوا کرتے تھے۔ وہ آج تنتر ودیا سے نہایت آسانی سے حل کئے جاتے ہیں۔ اب نئی روشنی کا زمانہ ہے۔ جس میں پرانے توہمات سے خلق عامہ کی توجہ ہٹ کر اب تنتروں کی طرف آ رہی ہے جس کی وجہ ظاہر من الشمس ہے۔ کہ تنتر اپنی طاقت آپ ہی فوراً دکھا دیتے ہیں۔ اور اپنا تجربہ آپ ہی ہوتے ہیں۔ بس اس عالم کے متعلق دنیا بھر میں ابھی تک صرف یہی ایک ہی مکمل کتاب ہے جو کہ نہایت ہی آسان اور عام فہم اردو میں ایسے پیرایہ میں لکھی گئی ہے جس کو ایک بچہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور ہر قسم کا تنتر تیار کر کے کامیاب ہو سکتا ہے گویا کہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ایک قیمتی موتیوں سے ترتیب دی ہوئی مالا ہے جس کا ایک ایک تنتر موتیوں سے لدا پڑا ہے۔ بوجہ عدم گنجائش چند تنتروں کی فہرست درج ذیل کی جاتی ہے۔ ۱۔ اے میرے خدا یا پرماتما کے درشن کرنا O MY GOD ۲۔ استری وشی کرن تنتر۔ محبوب کو پان یا لائچی یا مٹھائی یا لونگ اور چیز کھلا کر مطیع کرنے کے تنتر۔ راہ چلتے محبوب سے آنکھیں لڑا کر مطیع کرنا پھول وغیرہ سنگھا کر محبوب کو مطیع کرنے کے تنتر۔ ایک ایسا زود اثر مجرب تنتر جس کے ذریعہ محبوب خود بخود آپ کے گھر چلا آئیگا۔ سب سے بڑا منتر جس سے تمام دنیا مسخر ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اولاد پیدا کرنے کا تنتر۔ اولاد نرینہ پیدا ہونے کا تنتر۔ حسب مرضی لڑکا یا لڑکی پیدا کرنا۔ غریب کو امیر اور امیر کو غریب بنانا۔ تنتر انسان کا حیوان اور حیوان کا انسان بنانا۔ تنتروں کی رات اور رات کا دن بنانا۔ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر سب کو دیکھنا مگر خود کسی کو نظر نہ آنے کے تنتر۔ کال گیان یعنی موت کا علم معلوم کرنے کا تنتر۔ موکلوں سے ملاقات اور بات چیت کرنے کا تنتر۔ احوال غیب جن یا بھوت و دیو تنتر تسخیر جن دریا یا آسمان سے سردی کی حالت میں پریوں کا اتر آنا۔ زمین میں سے ریل کا نکالنا اور درخت کا نمودار ہونا۔ اور اس پر پری زاد کا بیٹھے نظر آنا۔ زمانہ ماضی۔ حال مستقبل کے حالات معلوم کرنے کا تنتر۔ ہر قسم کی پیشنگوئی کرنے کا تنتر۔ میرا آج کا دن کیسے گذرے گا؟ درازی عمر کا مجرب تنتر۔ ۱۰۰ سال تک تندرست جوان بنے رہنے کا تنتر۔ بال ہمیشہ سیاہ رہنے کا [illegible] پکنے والا تنتر۔ ہوا میں اڑنے والا تنتر۔ سمندر میں تیرنے کا تنتر۔ پہاڑوں کی سیر۔ جادو کا سرمہ بنانا۔ سلیمانی چھڑی۔ دفینہ معلوم کرنے کا تنتر۔ تنتر کا لا آدمی۔ ہر بگڑے کو آسان بنانا۔ مجرب تنتر۔ چلتے کتوں کو پکڑ کرنا۔ لوگوں کی نظر بندی کا تنتر۔ بے موسم انبیاں۔ جہاز ریل کو تنتری طاقت سے چلنے سے روک دینا۔ آسمان پر یکایک سخت بجلی چمکنے لگے جب ہی چلتے۔ بارش کرنا۔ طوفان کو کچھ دیر میں پانی بھر دینا۔ [illegible] کاٹ سکیگی تنتر پانی کا دودھ بنانا۔ تنتر [illegible] کبھی نکل سکے۔ تخت آسمان سے ایک عجیب و غریب حیرت انگیز رنگ سنائی دینے والا تنتر۔ دن کو [illegible] والا تنتر۔ جنگل میں منگل یعنی تھوڑی دیر میں جنگل باغ بن جاتے ہیں۔ گمشدہ اشخاص کے پتہ لگانے والا تنتر۔ سفر میں [illegible] لاثانی پانی اور آگ پہ چلنے والے تنتر۔ سر سے پاؤں تک کی تمام بیماریوں کا علاج تنتروں سے کرنا۔ ستارہ قسمت کے منحوس اثرات کو فوراً بدل دینا۔ تنتر دماغی امراض سے آپ کو محفوظ کرنا۔ بچھو و سانپ کے کاٹے کا علاج [illegible] تنتر۔ پیچش تنتر یا ہیضہ کا آسان علاج۔ ولادت میں آسانی۔ بغیر دوا کے [illegible] امساک پیدا کرنا۔ جماع میں [illegible] تعویذ آب حیات یعنی زندگی بخش میٹھا پانی تیار کرنے والا تنتر۔ پاگل کتے کے کاٹے کا علاج۔ سفر میں کامیابی حاصل کرنے والا تنتر۔ غائب کی باتیں معلوم کرنے کا تنتر۔ دوسرے کے دل کی بات جان لینے کا تنتر۔ عورت کا بھید معلوم کرنے کا تنتر۔ سگریٹ والا عمل یعنی سگریٹ کو جیب کے کسی حصہ پر لگا کر دھواں منہ سے آئیگا۔ سینکڑوں قسم کے شعبدات تیار کرنا۔ جادو کی تنتروں کے الفاظوں کے ہزاروں تنتر تیار کرنا۔ طلسمی [illegible] یعنی گھر بیٹھے دستی چھاپہ خانہ بنانے کا طریقہ مکمل ہدایات وغیرہ جس کے ذریعہ آپ معقول روزگار پیدا کر سکتے ہیں [illegible] سینکڑوں رقم [illegible] سربمہر لفافوں کی عبارت کو پہچان لینا جو کہ اشتہارات تمام اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ جادو کی انگوٹھی بنانے کا عمل اور اصل طریقہ جس کے ذریعہ ہر قسم کے پوشیدہ راز ظاہر ہوتے ہیں اور نہایت عجیب و غریب روحانی کرشمات نظر آتے ہیں جس کا اشتہار دیکر [illegible] جادو کی گھڑی یا چھلہ بنانے کا طریقہ۔ وہ آلہ بنانا جس سے معلوم ہو سکے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس کو فروخت کر کے آپ ایک معقول ذریعہ روزگار پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسرے کے دل کا بھید معلوم کرنے والا آلہ یعنی سائنس کا ایک ایسا عجیب و غریب حیرت انگیز آلہ بنانا جس کو کسی سوتے ہوئے بالغ مرد یا عورت کے دل پر رکھدیں وہ خود بخود خواب کی حالت میں بڑبڑا کر اپنے دل کا بھید بتلا دیگا۔ اسی آلہ کے بنانے کا طریقہ آپ کو ہماری کتاب میں ملیگا۔ دوکاندار لوگ اس آلہ کو بنا کر چار چار پانچ پانچ روپیہ میں فروخت کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کو بنا کر سینکڑوں روپے ماہوار کما سکتے ہیں۔ سٹہ و لاٹری کا نمبر معلوم کرنے کا آسان و مجرب تنتر۔ چونکہ آپ کو کسی دوسری کتاب میں نہ ملیگا۔ ہماری کتاب کے آخر میں آپ کو سٹہ و لاٹری کے نمبر معلوم کرنے کا مکمل سبق مع ہدایات و لاثانی تنتر ملیگا۔ جس کو آپ اور کسی سے حاصل نہ کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ غرضیکہ ہماری کتاب ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو باتصویر میں اسی قسم کے ایک ہزار سے زائد تنتر آپ کو ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش صرف چند تنتروں کا ذکر بیان کیا ہے زیادہ حال دیکھنے پر معلوم ہوتی ہیں کہ ایک ایک تنتر [illegible] کا ہے [illegible] رکھ دیتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کیا انسان ہمارے **اندرجال** کا مطالعہ کرے اور فریفتہ نہ ہو جائے۔ الغرض کتاب کیا ہے کتاب ایک چھپا ہوا تنتروں کا مجموعہ ہے۔ جو کہ کئی سالوں کی لگاتار محنت و مشقت و زر کثیر خرچ کر کے تیار ہوئی ہے جس کا ایک ایک تنتر سہل العمل مجرب المجرب اور لاکھوں روپیہ کا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت اس نادرہ نایاب بڑا اندرجال موسومہ ہمالہ تنتر عرف لنکا کا جادو باتصویر کی اگر ۱۰۰ روپیہ بھی رکھی جائے فی الحقیقت ہے کہ ہم نے اس کی اصل قیمت صرف دس روپیہ مقرر کی ہے مگر اس خیال سے کہ کم استطاعت کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لئے رعایتی قیمت صرف اول ایڈیشن کی ہر شخص کیلئے صرف چار روپے لی جاتی ہے۔ جو کہ مفت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تنتروں کے ساتھ ساتھ آسانی سے سمجھنے کے لئے موقع بموقع تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ کاغذ عمدہ اور خوبصورت جلد تیار ہوئی ہے۔ آج ہی طلب کرو۔ کیونکہ اس کی مانگ سب سے زیادہ ہے۔ صرف چند جلدیں باقی رہ گئی ہیں۔ [illegible] اس امر کی ایک حلفیہ تحریر آنی چاہئے۔ کہ ہمارے تیار کردہ اندرجال کے تنتروں سے ناجائز فائدہ ہرگز ہرگز نہ اٹھائیں گے۔ ورنہ تعمیل ارشاد نہ ہوگی۔

خبردار! آجکل کے نقالوں و حاسدوں کی نیت پر اس قسم کی نقلی و فرضی کتابیں فروخت ہو رہی ہیں۔ لہذا آپ کم قیمت کے لالچ میں آکر اپنا روپیہ [illegible] سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں تنتر ودیا پر مکمل کتاب موجودہ اصلی اندرجال کتاب سوائے ہمارے کارخانہ کے [illegible] روپیہ سے کم قیمت پر آپ کو ہرگز نہ ملیگا۔ نقل مشہور ہے [illegible] روپیہ بار بار [illegible] ایک بار۔ شرط۔ ناپسند آنے پر یا غلط ثابت ہونے پر کتاب واپس لی جاتی ہے۔ [illegible] فائدہ اٹھا سکتا ہے

پتہ:- دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس نمبر ۵ ملتان شہر

گھر بیٹھے علم مسمریزم و ہپناٹزم عمل حب تسخیر ہمزاد و تنتر و جادو سیکھنے کی عجیب و غریب کتب جنکی ملک بھر میں دھوم ہے ملاحظہ فرمائیے

قانون محبت عرف کالا جادو

(عمل حب کا مکمل کورس)

کہاں ہیں وہ بدنصیب عشاق جو دیدار یار کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کو آمادہ ہیں۔ آئیں اور کالا جادو کے ذریعے وصل یار کا لطف حاصل کریں۔ کالا جادو کو عام اشتہاری یا بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا۔ جس میں ناممکن العمل اور لایعنی عملیات ہوتے ہیں۔ بلکہ اس میں حسینوں کو تسخیر کرنے اور ان کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے عجیب و غریب حیرت انگیز خفیہ کالے جادو آپ کو ملیں گے۔ جن کو عمل کرنے کے لئے کسی جنگل یا پہاڑ پر نہیں جانا پڑتا۔ بلکہ گھر بیٹھے چند گھنٹوں میں ہر ایک عمل کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ [illegible] کارآمد ہو جاتا ہے۔ قانون محبت کے مطالعہ سے آپ کا دامن امید گوہر مراد سے بھر جائیگا اور ایسی خوشی حاصل ہوگی کہ لفظوں میں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کالا جادو کے ذریعے پتھر دل معشوق کو اپنا مطیع کرنا۔ حاکم یا افسر کو اپنے اوپر مہربان بنانا۔ دشمن کو زیر کر کے اپنا فرمانبردار بنا لینا۔ ہر انسان کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر کل مخلوق کو دیکھنا۔ مگر خود کسی کو نظر نہ آنا۔ آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو سکیگا۔ مختصر فہرست عملیات کالا جادو ملاحظہ ہو:۔ دوسروں کو [illegible] مطیع کرنا۔ بذریعہ گفتگو بس میں کرنا۔ قوت ارادی و بذریعہ مسمریزم دوسروں کو بس میں کرنے کے طریقے۔ وہ جادو جو کہ بنگال میں کسی کنواری لڑکی سے حاصل کیا گیا ہو۔ جادوؤں والا مکمل عمل۔ بیبیوں ناخنوں والے جادو۔ بنگالی کھیر والا عمل۔ دیوالی کی رات والا عمل۔ سورج گرہن و چاند گرہن پر پڑھنے والے عملیات۔ سیاہ کتے والا عمل۔ بلی کا عجیب و غریب عمل۔ پھول و عطر پر پڑھنے و سنگھانے والے عملیات۔ سیاہی والا عمل۔ ریشمی کرن پیدا [illegible] بس میں کرنے والے کا عمل۔ وغیرہ وغیرہ بوجہ عدم گنجائش ہم نے صرف چند ہی کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ مگر کتاب کالا جادو میں آپ کو عمل حب کے ڈھائی سو (۲۵۰) کالے جادو پچاس عملی اسباق بمعہ مکمل ہدایات و ترکیب کے ملیں گے۔ جن پر عمل کرنے سے آپ ہر شخص کو مطیع کر کے اپنی حسب منشاء کام نکلوا سکتے ہیں۔ ہمارے اسباق و عملیات نہایت ہی آسان اور سیدھے سادھے ہیں۔ دوران عمل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا دقت پیش نہیں آتی۔ نہ ہی کسی قسم کا خوف و ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ ہی یہ عملیات کسی مذہب و ملت کے خلاف ہیں۔ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر مذہب و ملت کا آدمی ہمارے عملیات و اسباق کے ذریعے کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کالا جادو فی جلد رعایتی صرف دو روپیہ [illegible] ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

اسرار ہمزاد عرف زندہ جادو باتصویر

تسخیر ہمزاد کا مکمل کورس

ہمارا دعویٰ ہے کہ تسخیر ہمزاد پر ایسی نایاب کتاب اردو زبان میں کبھی شائع نہیں ہوئی۔ گو [illegible] میں تسخیر ہمزاد کے بڑے بڑے دعوے کئے جاتے ہیں۔ مگر کتابوں کی مدد سے کتنے آدمیوں نے ہمزاد کو دیکھا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہر شخص کو پہلے روز ہمزاد دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے اسباق نہایت آسان اور سیدھے سادے ہیں۔ جن کے ذریعے ہمزاد پہلے ہی دن نظر آ جاتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ مشق سے چند روز میں آپ سے ہمکلام ہوگا۔ اور آپ کا ہر مشکل سے مشکل کام سرانجام دے سکیگا۔ تسخیر ہمزاد کے ذریعے ہر شخص گھر بیٹھے انواع و اقسام کے تحفے بے موسم کے پھل۔ نیز دور دراز کی خبریں پل بھر میں منگوا سکتا ہے۔ نیز پتھر دل معشوق کو فوراً مطیع کرنا۔ گمشدہ کی تلاش کرنا۔ موت کا حال چھ ماہ پہلے معلوم کرنا۔ لاعلاج اور مہلک بیماریوں کا علاج منٹوں میں کرنا۔ دوسرے کے دل کی بات جان لینا۔ نیز زمانہ ماضی۔ حال۔ مستقبل کے حالات معلوم کرنا۔ عامل کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ تھوڑے دنوں میں آپ کے اندر ایک نمایاں تبدیلی واقع ہوگی۔ اور ہمزاد آپ کو بے اندازہ دولت سے مالا مال کر دیگا۔ ہماری کتاب میں تسخیر ہمزاد کے ۹۰ عملیات بمعہ چند عملی اسباق و مکمل ہدایات کے ملیں گے۔ مختصر فہرست ملاحظہ ہو:۔ تسخیر ہمزاد کے لئے ہدایات و دستور [illegible] قوت ارادی۔ تصور۔ قوت خیال کے ذریعے تسخیر ہمزاد و ہدایات عامل۔ تیاری۔ احتیاطیں۔ [illegible] آئینہ یا پتھر دل سے ملاقات کا عمل۔ تسخیر ہمزاد [illegible] بذریعہ مسمریزم۔ ہمزاد مسخر ہونے کے بعد کی ضروری باتیں اور ہمزاد سے کام لینا۔ ہمزاد کے ذریعہ پیشنگوئی۔ ہمزاد کو [illegible] کا عمل۔ ہمزاد سے کیا کام لے سکتے ہیں۔ غیبی خبروں کا پتہ دینا۔ ہمزاد کے ذریعہ سفر کرنا۔ ہمزاد کے ذریعہ سمندر میں تیرنا وغیرہ وغیرہ۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت اسرار ہمزاد باتصویر فی جلد صرف دو روپے [illegible] ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔ (نوٹ) ہمزاد کو پہلے روز دیکھنے کی ترکیب ہمراہ مفت ملیگی۔

تاش کے کھیلوں کا مکمل کورس

تاش میجک بک باتصویر

۵۰۰ روپیہ نقد انعام اس شخص کو دیا جائیگا جو یہ ثابت کر دے کہ اردو زبان میں تاش کے کھیلوں پر ایسی جامع اور مکمل کتاب اس سے پہلے بھی شائع ہو چکی ہے۔ یوں تو آپ نے تاش کے کھیلوں کی عام یا بازاری کتابیں بہت سی دیکھی ہونگی۔ مگر حال ہی میں ایک لائق اور مستند پروفیسر نے نہایت ہی آسان اور بالکل سیدھے سادے تاش کے کھیلوں کی ایک ایسی مکمل اور ضخیم کتاب تیار کی ہے جس کے مطالعہ سے ایک بچہ بھی تاش کے کھیلوں کو سیکھ کر پروفیسر بن جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے استادوں کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ اس لاجواب کتاب میں آپ کو وہ عجیب و غریب حیرت انگیز کھیل ملیں گے جن کو لوگ جادو اور مسمریزم خیال کرتے ہیں۔ اور جن کے ایک ایک کھیل سیکھنے پر [illegible] پروفیسروں کو پچاس پچاس روپیہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر آپ صرف دو روپیہ خرچ کر کے گھر بیٹھے [illegible] کھیل سیکھ کر [illegible] کافی روپیہ کما سکتے ہیں۔ مثلاً بادشاہ کی بیگم اور بیگم کا بادشاہ بنانا۔ ستے کا چھکا بنانا۔ تاش کی سل بنانا۔ کسی آدمی کا دیکھا ہوا پتہ [illegible] کر [illegible] تاش کا [illegible] بنانا۔ پتوں کو [illegible] چھوٹا ہو کر غائب ہونا۔ تاش کا [illegible] تاش کے پیچھے [illegible] سیاہ ہو جاویں۔ تاش کے پتے کا [illegible] پتہ کا [illegible] بادشاہ تاش میں مختلف جگہ ڈال کر ایک جگہ اوپر سے نکالنا۔ سادہ تاش کے پتوں کو [illegible] تصویر کے خالی پتے اور خالی پتوں کی تصویریں بنانا۔ کسی آدمی کا دیکھا ہوا پتہ [illegible] تصویروں کا [illegible] وغیرہ وغیرہ ہر ایک کھیل باتصویر [illegible] کیا گیا ہے۔ نیز پانچ چھ آدمیوں کے سوچے ہوئے پتے بتلانا۔ سولہ پتوں کا کھیل۔ [illegible] کے عجیب و غریب حیرت انگیز کھیل [illegible] ڈبل رول میں سے [illegible] کسی کا دیکھا ہوا پتہ تاش میں ملا کر [illegible] جہاں سے کوئی کہے وہاں سے نکال دینا۔ دیکھا ہوا پتہ [illegible] دیکھتے دیکھتے اپنی جیب اور کوٹ سے نکالیں۔ [illegible] کے عجیب و غریب کھیل۔ غرضیکہ اسی قسم کے دو صد کے قریب تاش کے کھیل اس کتاب میں ملیں گے۔ جو کہ شستہ اور سلیس اردو میں لکھے گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی دی گئی ہیں۔ لیکن بوجہ عدم گنجائش ہم نے صرف چند ہی کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت تاش میجک بک فی جلد دو روپیہ (۲) (نوٹ) ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

پتہ:۔ دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس نمبر ۵ ملتان شہر

مارکیٹ میں سب سے پہلے ہم نے اصلی اُلو تنتر کو شائع کیا

اُلو تنتر عرف خفیہ جادو باتصویر (رجسٹرڈ)

فنِ جادو و عملیات پر اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی کتاب نہ ملیگی

اسکے سامنے

دُنیا جہان کے تمام نئے و پرانے جنتر منتر تنتر جادو۔ ٹونے تعویذ گنڈے وغیرہ ہیچ و ناکارہ ہیں:

ناظرین! فنِ جادو و عملیات کی یہ وہ نادر و نایاب کتاب ہے جس کے لئے مدت سے ساری دنیا ترس رہی تھی۔ روئے زمین کا ہر فرد و بشر۔ ہندو۔ مسلمان۔ سکھ۔ عیسائی اس امر کا بخوبی قائل ہے کہ پرندہ اُلو (جس پر تمام دنیا فریفتہ ہے) کے ہر ایک اجزا میں بڑی بھاری عجیب و غریب و غضب کی طاقتیں بھری پڑی ہیں۔ اور اس کے ذریعے عجیب و غریب و حیرت انگیز کام نکلوائے جاسکتے ہیں۔ اُلو تنتر کو عام اشتہاری یا بازاری کتابوں میں شمار کرنا سراسر ظلم ہوگا۔ جن سے نمستانوں اور قبرستانوں کی خاک چھان کر کئی چلے کاٹتے ہوئے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے مگر ہماری کتاب میں آپ کو پرندہ اُلو کے نہایت عجیب و غریب و آسان تین صد تنتر ملیں گے۔ جن کے ذریعے آپ دنیا کا بڑے سے بڑا کام منٹوں میں حل کرکے دنیا میں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ مثلاً عمل حُب یعنی معشوقوں کو تسخیر کرنے اور ان کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے بہت سے عجیب و غریب و آسان تنتر آپ کو ملیں گے۔ نیز اُلو کے ذریعے غریب کو امیر اور امیر کو غریب بنانا۔ دشمن کو دوست بنانا۔ بے وقوف بنانے کا تنتر۔ گذشتہ جنم یاد آنا۔ پاتال کے درشن کرنا۔ سینکڑوں میل بلا امکان سفر کرنا۔ پری کی عجیب و غریب عمل۔ حسب منشا شادی کرانا۔ ایام گردش کو راہ راست پر لانا۔ نیز اُلو کا سُرمہ لگا کر راہ چلتے آدمیوں کو ویران میں کرنا۔ آچاٹن۔ گھر سے بے گھر کرانا۔ دولت میں و دفینے میں اول نمبر رہنا۔ زہریلے سانپ کاٹنے کا علاج۔ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ کر کل مخلوق کو دیکھنا۔ مگر خود کسی کو نظر نہ آنا۔ سلیمانی سُرمہ بنانا۔ مخلوق علوی و سفلی کو دیکھنا۔ اُلو کا مجن تیار کرنا۔ عدالت عالیہ یعنی [illegible] دربار نظر آنا۔ بھوتوں کی دنیا دیکھنا [illegible] میں پاس ہونا۔ [illegible] کے لئے [illegible] کرامات۔ [illegible] و حیوانات سے محفوظ رہنا۔ دشمن کے گھر کو تباہ و برباد کرنا۔ حاضرین مجلس کو خوش کرنا۔ دن کو تارے نظر آویں۔ [illegible] نظر آنا [illegible] آسیب زدہ مکان فارغ کرانا۔ بھوت پریت کو دفع کرنا۔ جنگ و جدل میں کامیابی حاصل کرنا۔ اور [illegible] سے [illegible] نیز اُلو تنتر کے ذریعہ جادو وغیرہ بیماریوں کا علاج کرنا۔ نیز [illegible] سے مہلک بیماریوں کا علاج مثلاً [illegible] کھانسی۔ تاپ تلی۔ سیلان الرحم۔ درد گردہ۔ درد پیٹ۔ دردسر۔ چوتھئے کا بخار۔ نامردی سستی۔ قوت باہ۔ سانپ کا ڈسنا۔ مرگی۔ [illegible] وغیرہ کا علاج منٹوں میں کیا جاسکتا ہے۔ نیز اکسیر سونا [illegible] کا آسان عمل [illegible] لاجواب تنتر آپ کو ہماری کتاب میں ملیں گے۔ علاوہ ازیں .... اُلو تنتر کے ذریعے دن کی رات و رات کا دن بنایا جاسکتا ہے۔ نیز شراب کا نشہ۔ شاہی لنگر جاری کرنا۔ [illegible] بہشت کا نظارہ۔ تماشہ [illegible] علم الغیب۔ [illegible] زن مرید۔ ناز برداریاں۔ [illegible] دولت کا چشمہ۔ خون بند کو جاری کرنا۔ عجیب و غریب آوازیں۔ [illegible] کا پانی کرنا۔ [illegible] سے مقابلہ۔ پہاڑ سے ٹکر۔ ایک کے دو۔ آگ [illegible] حاصل کرنا۔ اولاد نرینہ پیدا ہو۔ سگائی کرانا۔ روزگار لگنا۔ سرگرداں و پریشان کرنا۔ زن کو قابو کرنا۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کرکے۔ آدھے سر کا درد دور کرنا۔ [illegible] کا اکسیر تنتر۔ تصویر یار [illegible] رنگ برنگی دنیا۔ جادو کے پھول۔ جادو کا حلوہ۔ بندر کا ناچ۔ شیطان کی تانی۔ چور پکڑے میں۔ دلفریب جال۔ [illegible] آگ۔ جدائی [illegible] زبان بندی۔ زلف ناگن۔ [illegible] مسافر۔ [illegible] معرفت کی راہ۔ شاہزادہ [illegible] میدان میں کامیابی حاصل کرنا۔ [illegible] ناگن۔ خواب خرگوش۔ [illegible] کی گرج۔ [illegible] ایک لوٹے سے اتنا پانی نکلے۔ کہ کبھی ختم نہ ہو۔ عمل زمین و آسمان [illegible] میں۔ [illegible] صورت کی شکل کو سیاہ بنا دینا۔ اور پھر توبہ کرانے پر اصلی شکل میں لانا۔ رستم عالم یعنی ایک ہی [illegible] سے بڑے بڑے پہلوان کو چت گرا دینا۔ [illegible] طلسمات عجیب۔ حاکم بس میں۔ افیون کی زحمت۔ عجیب لاٹو۔ دیوانا۔ [illegible] جادو کا [illegible] پانی۔ طوفان کا پانی۔ درد دل۔ جام جہاں نما۔ طلسماتی گھوڑا۔ موتیوں کا [illegible] جادو کا قلم یعنی اس قلم سے آپ [illegible] تحریر یا دعا یا تعویذ وغیرہ لکھ کر دیں گے۔ تو یقیناً وہ سائل کامیاب ہوگا۔ تحریر خواہ کسی زبان میں ہو۔ مثلاً اردو۔ ہندی۔ انگریزی۔ گورمکھی۔ ناگری۔ گجراتی۔ [illegible] وغیرہ صاف سہل الفاظ میں تحریر ہو۔ جادو کا [illegible] یعنی اُلو کا ایک ایسا تنتر کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے آپ دیکھتے دیکھتے ایک [illegible] سانپ بن جاوینگے۔ اس کے بعد ہیبت ناک شکل کا دیو بن جاوینگے۔ بعد ازاں آپ بوڑھے سادھو سنیاسی کی شکل میں بدل جاوینگے۔ اور اس کے بعد فوراً غائب ہو کر اپنے اصلی روپ میں آجاویں گے۔ غرضیکہ اس تنتر کے ذریعے ہر شخص غالب پر غالب (اچھیا دھاری) انسان بن کر [illegible] میں چاہے بدل سکتا ہے۔ علاوہ ازیں کتاب اُلو تنتر میں آپ کو اس قسم کے تین صد اُلو تنتر ملیں گے۔ بوجہ عدم گنجائش ہم نے چند تنتروں کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ زیادہ خوبی دیکھنے پر منحصر ہوگی۔ نیز اُلو کو پکڑنے اور اُلو کو سدھانے کے طریقے بھی ہماری کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اور ساتھ ہی اُلو کو شراب پلانے کا عمل بھی بمعہ تصویر کے درج کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعے اُلو خود بخود آپ کے سامنے بول اٹھیگا۔ اور اپنی تمام خصوصیات خود بخود آپ کو بڑی سنجیدگی سے سنا دیگا۔ جس کے سننے سے آپ کی حیرانی کی کوئی حد باقی نہ رہیگی۔ گویا اُلو اپنے تمام تنتر خود بخود اپنی زبان سے بیان کرتا چلا جاوے گا۔ باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت کتاب **اُلو تنتر عرف خفیہ جادو باتصویر** رعایتی فی جلد **تین روپے** ہے، جو کہ مفت کے برابر ہے۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ قریباً ہر ایک تنتر کے ساتھ ساتھ آسانی سے سمجھنے کے لئے موقع بموقع تصویریں دکھائی گئی ہیں۔ کاغذ ولائیتی اور خوبصورت جلد بندھی ہوئی ہے۔ غرضیکہ کتاب نہایت محنت اور صاف لفظوں میں زر کثیر صرف کرکے تیار کرائی گئی ہے۔ چونکہ آج تک دنیا بھر کی کسی زبان میں کسی کتب خانہ میں شائع نہیں ہوئی۔ آج ہی فوراً طلب کرو۔ ورنہ اگلے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ اس کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ (**نوٹ**) ناپسند آنے یا غلط نکلنے پر واپسی کی شرط ہے۔

پتہ:- دفتر دی آل انڈیا میجیکل ہاؤس نمبر ۵ ملتان شہر

نازنینوں پر فتح پانے کے نسخہ جات



فاسفوجین

اگر آپ کا شمار ان نوجوان بوڑھوں میں سے ہے جو آغاز شباب میں ہی اپنی جوانی کا اپنے ہاتھوں ستیاناس کر چکے ہوں۔ اگر آپ کی جوان بیوی خون کے آنسو رو رہی اور سر دھن کر رہ جاتی ہو۔ اگر آپ کی جوانی کی امنگوں پر پانی پھر گیا ہو۔ اگر آپ کے اندر جوہر مردمی کمزور اور زائل ہو چکا ہو تو آپ فوراً فاسفوجین PHOSPHOGENE کا استعمال کریں جو کہ چند روز میں ہی آپ کے اندر جوانی کی روح پھونک دیگی اور زندگی کو پُر لطف اور شادکام بنا دیگی جوانی کی غلطیوں اور کثرت مباشرت سے پیدا شدہ جسمانی دماغی اور اعصابی کمزوریوں کو دور کر کے جسم کے اندر طاقت کا ایک امڈتا ہوا سمندر موجزن کر دے گی۔ اس کی ہر ایک گولی میں فاسفورس یوہمبین اور دامیانہ جیسی مقویات کی مقدار خاص طور پر شامل کی گئی ہے۔ قیمت فی شیشی ۴۰ گولی ایک ماہ کیلئے [illegible]

فرنچ آئنٹمنٹ طلا

یعنی فرانسیسی طلا۔ اس طلا کے چند روزہ استعمال سے مردہ رگوں اور پٹھوں میں نئی زندگی عود کر آتی ہے۔ اور ابھری ہوئی نسوں کا گندہ مواد حل کر تمام کجی کوتاہی اور لاغری دور ہو جاتی ہے۔ آبلہ یا زخم نہیں پڑتا اور نہ ہی کوئی ٹیس پیدا ہوتی ہے۔ قیمت فی شیشی مکمل شفا کیلئے [illegible]

آلہ نامردی



ولایت کا انتہائی سائنٹیفک کمال اس آلہ کے ذریعہ نامردی کے دفعیہ کے لئے جسمانی خون کی شفا بخش تاثیر سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی شیشہ کی نلکی کو مقامی طور پر لگا کر نلکی کی ہوا خارج کر کے خلا پیدا کیا جاتا ہے جس سے خون صالح کی ایک کثیر مقدار عضو کے اندر کھنچ آتی ہے اور مردہ رگیں اور شریانیں اس خون سے غذا حاصل کر کے از سر نو زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس طرح مقامی نقائص اور نامردی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کسی بیرونی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر قسم کی نامردی کا شرطیہ مکمل اور مستقل علاج۔ ایک آلہ سینکڑوں مریضوں کے کام آ سکتا ہے۔ باوجود ان خوبیوں کے قیمت صرف پانچ روپیہ۔ آلہ خاص فربہی اور درازی کے لئے انگریزی پمپ والا۔ جو لوگ بیس روپیہ کو بیچتے ہیں قیمت صرف بارہ روپیہ آٹھ آنہ۔ محصولڈاک دونوں حالتوں میں ایک روپیہ تین آنہ۔ آدھی قیمت پیشگی آنا لازمی ہے۔

آلہ احتلام

جن بدقسمت نوجوانوں کا متاع شباب رات کو شیطان کے ہاتھوں لٹ جاتا ہو ان کیلئے یہ آلہ ایک نعمت ہے۔ اس عجیب و غریب آلہ کو رات کو سوتے وقت مقامی طور پر لگا لینے سے احتلام قطعی ناممکن ہو جاتا ہے۔ یقیناً چند ہی روز اثر دکھاتا ہے۔ قیمت صرف ایک [illegible]

برتھ کنٹرول

یعنی زیادتی اولاد کی روک تھام کیلئے برتھ کنٹرول آلہ جات۔ ان آلہ جات کی مدد سے بغیر نقصان کے اولاد کا پیدا کرنا طرفین کی مرضی پر موقوف ہو جاتا ہے۔ نیز اگر طرفین میں سے کوئی آتشک یا سوزاک جیسی متعدی مرض میں مبتلا ہو تو فریق ثانی خطرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ بیکاری اور غربت کے زمانہ میں ان کا استعمال خداداد نعمت ہے۔ مردوں کیلئے فرنچ لیدر درجہ اول ایک پیکٹ [illegible] درجہ دوم ۱۲ / درجہ سوم ۸ / درجہ چہارم ۴ / - کراکوڈائل خول جو کہ عورت کو مسخر کرنے میں جادو کا اثر رکھتے ہیں فی عدد بارہ آنے ۱۲ /

امساک

لطف کی گھڑیوں کو لمبا کرنے کو کس کا جی نہیں چاہتا انسان کے اندر یہ قدرتی خواہش ہے کہ ہم بستری کے لطف کو جتنی دیر زیادہ ہو سکے قائم رکھے ہماری وائروٹنٹ VIROTENT نامی گولیاں اس مطلب کے لئے اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ سرعت کی ندامت سے بچنے اور تسخیر قلب محبوب کا واحد ذریعہ ہیں۔ شوقین مزاجوں کے لئے نایاب تحفہ ہیں۔ قیمت ۲۰ گولی صرف دو روپے [illegible]

طلسماتی چٹکی

یعنی کنٹریکٹور CONTRACTEUR نامی سفوف کے مقامی استعمال سے عورت مثل باکرہ بن جاتی ہے۔ نیز عورتوں کی ہر قسم کی [illegible] سیلان الرحم وغیرہ کو بند کرنے میں یہ سفوف اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ [illegible] قیمت فی شیشی [illegible]

جوبن کا ابھار

عورت کی خوبصورتی تک اسکے ابھرے ہوئے جوبن پر منحصر ہے۔ جن عورتوں کی چھاتیاں بوجہ بے احتیاطی یا کثرت اولاد کے لٹک گئی ہوں ان کے دل سے ذرا پوچھئے۔ زیادہ کیا لکھیں۔ بسٹو بریس BUSTO BRACE کے بیرونی استعمال سے بدنما ڈھلکی ہوئی چھاتیاں کنواری لڑکی کی مانند سخت اور مضبوط ہو کر [illegible] بن جاتی ہیں جسم میں جوانی کی شان پیدا ہو کر خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ قیمت فی شیشی [illegible]

سرمہ ممیرہ

آنکھیں خوبصورتی اور محبت کا سرچشمہ ہیں۔ مرد ہو یا عورت دونوں کے چہرے کی زینت آنکھوں کی صحت پر موقوف ہے۔ اگر آنکھوں میں سرخی دھند غبار جالا پھولا پڑوال۔ [illegible] وغیرہ [illegible] ہوں تو [illegible] کسی پر بھی اپنا جادو نہیں ڈال سکتے۔ ہمارا سرمہ ممیرہ جس کو انگریزی میں کاپٹیسٹریم COPTISTYRIUM کہتے ہیں آنکھوں کی بالا تمام شکایات کو رفع کر دیتا ہے۔ [illegible] سفید بالوں [illegible] قیمت فی شیشی [illegible]

نوٹ

ہماری ہر ایک دوائی یا آلہ کے ساتھ [illegible] ترکیب استعمال ضرور ہو گا۔
محصولڈاک اور پیکنگ کا خرچ ہر حالت میں بذمہ خریدار ہو گا۔

پتہ فرنچ ناولٹی سٹورز [illegible] لاہور

چیزیں منگاتے وقت جنتری کا حوالہ ضرور دیں

[illegible]

مقامات اشاعت مشہور عالم جنتری ۱۹۳۶ء

[illegible]



PANDIT

GIRDHARI LAL

[illegible]

SIALKOTI-1836-LAHORE

پنڈت گردھاری لال [illegible] لاہور

[illegible]

CALL No. { ۵۲۹۰۳ ... ACC. No. ۲۳۵۵۹
AUTHOR [illegible]
TITLE [illegible]

AZAD LIBRARY A.M.U

Date	No.	Date	No.

MAULANA AZAD LIBRARY

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

-:RULES:-

1 The book must be returned on the date stamped above.

2 A fine of Re 1/- per volume per day shall be charged for text-books and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue.